


يَا أَيُّهَا الْبَرِّ إِذَا دَرَسْتَ الْكُورُونِيَّاتِ شَهِدْنَا وَمَبَشِّرْنَا وَنَذِرْنَا لَهُ مَا نَعْلَمُ فَإِذَا أَطَلَّتَهُ سَرَّخْلَمِيَّاتِهِ

لے پیا ہے تھی اہم نے تمہیں رب کو اہنا کر بھیجا ہے (نیز ہم نے تھمیں ہر طریقی
بشاہیں سنانے والا اور نافرمانی پر تشبیہ کرنے والا) نظریں بنا کر بھیجا ہے اور تم تو انہے طیف
خلوق کو اسکے حکم سے بلانے والے ہو اور تم تو سائے جگ کو روشن کرنے والے شخص نور ہو

میکال دنامیک

فِي الْعَلَمَاءِ وَمُحَمَّدِيْنَ مَا قَفَتِ بِمُؤْزِ شَرِيعَةٍ وَمَنْ حَضَرَتِ بِنَيَادِهِ مَوْلَانَا وَمَرْشِيْدِهِ
أَبُوا حَسَنِ نَاسِيْدِ عَبْدِ اللَّهِ شَاهِ غُشْنَبَدِيْ مُحَمَّدِيْ قَادِرِيْ
قدس اللہ عزیز علیہ



بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

قُلْ بِفَضْلِ اللّٰهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذٰلِكَ فَلَيَفْرَحُوا

نور کا چھڑکاہے اب جا بجا
ذکر ہے اس شاہ کے مولود کا

جو مسلمان آپ کے ہیں امتی
ان پر واجب ہے تولد کی خوشی

سامعین ہر دم کہو صل علی
ہے بیان میلاد کے سامان کا

لو مسلمانو! مبارک باد ہے
نام اس شب کا ہب میلاد ہے

مومنوں کے دل پر فرحت ہے نمود
قدیماں پڑھتے ہیں الحمد اور درود

میلاد نامہ

(مؤلفہ)

فخر العلماء والحمد شين واقف رمز شریعت و دین حضرت سیدنا و مولانا و مرشدنا
ال الحاج ابوالحسنات سید عبد اللہ شاہ نقشبندی مجددی قادری قدس اللہ سرہ العزیز

بہر پرستی

حضرت مولانا ابوالخیر سید رحمت اللہ شاہ نقشبندی مجددی
خلف و خلیفہ حضرت ممدوح

بہ اہتمام:

حضرت ابوالغیض سید عطاء اللہ شاہ نقشبندی و قادری مجددی
مدظلہ العالی خلف حضرت ابوالبرکات

تفصیلات کتاب

نام کتاب میلاد نامہ

تصنیف حضرت ابوالحسنات سید عبد اللہ شاہ نقشبندی و قادریؒ


قیمت ایک سو پھپس روپے۔

طباعت جنوری 2006ء

ناشر

لکھنوری طبع ہے ایک سیلہ اونڈہ پبلیشنز

500 002 23-2-378
PHONE : 24562203 , 24521777 , 55710230



فہرست مضمون میلاد نامہ

صفحہ نمبر	عنوانات	ابواب و فصول
	حمد و نعمت	
	باب اول	
۱۱	نور محمدی ﷺ کے پیدا ہونے سے لے کر حضرت آدمؑ کو تفویض ہونے کے بیان میں۔ تمام کائنات کی تخلیق سے پہلے نور محمدی ﷺ پیدا ہونا۔.....	فصل - ۱
۱۲	نور محمدی ﷺ سے ساری کائنات اور عشق محمدی پیدا ہونا۔..... اللہ تعالیٰ کا، نور مبارک پر طرح طرح کی سرفرازیاں فرمانا۔.....	فصل - ۲
۱۳	نور مبارک کا سرفرازیوں کے شکرانہ میں دوگانہ ادا کرنا۔.....	فصل - ۳
۱۴	نور مبارک ﷺ کا امت محمدی کی مغفرت چاہنا۔..... نور مبارک سے تخلیق عرش اور تخلیق قلم اور تخلیق جنت۔.....	فصل - ۴
۱۵	ان حالات کی صراحة جو قلم بننے کے بعد واقع ہوئے۔..... ان اعمال کی صراحة جو جنت میں جانے کے لئے ضروری ہیں۔.....	فصل - ۵
۱۶	نور مبارک ﷺ کا پیدائش کے ساتھ ہی تجھی ہونا۔..... تمام انبیاء کا نور مبارک پر ایمان لانا۔.....	فصل - ۶
۱۷	روزِ میثاق السُّبُّ برکم کے جواب کے وقت تمام انبیاء کا نور محمدی ﷺ کے جواب کا منتظر رہنا۔..... حضور ﷺ کی دیگر انبیاء پر فویض و برتری۔.....	فصل - ۷
۱۸	نور مبارک سے تخلیق خلیفۃ اللہ۔..... ضرورت خلیفۃ اللہ۔.....	فصل - ۸
۱۹	عطائے عشق و محبت۔..... نور محمدی ﷺ کے حضرت آدمؑ کو تفویض کیتے جانے کے بیان میں۔.....	فصل - ۹

بَابُ دُوم

۳۲	اَلْبَيْسُ کی دھوکہ دہی کا تفصیلی ذکر اور گمراہ کرنے کی فطرت کا بیان۔	فصل - ۱
۳۳	اَلْبَيْسُ کی سرکشی اور انسان دشمنی۔	فصل - ۲
۳۴	اَنْسَانَ کو شیطان سے دشمنی کرنے اور اللہ تعالیٰ کے قاصد حضور ﷺ سے دوستی کرنے کی ترغیب۔	فصل - ۳
۳۵	شیطان کی سرکشی اور تکبر کا تقابل خاصانِ خدا کے عجز سے۔	فصل - ۴
۳۶	اللہ تعالیٰ سے محبت میں اَلْبَيْسُ کی ناکامی۔	فصل - ۵
۳۷	اَلْبَيْسُ کی ابتدائی خطاؤں پر خدا کا درگذر فرمانا۔	فصل - ۶
۳۸	اَلْبَيْسُ پر اللہ تعالیٰ کا عتاب۔	فصل - ۷
۳۹	آدم کی خطاء اور اَلْبَيْسُ کے گناہ پر سوالات اور ان کے جوابات کا تقابل۔	فصل - ۸
۴۰	آدم کی توبہ کی قبولیت اور اَلْبَيْسُ کی توبہ کی عدم قبولیت کی تفصیلی بحث۔	فصل - ۹
۴۱	اَلْبَيْسُ کے معتوب ہونے کے باوجود قیامت تک زندہ رہنے کی دعاء قبول ہونے کی وجہات۔	فصل - ۱۰
۴۲	اَلْبَيْسُ کا عالم، جاہل، زاہد، عوام و خواص کو بھٹکانے کا ارادہ۔	
۴۳	اللہ تعالیٰ کے اَلْبَيْس سے ارشادات۔	
۴۴	شیطان جیسے سرکش کو پیدا کرنے غرض و غایت۔	
۴۵	اَلْبَيْسُ کے فریبوں سے نچنے کی تدابیر۔	
۴۶	حضرت آدم علیہ السلام کو اَلْبَيْس کی دھوکہ دہی کا بیان۔	
۴۷	اللہ تعالیٰ کو اَلْبَيْس سے دشمنی کی وجہ۔	
۴۸	آدم کا اپنے کو حضور ﷺ سے برتر خیال کرنا۔	

بَابُ سُوم

۴۸	حضرت آدم علیہ السلام کو اَلْبَيْس کی دھوکہ دہی کا بیان۔	فصل - ۱
۴۹	اللہ تعالیٰ کو اَلْبَيْس سے دشمنی کی وجہ۔	فصل - ۲

۶۰	ابليس کی حضرت آدم کو فریب دہی۔	فصل - ۳
۶۲	آدم کا ابلیس کے فریب میں آکر نافرمانی کرنا اور اس کے منحوس اثرات۔	فصل - ۴
۶۳	حضرت آدم کا عرش پر بعض تحریرات دیکھ کر ہونے والی لغزش کے خوف سے پریشان ہونا۔	فصل - ۵
	لوح محفوظ پر مردو دیت کی تحریر دیکھ کر فرشتوں کا پریشان ہونا۔ دو گنہگاروں کا جواب اور ایک کی مقبولیت اور دوسرے کی مردو دیت۔	
۶۶	حضرت آدم علیہ السلام کے زمین پر اترنے کا بیان۔	فصل - ۶
۶۸	اولاد آدم کو بے شمار گناہوں کے باوجود جنت ملنے کے ذرائع۔	فصل - ۷

بَابُ چَهَارَمْ

۷۱	نور مبارک ﷺ کے ساتھ حضرت آدم سے لیکر ولادت باسعادت تک پیش آنے والے واقعات۔	فصل - ۱
۷۲	الله تعالیٰ سے آدم کی دوری کی وجہ سے ان کی کی روح کی بے قراری اور اللہ تعالیٰ کا تسکین دینا۔	فصل - ۲
۷۳	نکاح آدم اور مہر حمدؑ۔	فصل - ۳
۷۴	حضرت شیعثؑ کو حضرت آدم کی وصیت۔	فصل - ۴
۷۵	حضرت ہاشم، حضرت عبدالمطلب، حضرت عبد اللہ میں نور محمدی ﷺ کی برکات۔	فصل - ۵
۸۱	شب میلاد کی فضیلت اور وقت ولادت کی خوشی۔	فصل - ۶
۸۲	حضور ﷺ کی ولادت کی خوشی منانے کا ثبوت۔	فصل - ۷
۸۵	سرکار اقدس ﷺ کا شکم آمنہ میں تشریف گلانے سے ولادت باسعادت تک کے واقعات۔	فصل - ۸
۱۰۳	حلیہ شریف مراپائے مبارک صلی اللہ علیہ وسلم۔	فصل - ۹
۱۰۷	ام مقدس محمد ﷺ کے فضائل اور برکات۔	

باب پنجم

	حضرت ﷺ کے رسول بناؤ کر بھیجے جانے کی غرض و عایت -	
۱۱۷	مال داروں کو پیغمبر نہ بنانے کی وجہات -	فصل - ۱
	نبی اور ولی ہونے کی دولت کا عوام سے مخفی ہونا -	
۱۲۲	دولت مندوں کو پیغمبر نہ بنائے جانے کے دلائل -	فصل - ۲
۱۲۳	حضرت ﷺ کا انشاء رسالت کامل طور پر ادا کرنا -	فصل - ۳
۱۲۹	نور ہدایت کی خصوصیات اور تأثیرات -	فصل - ۴
۱۳۵	اتباع و محبت نبی ﷺ کی تفصیلات -	فصل - ۵
۱۳۹	حقیقی محبت اور اس کے ثمرات و فوائد -	فصل - ۶
۱۴۸	احکام خداوندی پر عمل کرنے کے لئے حضور اقدس کو نمونہ بنانا -	فصل - ۷
۱۵۲	حضور ﷺ کی عظمت کا دیگر انبياء کی عظمتوں سے مقابل -	فصل - ۸
۱۶۸	اتباع اور پیروی کے لئے ہم جنس ہونے کی ضرورت -	فصل - ۹
۱۷۷	حضور اقدس ﷺ کا امت کی خاطر تکالیف اٹھانا -	فصل - ۱۰
۱۸۱	امت مرحومہ کو حضور ﷺ کے غلام بنئے ، اور کامل پیروی کی ترغیب کے لئے سرکار اقدس کی دنیا و آخرت میں شفقتوں کا بیان -	فصل - ۱۱
۱۹۷	حضور ﷺ کے اس امت پر حقوق -	فصل - ۱۲
	(۱) حیات النبی ﷺ تا قیامت کے ثبوت اور برکات -	خاتمه
۲۱۹	شجرہ حضرات نقشبندیہ	
۲۲۱	شجرہ حضرات قادریہ	

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

نَحْمَدُهُ وَنُصَلِّیْ عَلٰی رَسُوْلِهِ الْكَرِيْمِ

حمد و نعمت



حمد

وَهُوَ الَّذِي أَنْشَأَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ فَمُسْتَقْرٌ وَمُسْتَوْدِعٌ قَدْ فَصَّلْنَا الْآيَاتِ

لِقَوْمٍ يَفْقَهُونَ ۝

(سورہ انعام پ ۷۸) اور وہی قادر مطلق ہے جس نے تم سب کو ایک تن واحد (آدم علیہ السلام) سے پیدا کیا، پھر (ہر ایک شخص کیلئے) ایک وقت مقرر ہے (کہ اس وقت تک دُنیا میں رہے) اور (مرے پیچھے) سونپے، (یعنی دُنی کی جگہ) جو لوگ (بات کو) بوجھتے ہیں ان کے لیے تو (ہم اپنے قدرت کی) نشانیاں (خوب تفصیل کے ساتھ بیان کر رکھے ہیں)

اللہ تبارک و تعالیٰ نے آیت مذکورہ میں معرفت حاصل کرنے کا طریقہ بیان فرمایا ہے آئینہ رکھا ہوا ہے جس کا جی چاہے منہ دیکھ لے، اس پر بھی اگر کوئی نہ دیکھے تو اس کا قصور ہے آئینہ کیا کرے۔

ایسا ہی تمام مخلوق آئینہ ہے اس میں خدا یے تعالیٰ اپنا جلوہ دکھاتے ہیں، اگر کوئی نہ دیکھے تو اس نہ دیکھنے والے کا قصور ہے۔

ڈور کیوں جاتے ہو ایک انسان ہی کو دیکھ لو، بے کتنی خدا کے بندے آئے گئے اور آئیں گے۔

هُوَ الَّذِي أَنْشَأَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ

ان سب بندوں کو ہم نے ایک ذات آدم سے بنایا

انسان کے حالات پر غور کرو کس قدر مختلف ہیں، کوئی گورا، کوئی کالا، کوئی دبلا، کوئی موٹا، کوئی لانا، کوئی کوتاہ، کوئی عقل مند، کوئی احمق، کوئی امیر، کوئی فقیر، غرض ہزار ہا احوال ہیں۔

فَمُسْتَقْرٌ وَمُسْتَوْدَعٌ

پھر ہر ایک شخص کے لیے ایک وقت مقرر ہے

پھر کوئی باپ کی پیٹھ میں بطور امانت رکھا گیا ہے، تو کسی کو ماں کے پیٹ میں ٹھیرا یا ہے، اگر کسی کو دُنیا میں چند روز کے لیے رکھا ہے تو کسی کو مدت دراز کے لیے قبر میں سلا یا ہے، ان سب میں اسی کی قدرت کا جلوہ نظر آئے گا، اگر یہ اس کی قدرت کی کاریگری نہیں تو اور کیا ہے، اللہ تعالیٰ پھر فرماتا ہے:

قَدْ فَصَّلْنَا الْآيَتِ لِقَوْمٍ يَفْقَهُونَ

یہ سب سمجھدار لوگوں کے لیے ہے بے سمجھوں کے لئے کچھ بھی نہیں

اگر کوئی یہ شبہ کرے کہ تمام انسان ایک ذات آدم سے نہیں بنے ہیں بلکہ آدم اور حوا علیہما السلام دونوں سے بنے ہیں۔ پھر خداۓ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم نے سب انسان کو ایک ذات سے بنایا ہے اس کا کیا مطلب ہے؟

اس کا جواب یہ ہے کہ سب انسان ایک آدم ہی سے بنے ہیں وہ اس طرح کہ جب آدم علیہ السلام بن چکے اور جنت میں ان کو رکھا گیا کوئی ہم جنس نہ ہونے سے بے لطفی ہو رہی تھی ایک روز آدم علیہ السلام پر نیند کا غلبہ تھا، آدم سور ہے تھے کہ آپ کی بائیں پھصلی سے حوانیں، اس طرح اصل میں تو ایک ذات آدم ہی کی ٹھیری، حوا بھی آدم ہی سے بنیں، آدم اور حوا کے ملنے سے تمام انسان بنے مگر اصل پر غور کریں تو سب آدم ہی سے بنے ہیں۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ”ہم انسان کو ایک ذات آدم سے بنائے“۔

انسان کی تخلیق اور بناؤٹ کے اقسام اور پر بتادیئے گئے۔ اللہ تعالیٰ کی اس کاریگری پر غور کرنے کے بعد اب اللہ تعالیٰ کے انسان پر احسانات اور انسان کی ناشکری پر غور فرمائیے۔

انسان سے اللہ تعالیٰ کا خطاب :-

او بھو لے ہوئے انسان ! جیسا تو ہم کو بھولا ہے ایسا ہی اپنے کو بھی بھولا ہے اگر تو ذرا غور کرتا تو تجھ کو میرا پتہ لگ جاتا اور میری قدرت اور عظمت کی تصویر تیرے آنکھوں کے سامنے کچھ جاتی ، تجھ کو معلوم ہو جاتا کہ میں کیسا قدرت والا ہوں اور کیسی عظمت والا ہوں۔ ایک ”گن“ سے ساری کائنات بنایا اور خاک سے تیرا پتلا بنایا ، اور جس جس کی ضرورت تھی وہ سب کچھ دیا۔ اس سے میرے علم کا پتہ لگتا ہے کہ میں کیسا علم والا ہوں اور اس کے ساتھ ساتھ ہی کیا قدر داں بھی ہوں کہ تجھ جیسے کو اپنا دوست بنایا اور میں خود تیرا دوست بنایا ، مگر افسوس کہ تو بڑا ہی ناشکر انکلا۔

جس طرح کہ کوئی نالائق غلام اپنے مالک کی مہربانی دیکھ کر جرأت کرنے لگتا ہے اور اپنے مالک کے ساتھ برابری پر آ جاتا ہے ، مالک کے حقوق کو پامال کرتا ہے اور مالک کا کوئی حق ادا نہیں کرتا۔ ایسا ہی تو ہماری اس مہربانی کی وجہ ہمارا انکار کرتا ہے اور ہمیشہ ہمارے خلاف پر تلا رہتا ہے۔

او بے کس و بے بس انسان ! معلوم ہوتا ہے کہ تو اپنی ہستی بھول گیا ، تجھے اپنی ناچاری اور مجبوری یاد نہ رہی ، کیا تجھ سے بڑھ کر بھی کوئی عاجز ہے ؟ ذرا اپنی اصلیت کو تو دیکھ تو خاک تھا اور نطفہ ، جب دُنیا میں آیا تو مجبور ایسا کہ کمھی تک اڑانے کی قدرت نہ تھی ، اور جب جوان ہوا تو سمجھا ہم بھی کچھ ہیں ، لگا مالک ہی کا انکار کرنے اور ہمیشہ اس کی مخالفت کرنے۔

اب بھی انسان کے اندر ذرا دیکھو ، پیٹ میں گوہ بھرا ہوا ہے اور مثانہ میں پیشتاب ، رگوں میں خون ، ناک میں ریٹ ، کان میں میل ، منہ میں تھوک ، ایسا معلوم ہوتا ہے کہ ایک نجاست پر چڑا امڑا ہوا ہے۔

اے انسان ! تیرے سے وہ چیز نکلتی ہے اور تو اس کو اپنے ہاتھ سے دھوتا ہے جس کے دیکھنے سے کراہت آتی ہے اور اس کی بو جان لیتی ہے۔

حضرت علی رضی اللہ عنہ ، فرماتے ہیں کہ عورت تیرے لیے طرح طرح سے آراستہ ہوتی ہے اور تو سب چھوڑ کر اس کی بخش جگہ کا ارادہ کرتا ہے۔ اے انسان حضرت کے اس مقولہ سے اپنے پر غور کیا کہ تیری ذہنیت میں نجاست اور بخش مقام کس طرح جم گیا ہے۔

طرح طرح کی بیماریاں تیرے پیچھے لگی ہوئی ہیں، اگر ایک رگ میں درد اٹھے تو تجھ سے سدھا نہیں ہو سکتا، اور تو مجبور ہو جاتا ہے، دیکھ یہ تیری ظاہری حالت ہے۔

ذرا اپنے باطن پر غور کیجیے تو معلوم ہو گا کہ یا تو جانور ہے یا درندہ، جانوروں جیسے کھانے پینے، جماع کے خواہشات اور جسمانی لذات کے ظلمات ہیں، یا درندہ پن کے عادات۔ البتہ ایک چیز تیرے پاس ہے جس کے سامنے فرشتے بھی یقین ہیں اسی کے سبب سے ایک عالم میں تیری دھوم پھی ہوئی ہے وہ کیا ہے؟ وہ دل ہے مگر ہائے تو اسی کو جس سے تیری چاؤ ہے، سیاہ کوئلہ بنادیا ہے، خدا کے طرف سے منہ پھیرا ہوا ہے، دُنیا میں تیرا دل پھنسا ہوا ہے، جب تو خدا کے سامنے آتا ہے تو اس طرح آتا ہے۔

إِذَا الْمُجْرِمُونَ نَاكِسُوا رُءُوفِهِمْ وَسِهْمُ عِنْدَ رَبِّهِمْ (سورہ سجدہ پ ۲۱ رکوع ۲)

جب مجرم ہمارے سامنے آئیں گے شرم کے مارے سروں کو نیچے جھکائے ہوئے رہیں گے۔

نعت

ہائے انسان! تیری یہ ذلیل حالت دیکھی نہیں جاتی، اس لیے غافلوں کو چونکا نے جانوروں کو آدمی بنانے، درندوں کو صلح کل، سیاہ دلوں کو نورانی دل بنانے۔

آمنہ کی گود سے ایک چاند نکل کر سوتوں کو جگایا، غافلوں کو چونکایا کہ لوگو! تم جانور نہ بنو، تم درندہ نہیں ہو، تم درندہ پن چھوڑو۔ تم سیاہ دل لے کر نہیں آئے ہو، تمہارا دل سادہ تھا، دل کو جلا دے کر، اس کو نورانی بنائ کر، مظہر تجلیات بنانے کے لیے آئے ہو تو دل کو مظہر تجلیات بناؤ۔

تو آں دست پور مرغ گستاخ ○ تو وہ ہاتھوں پر پلا ہوا گستاخ پرندہ ہے
کہ بودت آشیاں بیرون ازیں کاخ ○ تیرا گھونسلا تو اس محل سے باہر تھا
چڑازاں آشیاں بے گانہ گشتی ○ کیا ہوا تجھ کو تو اپنے اصلی مقام کو کیوں بھولا
چودو ناں پھنڈاں دیرانہ گشتی ○ چند کی طرح اس دیرانی دُنیا میں پھنس گیا

جس کے تم پہلے مونس تھے یہاں بھی اسی کے مونس بنو۔

فِيْ مَقْعَدِ صِدْقٍ عِنْدَ مَلِيْكٍ مُّقْتَدِرٍ (سورہ قرب ۲۷ ع ۳)

(چی عزت کی جگہ پادشاہ دو جہاں قادر مطلق کے مقرب ہو جاؤ گے)

باب اول

قَدْ جَاءَكُمْ مِنَ اللَّهِ نُورٌ وَكِتَابٌ (غرض کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے تمہارے پاس مُبین) (سورہ مائدہ پ ۶ ع ۳) نور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن آچکا ہے)

پہلا باب نور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پیدا ہونے سے لے کر حضرت آدم علیہ السلام کو توفیض ہونے تک کے بیان میں

فصل - ۱

تمام کائنات کی تخلیق سے پہلے نور محمدی ﷺ پیدا ہونے کے بیان میں

هُوَ الَّذِي أَنْشَأَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ

اس سے پہلے اس آیت کے جو معنی بیان ہوئے اس سے صاف اور صریح معنی جو بے وقت جنتے ہوں اور بے تاویل بنتے ہوں وہ اور ہی ہیں، اگرچہ پوچھئے تو اس آیت کے اصلی معنی وہی ہیں۔ وہ یہ ہیں کہ: وہ قدرت والا خدا جس نے تمام عالم کو، خاص کر انسان کو ایک نور محمدی صلی اللہ علیہ وسلم سے بنایا۔

اسی لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں ”أَوَّلُ مَا خَلَقَ اللَّهُ نُورٍ“ (سب سے پہلے جو چیز اللہ تعالیٰ نے بنائی وہ میرا نور ہے)

جب اللہ تعالیٰ نے نور محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا کیا تو اس وقت سوائے اللہ تعالیٰ کے کچھ نہ تھا۔ نہ عرش

تھانہ فرش، نہ آسمان نہ زمین۔ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے نور مبارک کو پیدا کیا، پھر اس نور مبارک سے پوچھا کہ تم کون ہو؟ نور مبارک نے کہا، الہی! میں بندہ ہوں اور آپ ”وَهَاب“ ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا بندہ کی تعریف کیا ہے اور وَهَاب کی تعریف کیا ہے۔ نور مبارک نے کہا بندہ وہ مملوک ہے جس پر اپنے مولا کی اطاعت واجب ہے وہ میں ہوں اور وَهَاب وہ ہے جو اپنے بندہ کو جو چاہے عنایت کرے وہ آپ ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا جو کچھ تم چاہو مانگو۔ نور مبارک نے عرض کیا میرا یہ مطالبہ ہے کہ آپ مجھ کو یہ بتلائیے کہ میں آپ کو کس نام سے یاد کروں اور کس طرح آپ کی عبادت کروں، خدا تعالیٰ نے جس طرح چاہا بلاؤ اس طھے اس نور کو تعلیم فرمایا۔ اس لیے فرماتا ہے ”وَعَلِمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمُ“ (سورہ نساء پ ۵ رکوع ۷۱) اللہ نے آپ کو وہ سکھایا جو آپ نہیں جانتے تھے۔

اس خلوت میں جس قدر عرصہ تک خدا کو منظور تھا نور محمدی صلی اللہ علیہ وسلم رہا۔ ایک زمانہ دراز کے بعد پھر وہ نور عرض کیا، الہی! عبادت کی کیفیت بتائیے۔ اور ایک مکان میرے واسطے بنائیے تاکہ میں اس مکان میں آپ کا نام لیتا رہوں، اور آپ کی عبادت کرتا رہوں۔

خداۓ تعالیٰ نے ایک آئینہ خانہ بنایا اور ”مضباح العزة“ اس کا نام رکھا۔

نور محمدی صلی اللہ علیہ وسلم اس میں رہنے لگا، اس کے بعد اس آئینہ خانہ کے اوپر عرش کو پیدا کیا، اور اس آئینہ خانہ کو مثل قندیل کے عرش پر لٹکا دیا۔

عرش بننے سے پہلے ہی نور مبارک اس قندیل میں داخل ہو چکا تھا اور حضور گناہ نور مبارک اس آئینہ خانہ میں رہنے لگا۔ دو ہزار برس تک اللہ کہتا رہا۔ پھر دو ہزار برس تک رحمن، رحمن اور اسی قدر مدت تک رَحِیْم، رَحِیْم کہتا رہا۔ اللہ تعالیٰ کے نام جو ہزار سے زائد ہیں، ہر نام کو دو دو ہزار برس ذکر کرتا رہا۔

اس اثناء میں جب اسم قَهَّار پر پہنچا اور اس میں فکر کیا تو کہنے لگا کہ اس اس کے معنی تمام اشیاء کی ہلاکت کو چاہتے ہیں۔ نور مبارک پر اس اسم قَهَّار کی ایسی ہیبت طاری ہوئی کہ پسینہ پسینہ ہو گیا۔ قطراتِ نور پکنے

لگے، ان قطروں سے اللہ تعالیٰ نے پیغمبروں کے ارواح کو پیدا کیا۔ ہر ایک پیغمبر کی روح کو ایک قندیل میں رکھ کر تمام پیغمبروں کے قندیلوں کو نورِ محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کے اطراف لٹکا دیا۔

یہ سب پیغمبروں کے ارواح حضرت کے نور سے تسبیح و تہلیل سن کر شاگردوں کی طرح تسبیح کرنے لگے۔

جب نورِ مبارک اسم عدل پر پہنچا اس کے معنی پر غور کیا تو کہا کہ یہ اسم فضل عظیم اور کثرتِ نعمت کو چاہتا ہے، اس وقت نور مبارک پر شرم غالب ہوئی، پسینہ کے قطرات ملکنے لگے، ان قطروں سے خدائے تعالیٰ نے مسلمانوں کے ارواح کو پیدا کیا۔

مسلمانو! تم کس پاک روح کے قطرے ہو، گناہوں سے پاک ہی رہو، مسلمانو تمہارا اصل ماذہ حضرت کے ہی نورِ مبارک سے ہے، کچھ غیر نہیں، تم ڈالیاں ہو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پیڑ ہیں، وہ تم سے ہیں اور تم ان سے ہو، اگر ڈالیاں پیڑ کا خلاف کریں تو پیڑ کا کیا بگرتا ہے خود سوکھ جائیں گے۔ ایسا ہی حضرت کا خلاف کر کے تم خود پچھتاوے گے حضرت کا کیا نقصان ہے۔

پیڑ کا یہ خاصہ ہے کہ جہاں تک ہو سکے ڈالیوں کو نفع پہنچاتے رہتی ہے، خود کیڑے کا صدمہ سہتی ہے، مگر ڈالیوں کو بچاتے رہتی ہے، اس لیے حدیث شریف میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میری اور تم لوگوں کی مثال ایسی ہے کہ کسی شخص نے چراغ جلایا روشنی پھیلنے لگی، پروانے آ کر گرنے لگے، وہ شخص ان پروانوں کو کھینچتا ہے، مگر وہ پروانے چراغ پر گرتے ہی جاتے ہیں۔

ایسی ہی دوزخ کی آگ میں تم گرتے ہی جاتے ہو، اور میں تمہاری کمریں پکڑ پکڑ کر آگ سے نکالتا ہوں، اور تم گرنے ہی کی فکر کرتے ہو۔

صاحب! اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو گے تو خدائے تعالیٰ سے امید ہے کہ جس طرح ہم پیدائش سے پہلے قندیل میں حضرت کے ساتھ تھے اسی طرح مرنے کے بعد بھی آپ کے ساتھ رہیں گے۔

اس مذکورہ مضمون سے پہلے نورِ محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو سلسلہ آرہا تھا اب وہ سلسلہ پھر شروع ہوا ہے۔

بیان ہو رہا تھا کہ سب سے پہلے نورِ محمدی صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوا۔ اگر کسی کو یہ شبہ ہو کہ آپ تو سب سے آخر پیدا ہوئے، آپ سے سب چیزیں کیسی بنیں اس کو سمجھنے کے لیے ایک مثال پر غور کیجیے جس سے معلوم ہو گا کہ سب چیزیں آپ ہی سے بنیں گو کہ آپ سب سے آخر میں پیدا ہوئے، غور کیجیے کہ پہلے گنھلی زمین میں بوتے ہیں اس سے جھاڑ نکلتا ہے پھر پیڑ ہوتا ہے، ڈالیاں بنتی ہیں، پتے نکلتے ہیں، پھر پھول آتا ہے، پھر پھل لگتا ہے اس کے بعد سب سے آخر میں گنھلی بنتی ہے شروع میں گنھلی ہی تھی اور آخر میں بھی گنھلی، حقیقتاً جو کچھ بنا سب کچھ گنھلی سے بنا۔ ظاہر اس سے آخر گنھلی بنی جو تمام جھاڑ کا خلاصہ ہے ایسا ہی شروع میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نور تھا، آپ ہی کے نور سے سب عالم بنا، سب عالم کے آخر میں خلاصہ موجودات ہو کر آپ ہی بنے۔

پیش از ہمہ شاہانہ غیور آمدہ سب پیغمبروں سے پہلے آپ ہی کا نور پیدا ہوا

ہر چند کہ آخر بہ ظہور آمدہ اگرچہ بظاہر سب سے آخر میں تشریف لائے ہوں

اے ختم رسول قرب تو معلوم شد یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب رسولوں سے آخر میں آپ آئے ہیں۔

دیر آمدہ ازرة دور آمدہ آپ جو قرب الہی حاصل ہے وہ اس سے معلوم ہوا کہ آپ کا دیر سے آنادور راستہ سے ہوا ہے۔

یعنی اس قدر آپ کو قرب الہی حاصل ہے کہ دوسرے کسی پیغمبر کو یہ قرب حاصل نہیں ہے، اس لیے سب پیغمبر جلدی جلدی آگئے آپ دیر میں تشریف لائے۔

فصل - ۲

نورِ محمدی ﷺ سے ساری کائنات اور عشق و محبت پیدا ہونے کے بیان میں

ہر دو جہاں پر تو نور ویست دونوں جہاں آپ ہی کے نور سے ظاہر ہوئے ہیں

یہ ساری جہاں اسی واسطے ظاہر کی گئی ہے کہ ان پر کون و مکان بہر ظہور ویست

آپ کا مرتبہ ظاہر کیا جائے

نہ یہ عرش تھا، نہ یہ کرسی تھی، نہ زمین نہ آسمان، نہ شجر نہ جمر، نہ عشق تھا، نہ محبت، نہ دل تھا نہ دل جلے، ایک فقط تن تھا خداوند قدوس کی ذات تھی، اور کوئی نہ تھا۔

جب نہ تھا کوئیں کا بالکل پتا
محو اور تھا تھی ذاتِ کبیریا
محو اور بخود تھا جس عالم میں رب
گنج مخفی بولتے ہیں اس کو سب

چ پوچھئے تو اگر بے عشق و محبت کے سارا عالم بھی بنتا تو فضول تھا خدائے تعالیٰ کو منظور ہوا کہ کچھ حسن و عشق کی بہار دکھائے، اس لیے پہلے نورِ محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا کر کے اس سے تمام عالم کا ٹھاٹھ جمایا۔
تکور و تاب مستوری ندارد = حسین چھپ نہیں سکتا اپنے حسن کا بہار دکھائے بغیر نہیں رہ سکتا
چوں دربندی سر از روز نبرآرد = اگر دروازہ بند کر دیا جائے تو کھڑکی سے ہی منہ نکالے گا۔
اب وقت آگیا تھا کہ کسی نہ کسی طرح حسن دکھائے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے نورِ محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا کیا۔ پھر اس نور سے تمام عالم بنایا کہ اپنی قدرت دکھایا۔

صاحب! کیا بتاؤں وہ نورِ محمدی صلی اللہ علیہ وسلم آفتاً و ماه تاب کے نور سے لاکھوں درجے زیادہ تھا،
ماہتاب ایک حد کے بعد گھٹنے لگتا ہے، مگر یہ نورِ محمدی صلی اللہ علیہ وسلم ہر آن دن دگنارات چوگنا ہوتا ہے۔
وَلَلَا خَرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى (اور آپ کی بعد کی زندگی، پہلی زندگی سے بہتر ہوتی
(سورہ والضھر پ ۳۰ ع ۱) جاتی ہے)

اللہ تعالیٰ مخفی تھا اپنے آپ کو آشکارا کرنے کے لیے نورِ محمدی صلی اللہ علیہ وسلم سے انسان بنایا اور انسان میں عشق و محبت کا چہ چہ پھیلایا۔

درو دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو
ورنہ طاعت کے لیے کچھ کم نہ تھے کرو بیاں

خلاصہ یہ کہ :-

انسان بنا کر آشکارا ہوا، عالم بنا کر اپنی قدرت دکھایا، نورِ محمدی صلی اللہ علیہ وسلم بنا کر حسن و عشق کو ظاہر کیا۔
اسی واسطے آپ کی امت میں ایسے ایسے عاشقانِ الہی پیدا ہوئے کہ دوسری امتوں میں ان کی نظر نہیں ملتی۔

فصل - ۳

یہ فصل ذیل کے امور پر مشتمل ہے۔

- ۱۔ اللہ تعالیٰ کا نورِ مبارک پر طرح طرح کی سرفرازیاں فرمانا۔
- ۲۔ نورِ مبارک کا سرفرازیوں کے شکرانہ میں دوگانہ ادا کرنا۔
- ۳۔ نورِ مبارک کا امتِ محمدیہ کی مغفرت چاہنا۔

جب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا نورِ مبارک پیدا ہوا تو وہ نورِ مبارک :

بارہ ہزار سال	مقامِ قرب میں رہا۔
پھر بارہ ہزار سال	مقامِ محبت میں رہا۔
پھر بارہ ہزار سال	مقامِ خوف میں رہا۔
پھر بارہ ہزار سال	مقامِ رجاء میں رہا۔
پھر بارہ ہزار سال	مقامِ حیاء میں رہا۔

غرض اس نورِ مبارک پر طرح طرح کی سرفرازیاں ہوتی رہیں، ان سرفرازیوں کے شکرانے میں وہ نورِ مبارک ایک دوگانہ اس طرح پڑھا کہ :

ہزار سال	قیام میں رہا۔
ہزار سال	رکوع میں رہا۔

قومہ میں رہا۔	ہزار سال
سجدہ میں رہا۔	ہزار سال
جلسہ میں رہا۔	ہزار سال
دوسرے سجدہ میں رہا۔	ہزار سال

الغرض دونوں رکعتوں کا ہر کن ہزار ہزار سال میں ادا کیا، اور دوسری رکعت کے سجدہ ثانی کے بعد قاعده بھی ہزار سال میں ادا کیا۔

پہلے وہ نورِ مبارک سرو سا ☆ پردا عظمت تک اونچا ہوا
پھر جھکا واں سے تو حمدِ رب کیا ☆ اور لاکھوں سال سجدہ میں رہا
الغرض جب اس طرح نماز ختم کر چکا۔ باری تعالیٰ کا حکم ہوا، اے میرے حبیب کے نور! تیری اس خدمت کو
ہم نے بہت پسند کیا، مانگ کیا مانگتا ہے۔

وہ نورِ مبارک عرض کیا، الہی! مجھے قرآن سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ مجھ کو ایک امت کا مقتدا بنائیں گے اور
اس امت سے تقدیرات ہوں گے، اس نماز کے عوض ان کی مغفرت مانگتا ہوں۔
باری تعالیٰ کا حکم ہوا، اے میرے حبیب کے نور! مجھ کو تجھ سے ایسی ہی امید ہے۔

وَلَسُوفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضِي (سورہ والضھی پ ۳۰ ع ۱)

تمہارا پروردگار آگے چل کر تم کو تمہاری امت کے لیے اتنا کچھ دے گا کہ تم بھی خوش ہو جاؤ گے۔

فصل - ۳

اس فصل کے مشمولہ مضامین :

نورِ مبارک سے تخلیق عرش اور تخلیق قلم اور تخلیق جنت۔

اور ان حالات کی صراحت جو قلم بننے کے بعد ہوئے۔

اور ان اعمال کی صراحت جو جنت میں جانے کے لیے ضروری ہیں۔

محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نورِ مبارک سے عرش بنا، کرسی بنی، لوح، قلم، جنت، دوزخ، ملک، فلک، انسان و جنات، آسمان و زمین، دریا، جھاڑ، پھاڑ غرض تمام مخلوق اسی نور سے بنی۔

عرش کا نور بھی حضرت ہی کے نور سے ہے، دل کا نور بھی حضرت ہی کے نور سے ہے، لوح کا نور بھی حضرت ہی کے نور سے ہے، عقل کا نور بھی حضرت ہی کے نور سے ہے، معرفت کا نور بھی حضرت ہی کے نور سے ہے، دن کا نور بھی حضرت ہی کے نور سے ہے، آنکھ کا نور بھی حضرت ہی کے نور سے ہے۔

اس نورِ مبارک سے ان سب میں پہلے عرش بنا پھر قلم۔

حق نے فرمایا قلم کو اے قلم ﴿ پہلے توحید الہی کر رقم
مرسلوں کے لکھ پھر امت کا بیان ﴿ خیر و شر کا نتیجہ کر عیاں
حضرت آدم سے تائیسی بنی ﴿ یہ حقیقت ملک قدرت نے لکھی
اللہ تعالیٰ کا حکم ہوا، اے قلم لکھ۔
قلم نے عرض کیا، کیا لکھوں۔

اللہ تعالیٰ کا حکم ہوا، قیامت تک جو کچھ ہونے والا میرے علم میں ہے، وہ سب لکھ ڈال۔
قلم نے عرض کیا، ابتداء کس کلام سے کروں۔

اللہ تعالیٰ کا حکم ہوا، پہلے لکھ "بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ"
قلم جب بسم اللہ لکھنا چاہا تو لفظ اللہ پر اللہ تعالیٰ کے نامِ مبارک کی کچھ ایسی ہیبت طاری ہوئی کہ سات سو سال تک وہ قلم چراہو رہا۔ پھر جب رحمٰن و رحیم لکھا وہ شگاف اور شق مل گئے۔

اس پر اللہ تعالیٰ کا حکم ہوا، اے قلم گواہ رہ کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا جو اتنی بھی بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھے گا اس کو سات سو سال کی عبادت کا ثواب ملے گا۔
اس کے بعد قلم نے پہلا فقرہ یہ لکھا:

بے شک میں اللہ ہوں کوئی معبد نہیں میں ہی معبد ہوں
 محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے رسول ہیں
 جو میری قضا پر راضی رہا اور میری بلاوں پر
 بغیر شکایت کے صبر کیا
 اور میرے نعمتوں کا شکریہ ادا کیا، اور
 راضی برضاۓ الٰہی رہا
 تو میں اس کو صدیقوں میں لکھ دیتا ہوں
 اور قیامت میں صدیقوں کے ساتھ اس کو اٹھاؤں گا
 اور جو ایسا نہ کیا۔

إِنِّي أَنَا اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا^۱
 وَمُحَمَّدٌ رَسُولِيُّ^۲
 مَنِ اسْتَسْلَمَ بِقَضَائِيٍّ وَ^۳
 صَبَرَ عَلَىٰ بَلَائِيٍّ^۴
 وَشَكَرَ عَلَىٰ نَعْمَائِيٍّ^۵
 وَرَضِيَ^۶
 كَتَبْتُهُ صِدْيقًا وَبَعْثَتُهُ^۷
 يَوْمَ الْقِيَامَةِ مَعَ الصِّدِيقِينَ^۸

فلیختر رباً سوانی^۹
 جو ایسا نہ کیا اس کو چاہیے کہ اور رب ڈھونڈ لے۔
 کوئی اور رب تو ہے ہی نہیں، اس کو میرے ہی سے سابقہ پڑے گا، اس لیے اس کو چاہیے کہ مذکورہ صفات
 اپنے میں پیدا کرے۔

اس کے بعد قلم نے قیامت تک جو کچھ ہونے والا ہے سب لکھ ڈالا۔
 اس نور مبارک سے جب جنت بنی اس وقت "أَحَکَمُ الْحَاكِمِينَ" نے ارشاد فرمایا اے جنت! میں
 تجھ کو چند چیزوں سے آراستہ کیا ہوں، اس لیے قاعدہ مقرر کرتا ہوں کہ تجھ میں ان چند چیزوں پر عمل کرنے والے
 ہی آئیں گے۔

وہ چند چیزیں یہ ہیں:
 ۱۔ اچھی بات بتانا، بُردی بات سے روکنا۔

- ۱۔ خدائے تعالیٰ کی مخلوق کے کام آنا۔
- ۲۔ اللہ تعالیٰ کے احکام کے پابند رہنا۔
- ۳۔ کبیرہ گناہوں سے بچا کرنا۔

فصل ۵

یہ فصل حسب ذیل مضامین پر مشتمل ہے :

- ۱۔ نورِ مبارک حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا پیدائش کے ساتھ ہی نبی ہونا۔
- ۲۔ تمام انبیاء کا نورِ مبارک پر ایمان لانا۔
- ۳۔ روزِ یثاق السُّنْتُ برَبِّکُمْ کے جواب کے وقت تمام انبیاء کا نورِ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے جواب کا منتظر رہنا۔
- ۴۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دیگر انبیاء پر فوقيت و برتری۔

اللہ تعالیٰ کا حکم ہوا :-

اے جبریل تھوڑی خاک لاو، اب جہاں قبر مبارک ہے وہاں کی مٹی لینے حضرت جبریل علیہ السلام آئے، وہ زمین کا حصہ مارے شوق کے جھومنے لگا سفید نورانی مٹی ظاہر ہوئی۔ جبراًیل علیہ السلام اس مٹی کو لے کر چشمہ تنیسم میں مشک وزعفران سے خوشبودار کیے، پھر اس نورِ مبارک کو اس خاک سے تعلق کراکے پیش کیے۔

حکم حق جبراًیل پر صادر ہوا ۔ جا مدینے کی زمین کی خاک لا اس نے لائی واں سے وہ خاک لطیف ۔ اب جہاں حضرت کی ہے قبر شریف خاک میں تنیسم کا پانی ملا ۔ کر خیر اس نور سے کی ایک جا وہ موتی کی طرح روشن بنائے ۔ سب بہشتی نہروں میں غوطہ دیا جھر و بر کوہ و فلک سے یوں کہا ۔ یاد رکھو ہے یہ جسم مصطفیٰ

اللہ تعالیٰ کا حکم ہوا تمام آسمانوں اور تمام زمین میں اور چو طرف اطراف عالم میں اس کو سیر کراؤ، ساتھ ہی ساتھ یہ ندا بھی کردو۔

هَذَا طِينَةُ حَبِيبٍ رَبِّ الْعَالَمِينَ
یہ رب العالمین کے حبیب کی خمیر کی ہوئی مٹی ہے
یہ وہ حبیب ہیں کہ گنہگاروں کی شفاعت کرنے والے
تمام عالم میں جن کی شہرت ہے
آخر میں آنے والے لوگوں میں انھیں کا چرچہ ہے
پھر اس کو نور کی قدیمی میں رکھ کر عرش کے نیچے لگادو۔

ایسا ہی کیا گیا وہ نور مبارک اس طرح بنا کر سیر کر عرش کے نیچے رکھا گیا، یہی نہیں کہ سب سے اول یہ نور مبارک بنا اور عرش کے نیچے رکھ دیا گیا، بلکہ وہ نور مبارک سب سے اول پیدا ہوا، اور پیدا ہوتے ہی نبی بنادیا گیا۔
اسی واسطے حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں:

كُنْتُ نَبِيًّا وَأَدْمُ
(میں اس وقت نبی ہو چکا ہوں کہ ابھی حضرت آدم
بَيْنَ الْمَاءِ وَالْطَّينِ
پانی اور مٹی میں خمیر کیے جا رہے تھے)

اب بحث یہ ہے کہ اس حدیث شریف میں آپ کا جو نبی ہونا مذکور ہے اگر اس سے مراد یہ ہے کہ آپ علم الہی میں نبی تھے تو سب انبیاء بھی علم الہی میں نبی تھے، پھر حضورؐ کی تخصیص ہے۔

اس کا جواب یہ ہے کہ:

نور محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی ہونے سے مراد یہ نہیں ہے کہ آپ صرف علم الہی میں ہی نبی تھے بلکہ آپ ظاہراً تمام فرشتوں اور تمام روحوں کے اور تمام نبیوں کے نبی تھے، ان سب کو علومِ الیہیہ کا برابر فیض پہونچا رہے تھے۔

روزِ میثاق جب تمام ارواح سے سوال ہوا : **الَّسْتُ بِرَبِّكُمْ** (کیوں میں تمہارا رب نہیں ہوں) سب

کے سب آپ کے نور مبارک کی طرف نکلتے تھے کہ دیکھیں آپ کیا جواب دیتے ہیں، سب سے اول حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نور مبارک نے فرمایا "بَلِّي أَنْتَ رَبُّنَا" (کیوں نہیں بے شک آپ ہمارے رب ہیں) اس کے بعد اوروں نے بھی کہا "بَلِّي" (کہ بے شک آپ ہمارے رب ہیں) اسی کی طرف حضور کا اشارہ ہے "نَحْنُ السَّابِقُونَ إِلَّا خَرُونَ" (ہم سب سے سابق ہیں مگر دنیا میں آنے میں سب سے آخر ہیں)

جب اس نور مبارک سے اور نبیوں کے نور پیدا ہوئے تو خدا نے تعالیٰ نے فرمایا اے میرے حبیب کے نور ان تمام پیغمبروں کے نور کی طرف نظر ڈال، نظر ڈالتے ہی تمام پیغمبروں کے نور ایسے ماندھ پڑھ گئے جیسے آفتاب کے سامنے ٹارتے، تو سب پیغمبروں نے عرض کیا الہی! یہ کون ہیں کہ ان کے نور نے ہم سب کے نور کو چھپا دیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ نور محمد بن عبد اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے اگر تم سب ان پر ایمان لائیں تو میں تم سب کو پیغمبر بناتا ہوں، سب پیغمبر کہنے لگے، الہی! ہم سب ان پر بھی ایمان لائے اور ان کی نبوت پر بھی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اچھا میں اس پر گواہ ہوں۔

(مضمون بالا کی دلیل قرآن سے)

(ترجمہ: جب کہ اللہ نے پیغمبروں سے عہد لیا کہ ہم جو تم کو اپنی کتاب اور عقل سلیم دیں، اور پھر کوئی پیغمبر تمہارے پاس آئے اور جو کتاب تمہارے پاس ہے اس کی تصدیق بھی کرے تو دیکھو ضرور اس پر ایمان لانا اور ضرور اس کی مدد کرنا اور کہ کیا تم نے اقرار کر لیا اور ان با توں پر جو ہم نے تم سے عہد و پیمان لیا ہے اس کو تسلیم کیا۔ پیغمبروں نے عرض کیا کہ ہاں ہم اقرار کرتے ہیں، خدا نے

وَإِذَا أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ
لَمَّا آتَيْتُكُمْ مِنْ كِتَابٍ وَ
حِكْمَةً ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ
مُصَدِّقٌ لِمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُ
بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّهُ ۝ قَالَ
ءَأَقْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَى
ذَلِكُمْ إِصْرِيٌّ ۝ قَالُوا أَقْرَرْنَا

قَالَ فَأَشْهَدُوا وَآنَا مَعَكُمْ

مِنَ الشُّهَدَاءِ هُنَّا

(سورہ آل عمران پ ۹۴)

فرمایا اچھا تو آج کے قول و قرار کے گواہ رہو، اور

تمہارے ساتھ گواہوں میں سے ایک گواہ ہم بھی ہیں۔)

اسی واسطے آپ نبی الانبیاء ہیں، اسی واسطے آپ شبِ معراج میں تمام انبیاء کے امام ہوئے اسی واسطے قیامت میں تمام انبیاء آپ کے جھنڈے کے نیچے ہوں گے اسی واسطے ایک مرتبہ حضرت جبریل علیہ السلام حاضر ہو کر عرض کیے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پروردگارِ عالم فرماتا ہے:

اگر میں ابراہیم علیہ السلام کو خلیل بنایا تو کیا ہوا، آپ کو میں اپنا حبیب بنایا ہوں، خلیل اگر عاشقِ الہی ہیں تو آپ محبوبِ الہی ہیں۔ کوئی مخلوق میرے پاس آپ سے زیادہ عزت دار نہیں۔ میں سارا عالم اسی لیے پیدا کیا ہوں کہ آپ کی جو قدر و منزلت میرے پاس ہے وہ ان سب کو دکھاؤں اور آپ کے مراتب سے واقف کروں، اگر آپ نہ ہوتے تو کسی کو پیدا ہی نہ کرتا۔

درآل روزے کہ خواب آفریدند = روزِ میثاق میں جب پیغمبروں کی روحوں کو پیدا کیے

ترا بر جملہ سلطان آفریدند = آپ کو سب کا باڈشاہ بنائے

ملاحظت بر تو یک سرختم کر دند = حسن و خوبی آپ پر ختم کر دیئے

پس انگاہ ماہ کنعاں آفریدند = اس کے بعد ماہِ کنعاں یعنے حضرت یوسف کو پیدا کیے

ترا دارند توقع سعادت = آپ کو سعادت کا فرمان دیئے

وزال پس نوع انساں آفریدند = اس کے بعد انسان کو پیدا کیے۔

سوارے چوں تو در میدانِ خوبی = آپ کے جیسا ہر قسم کی خوبی رکھنے والا کوئی سوار دنیا میں نہیں آیا

نیامد تاکہ میدان آفریدند = جب سے کہ میدانِ دُنیا پیدا کیے ہیں۔

الغرض یہ نورِ مبارک ہزارہا سال، برس ہابرس ذکر و حمد کرتا رہا۔

فصل - ۲

اس فصل کے مضمایں :

(۱) نورِ مبارک سے تخلیق خلیفۃ اللہ

(۲) ضرورت خلیفۃ اللہ

(۳) عطاۓ عشق و محبت

سارا عالم ہے مگر دل جلنہیں، عشق و محبت کا کہیں نام و نشان تک نہیں کیوں کہ انسان ہی نہیں تو پھر عشق و محبت کہاں سے آئے، سارا عالم سُونا پڑا ہے، سراز روزن برآر۔ کا وقت آگیا، یا کا یک ارشاد باری تعالیٰ ہوا۔

إِنَّمَا جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً (میں زمین میں اپنا ایک نائب بنانے والا ہوں)
(سورہ بقرہ پ ۱۴)

آپ نے کہا خلیفہ مجھ سے بنے گا کیوں کہ اللہ تعالیٰ اپنے نور کی تشبیہ مجھ سے دیا ہے۔

مَثَلُ نُورٍ هُوَ كَمِشْكُوٰةٌ فِيهَا مِصْبَاحٌ (اس کے نور کی مثال ایسی ہے جیسے ایک طاق ہے اور اس طاق میں چراغ رکھا ہے)
(سورہ نور پ ۱۸)

ہوانے کہا کہ میری شان میں :

وَهُوَ الَّذِي أَرْسَلَ الرِّيحَ بُشِّرًا (اور وہ وہی قادر مطلق ہے جو اپنی رحمت یعنی بخشش (بارش) کے آگے آگے ہواں کو مینخ کی خوشخبری دینے کے لیے بھیجتا ہے)
(سورہ فرقان پ ۱۹)

وہ خلیفہ مجھ سے بنے گا۔

پائی نے کہا:

كُلُّ شَيْءٍ حَيٌّ مِنَ الْمَاءِ (ہر چیز پانی سے زندہ ہے)

میری شان ہے خلیفہ مجھ سے ہو گا۔

خاک سر جھکاے مغموم پڑی تھی اور خیال کر رہی تھی کہ بھلا میں کس گنتی میں ہوں اللہ تعالیٰ کا حکم ہوا۔ ہم کو عاجزی بہت پسند ہے ہم مٹی سے اپنا خلیفہ بنائیں گے۔ سب کو تعجب ہوا کہ خلیفہ کی کیا ضرورت ہے، اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہوا، بادشاہ کو جہاں شوکت و عظمت دکھانے کے لیے خدم و حشم ضروری ہیں وہیں بادشاہ کے لیے ایک منس و محروم راز کی بھی ضرورت ہے تاکہ عشق و محبت کا لطف اٹھائے۔

سارا عالم خدم و حشم کی طرح ہے جس سے میری قدرت اور سلطنت ظاہر ہوتی ہے مگر ان میں میرا منس ہونے کے قابل کوئی نہیں، کسی کو عشق و محبت کرنا نہیں آتا۔ اس لیے میں انسان کو بناتا ہوں کہ وہ اس کے قابل ہے۔

حکایت :-

سلطان محمود غزنوی کے پاس ہزار ہاگلام تھے یہ سب شوکت و دبدبہ دکھانے کے لیے تھے، عشق و محبت جتانے کے لیے اگر کوئی تھا تو ایک ایا ز تھا۔ جب بھی گورنر یا خالی ہوتیں تو ایک ایک غلام ان جائیداؤں پر گورنر مقرر کیا جاتا وہ خوشی سے چلے جاتے، ایک وقت ایک جائیداد گورنر کی خالی ہوئی، اس پر بادشاہ نے ایا ز کا نام لکھا۔ ایا ز بے حد رونے لگا سب نے کہا یہ تو خوشی کا وقت ہے کہ تجھ کو ایک ملک کا بادشاہ بناتے ہیں رونے کا کیا موقع ہے ایا ز نے کہا اب تک میں بادشاہ کا منس اور محروم راز تھا اب اور خدم و حشم کے جیسا ہو گیا۔ اس سے میرا رتبہ گھٹ گیا نہ کہ بڑھا۔ ایسے وقت ہنسنے کا کیا موقع ہے۔

ایا ز نے اس وقت ان لوگوں کو جو گورنری

دادا یا ز آں حال قوئے راجواب

پرنہ جانے سے سرزنش کر رہے تھے ایسا

گفت بس دور یہا از نجح صواب

جواب دیا اور کہا کہ تم کو سید ہے راستہ کی خبر رہی نہیں

گورنری نہ اختیار کرنے کی وجہ میں جانتا ہوں

نیستند آ گاہ کہ شاہ و انجمن

تم کو خبر نہیں کہ بادشاہ جہاں پناہ اپنے سے
مجھ کو دوز بھیج رہے ہیں۔

اگر وہ سارے جہاں پر مجھے حکومت دیدیں تو
بھی میں ان سے ایک لختہ دور نہیں ہونا چاہتا ہوں
جو وہ حکومت دیں میں وہ کرنے راضی ہوں
لیکن ان سے ایک لختہ کی ڈوری بھی نہیں چاہتا ہوں۔
میں کیا کروں سلطنت اور حکومت کو، میری
سلطنت تو ان کا دیدار ہے بھی بس ہے۔
اے انسان اگر تو مرد خدا ہے اور خدا کا طالب
ہے، کچھ حقیقت کی تجھے خبر ہے تو عبادت اور
محبت کرنا ایا ز سے سیکھ۔

اللہ تعالیٰ کی جانب سے ایک ندا کرائی گئی کہ ہماری امانت جو نورِ محمدی صلی اللہ علیہ وسلم ہے عالم ناسوت
میں کون لے جاتا ہے۔

ایک لا قیمت جو ہر کو بازار میں سب کے سامنے پیش کئے ہیں
تاکہ سارے جہاں سے اس کا خریدار پیدا ہو۔
یہ بہت بھاری قیمت کا سامان ہے دو جہاں بھی
اس کی قیمت نہیں ہو سکتی، کہاں ہے اس کا طالب،
جان اور جہاں سب دے کر خریدے۔

(ہم نے نورِ محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہماری

دور می اندازدم از خویشن

گر به حکم من کند ملک جہاں
من نه گرم غائب ازوے یک زمل
ہر چہ گوید آس تو انم کردو بس
لیک از دوری نجوم یک نفس
من چہ خواہم کرد ملک و کارا و
ملک مارا بس بود دیدارا و
گرت مردی، طابی حق شناس
بندگی کردن بیا موز ازا یاز

گوہرے بر سر بازار ظہور آ وردند
تا خریداروے از کون و مکان بر خیزد
ایں گرانمایہ متاع از دو جہاں مستغنى است
طالبے کو کہ ہم از جان و جہاں بر خیزو
ان اعرضنا الامانة عَلَى

السَّمْوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجَبَالِ
 امانت ہے، آسمانوں پر اور زمین پر اور پہاڑوں
 پر پیش کیا۔ (سورہ احزاب پ ۲۲ ع ۹)

اس امانت کا اٹھانا کسی سے نہ ہو سکا "حَمَلَهَا الْإِنْسَانُ" (انسان نے ارادتاً بلا تأمل اس امانت کو
 اٹھایا اور کہا۔

خزانہ ویرانہ میں رہتا ہے اس ویران دل میں تو
 جو مثل خزانہ کے ہے آجا۔ اے خزانے! میں
 تیرے ہی آنے کے لیے اس دل کے گھر کو ویران کر کے
 رکھا ہوں۔

بے شیش بردل ویرانہ ام اے گنج مراد
 کہ من ایں خانہ بسودائے تو ویران کردم

بھلا انسان خاکی اور نورِ محمدی اس لیے فرمایا:

إِنَّهُ كَانَ ظَلُومُ مَا جَهُولًا
 (سورہ احزاب پ ۲۲ ع ۹)

انسان نے یہ بھاری ذمہ داری کی امانت اٹھا کر اپنے نفس پر ظلم کیا اور نادانی کا کام کیا) بھلا انسان کدھر
 اور نورِ محمدی کا اٹھا کر عالم ناسوت میں لیجانا کدھر، شک نہیں کہ وہ اپنے حق میں بڑا ہی ظالم تھا۔

فصل ۷

نورِ محمدی ﷺ کے حضرت آدم علیہ السلام کو تفویض کیے جانے کے بیان میں۔

انسان کو خلیفہ بنادیا گیا اور وہ اپنے نائب بنانے والے اللہ کی امانت نورِ محمدیؐ لے کر عالم ناسوت میں
 جانے لگا تو اس سفر کی ضروری تیاری کی جارہی ہے۔

قاعدہ ہے کہ بادشاہ کسی کو اپنا نسب بنانے کے لئے کسی مہم پر بھیجا ہے تو اس کے رخصت کرتے وقت بادشاہ بھی خود شریک ہوتا ہے، اسی طرح اب جب کہ انسان بنائے ہیں تو یوں تیاری کر رہی ہیں "خَمَرُتْ طِينَةَ آدَمَ بَيَّدِيْ" (سارے عالم کو "کُنْ" (ہوجا) کہہ کر پیدا کیا ہوں، مگر آدم کا پتلابنانے کے لیے کچھ کو میں اپنے ہاتھ سے خیر کیاں ہوں)

یا یوں سمجھئے کہ لوگ جب عمارت بناتے ہیں تو مزدوروں سے کام کراتے ہیں، اور جب خزانہ رکھنے کا وقت آتا ہے اس وقت مزدور کو ہٹا کر خود کچھ میں ہاتھ ڈال کر خزانہ رکھتے ہیں۔

اب وقت آگیا ہے کہ نورِ محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کو رکھیں، اس لیے تمام عالم کو تو فرشتوں سے بنائے آدم کو خود آپ اپنے ہاتھ سے بنانے کا اعلیٰ انتیکا کیا ہے اس میں نورِ محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کو مثل خزانہ کے آدم علیہ السلام کی پیشانی میں رکھا۔

غرض کہ آدم علیہ السلام کا پتلابنانہ سوکھا ہوا پڑا تھا، ابھی اس میں روح نہیں بھری تھی، اس وقت کا واقعہ ہے کہ ابلیس نے آکر ہانڈی کی طرح بجایا تو وہ پتلہ کھن کھن آواز دینے لگا۔ حقیقت میں یہ آواز کھن کھن نہیں تھی بلکہ دوست کے سو اغیر کا ہاتھ لگنے سے وہ پتلہ شور کر رہا تھا۔

روح کو اللہ تعالیٰ کا حکم ہوا کہ اس پتلے میں چلی جا، روح لطیف، خاک کے پتلے میں جانا نہیں چاہتی تھی۔

قاعدہ ہے کہ جب پرنده جال میں نہیں جاتا تو دانہ ڈالتے ہیں تب پرنده جال میں چلا جاتا ہے، ایسے ہی چوں کہ آدم علیہ السلام کی روح پتلے میں نہیں جا رہی تھی تو اللہ تعالیٰ نے نورِ مبارک کو مثل دانہ کے آدم کی پیشانی میں رکھا یہ دیکھتے ہی روح قربان ہو کر پتلے میں گھس گئی۔

پھر پُر قدرت نے آدم کو بنا	نور پیشانی میں احمد کا رکھا
یوں ہوا حکمِ الہی روح کو	داخل اب تو قلب آدم میں ہو
روح نے پہلے بہت انکار کی	نورِ احمد دیکھ راضی ہو گئی

حضرت آدم علیہ السلام ہمیشہ اپنی پیشانی سے ایک بار ایک آواز سنتے تھے، ایک دن عرض کیے الہی! یہ کیسی آواز ہے، ارشاد ہوا یہ نورِ محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کے تسبیح کی آواز ہے جو تمہارے فرزند ہیں، اچھے تقدیر اس باپ کے ہیں جن کا ایسا مبارک فرزند ہے۔

آدم علیہ اسلام سے جب لغزش ہوئی اور جنت سے نکالے گئے دوسو سال تک روتے رہے، رونے کا کچھ اثر نہ ہوا، آدم کو خیال ہوا کہ عالم بالا میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر جگہ فضیلت دیکھا ہوں ان کے ویلے سے دعا کرنا چاہیے جب یہ دعا کیے "بَحَقِّ مُحَمَّدٍ أَنْ يَغْفِرَ لِي" (محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طفیل میں اے اللہ میرے گناہ معاف کر دے) مغفرت ہو گئی۔

ہو گئی آدم صفائی سے جب خطا ﴿﴾ حق نے جنت سے انھیں باہر کیا اتنا روئے حضرت آدم نبی ﴿﴾ اشک سے جنت میں سبزی ہو گئی جب محمد مصطفیٰ کا نام لے ﴿﴾ التجا آدم نے کی اللہ سے یا الہی از طفیل ، مصطفیٰ ﴿﴾ بخش دے مجھ غمزدہ کی تو خطا التجا یہ سن کے خالق نے کہا ﴿﴾ آج آدم جو بھی ہم سے مانگتا سب کے سب اولاد کے عصیاں تیرے ﴿﴾ بخشدیتے ہم طفیل اس نام کے الغرض وہ نورِ مبارک پٹلے میں سراستہ کر گیا، روح جسم میں جب پھر نے لگی، مٹی گوشت و پوست ہونے لگی، اس حالت میں آدم کیا دیکھتے ہیں کہ آسمان آراستہ ہے نورانی تاروں سے جگمگار ہا ہے، آفتاب نور کا بقعہ بن رہا ہے زمین طرح کے پھول اور پھل سے عجب بہار دکھار ہی ہے۔

آدم علیہ السلام خیال کیے یہ سارا کارخانہ کس کی قدرت کا بنایا ہوا ہے کس حکیم کے ہاتھ کا جوزا ہوا ہے۔ غیب سے آواز آئی، یہ کارخانہ ایک زبردست قدرت والے کا بنایا ہوا ہے یہ سب آئینے ہیں محظوظ حقیقی کو دیکھنے کے۔

اے بنی آدم! یہ تمہارے باپ آدم کی سنت ہے کہ زمین و آسمان کو دیکھ کر ہماری معرفت حاصل کرو۔ الغرض آدم علیہ السلام جنت میں جدھر سے گزرتے سب ملائکہ اس نور کی برکت سے ان کو سلام کرتے اور اسی نور کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے آدم کو تمام مخلوقات کے ناموں کا علم دیا۔ مسحود ملائکہ بنایا۔ اسی طرح یہ نور حضرت نوح، حضرت ابراہیم، حضرت اسماعیل کو ہر جگہ کام آیا۔

تحی بچی کشی نوح کی اس نور سے ☆ اور ابراہیم آتش سے بچے پاس اسماعیل کے یہ نور تھا ☆ ان کے بدلوں میں فدا دنبہ ہوا!



باب دوم

ابتدأ بتایا جا چکا ہے کہ نورِ محمدی صلی اللہ علیہ وسلم سے تمام کائنات بنی مخلقہ کائنات کے حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق بھی نورِ محمدی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوئی، حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق کا ذکر اس سے پہلے آچکا ہے، آئندہ حضرت آدم علیہ السلام کو ابلیس کے دھوکا دی ہی کا تفصیلی ذکر آرہا ہے، مناسب معلوم ہوتا ہے کہ اس دھوکا دی ہی کے مضمون سے قبل ابلیس کے گمراہ کرنے کی فطرت کو بتایا جائے اور ساتھ ہی ساتھ اس کے گمراہی سے بچنے کے تدابیر بھی بتادیئے جائیں۔

اس لیے اس باپ میں ابلیس کے عام طور پر گمراہ کرنے کا تفصیلی بیان ہے :

وَقَالَ الشَّيْطَنُ لَمَا قُضِيَ الْأَمْرُ
إِنَّ اللَّهَ وَعَدَكُمْ وَعْدَ الْحَقِّ
وَوَعَدْتُكُمْ فَأَخْلَفْتُكُمْ
وَمَا كَانَ لِي عَلَيْكُمْ مِنْ
سُلْطَنٍ إِلَّا أَنْ دَعَوْتُكُمْ
فَاسْتَجَبْتُمْ لِي فَلَا
تَلُوْ مُؤْنَى وَلُوْ مُؤَا آنْفُسَكُمْ
مَا آنَابِمُصْرِ خَكْمْ
وَمَا آنْتُمْ بِمُصْرِ خَيْرٌ

او رقامت میں جب آخری فیصلہ ہو چکے گا اور لوگ شیطان کو الزام دیں گے تو شیطان کہے گا خدا نے تم سے سچا وعدہ کیا تھا سواس نے پورا کیا اور وعدہ تم سے میں نے بھی کیا تھا مگر میں نے تمہارے ساتھ وعدہ خلافی کی اور تم پر میری کچھ زبردستی تو تھی نہیں، بات اتنی ہی تھی کہ میں نے تم کو اپنی طرف بلایا، اور تم نے میرا کہنا مان لیا اب مجھے الزام نہ دو بلکہ اپنے تیئں الزام دو، آج نہ تو میں تمہاری فریاد کو پہنچ سکتا ہوں اور نہ تم میری فریاد کو پہنچ سکتے ہو۔

(سورہ ابراہیم - پ ۱۳ - ۴)

آئندہ آنے والے مضمون کا خلاصہ:-

ایک شخص جانی دشمن کو اپنا سچا دوست سمجھ رہا ہے تو اس کی نسبت آپ کا کیا خیال ہے، یہی نہ کہ اس کی اس حرکت کی وجہ سے آپ اس کو بُری طرح یاد کریں گے۔

اگر آپ کا کوئی دوست یہ غلط دوستی دیکھ کر نہ رہ سکا اور غلطی بتادیا، پھر بھی آپ اس دوست کی نہ سن کر دشمن کو ہی دوست سمجھ رہے ہیں، اس کی سنتے ہیں، یہ پربیتی نہیں آپ بیتی ہے، ہماری یہی حالت ہے کہ اللہ جو ہمارا دوست ہے، اس کی نہ سن کر شیطان جو ہمارا دشمن ہے اس کے کہنے پر چل رہے ہیں اور وہ جو کہے اس پر عمل کر رہے ہیں۔

فصل - ۱

اس باب کے آئندہ فصولوں میں ابلیس کی سرکشی اور انسانی دشمنی کا ذکر ہے، اس لیے اس فصل میں انسان کو شیطان سے دشمنی کرنے اور اللہ تعالیٰ اور اس کے قاصد یعنی حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دوستی کرنے کی ترغیب دی جاتی ہے۔

محبت کی علامت کیا ہے؟ بہت سی علامتیں ہیں، ایک علامت یہ بھی ہے کہ جس سے ہم کو محبت ہے، اس سے کسی دوسری چیز کو اگر کچھ علاقہ ہو تو اس سے بھی محبت ہو۔

حکایت :-

ایک روز مجنوں نے ایک کتے کو دیکھا دوڑ کر جا کر کتے سے لپٹ گیا کبھی اس کے قدم چوتا، کبھی اس کے تربان ہوتا۔ لوگ اس کے ان حرکات کو دیکھ رہے تھے آخر لوگوں نے کہا ارے دیوانے حقیقت میں تو دیوانہ ہے۔ نجس کتے کے ساتھ ٹو یہ کیا معاملہ کر رہا ہے۔

مجنوں نے کہا تو ظاہر ہیں ہے۔ تجھے کیا خبر
ذر امیری آنکھ سے دیکھ۔

گفت مجنوں تو ہمہ نقشی و تن
اندر آب نگر شے از چشم من

مجھے ملامت نہ کر میں نے اس کتے کو میری معشوقہ
 لیلی کی گلی میں ایک رات دیکھا ہے
 میری لیلی کا یہ پاسبان ہے بس اتنے سے
 علاقہ کی وجہ قربان ہو رہا ہوں۔

فقال دعو الملا مة ان عینی
 ر آتہ مرۃ فی حی لیلہ
 کیں طسم بستہ مولا س است ایں
 پاسبان کوچہ لیلا س است ایں

ذرے ذرے سے علاقہ رکھنے والے پر قربان ہونا علامت محبت کی ہے۔ عاشقوں کا طریقہ ہے کہ خط
 آئے تو اس پر صدقہ ہوں، قاصد آئے تو ان پر قربان ہو جائیں۔

صاحب! آپ کے لیے خط قرآن ہے اور قاصد حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں تو کیا آپ کے اللہ
 اور رسول کے ساتھ محبت کا یہ تقاضہ نہیں ہے کہ قرآن پر صدقہ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر قربان ہو جائیں۔
 اگر ایسا ہی محبوب کا اگر کوئی ذرا دشمن ہے تو وہ اس کا بہت بڑا دشمن بن جاتا ہے۔ لیلی کی دشمنی کرنے
 والے سے کبھی مجنوں کو محبت نہیں ہو سکتی، کبھی اطاعت نہیں کر سکتا۔ اگر صرف وہ لیلی کا دشمن ہی نہیں ہے بلکہ مجنوں
 کے واسطے رقیب بنا ہوا ہے لیلی چاہتی ہے کہ مجنوں سے ملاقات کرے، مگر یہ کمخت رقیب ایسے ایسے تدبیر کرتا ہے
 کہ مجنوں لیلی سے نہل سکے تو کیا ایسے رقیب سے مجنوں کو محبت ہو سکتی ہے، کیا وہ اس کی اطاعت کر سکتا ہے، نہیں
 ہرگز نہیں، پھر اس پر طرہ یہ کہ لیلی خود کہتی ہو کہ میرے مجنوں تو رقیب کی نہ سن، میں تجھ سے ملنے کے لیے تیار ہوں
 اتنا کہنے پر بھی کیا مجنوں رقیب کی اطاعت کرے گا۔ نہیں ہرگز نہیں۔

صاحب! پھر تم کیسے خدا کے چاہنے والے اور اس کے عاشق ہو جی، نہ تم کو اس کے علاقہ رکھنے والوں سے
 محبت ہے، نہ اس کے خط کی کچھ قدر ہے، نہ اس کے قاصد کی اطاعت ہے بلکہ خدا کا دشمن تمہارا رقیب جو شیطان
 ہے۔ اس سے محبت کرتے ہو، اس کی اطاعت کرتے ہو، بار بار خدا تعالیٰ فرماتا ہے میرے بندے تو شیطان کی نہ
 سن، پھر تو میں تیرا ہوں، تو میرا ہے، اللہ تعالیٰ کے اس ارشاد کو کسی نے نہ سنا، پھر بھی اسی شیطان کی اطاعت ہے
 اور اسی سے محبت ہے۔ سچ فرمائیے اگر خدا ملے تو کیسے ملے اور کیسے اس سے محبت بڑھے۔

اس مضمون کو خدا تعالیٰ نے ایک جگہ نہیں کئی جگہ اشارتاً صراحتاً ارشاد فرمایا ہے کوئی سنتا ہی نہیں۔ اب

اسی بات کو کچھ سمجھانا ہے اور انسان سے شیطان کی بے وجہ عداوت ہونے کا سبب بتلانا ہے۔

فصل - ۲

اس فصل میں شیطان کے سرکشی و تکبر کا مقابل خاصان خدا کے عجز سے کیا جاتا ہے واقعہ یوں ہوا کہ ابلیس خداوند تعالیٰ کی اس قدر عبادت کیا کہ خدائے تعالیٰ کا مقرب بن گیا، مال کی طرح عبادت سے بھی رعونت، نخوت، تکبر پیدا ہوتے ہیں، اس ظالم کو بھی یہی بات پیدا ہونے لگی، ایک روز بہشت کے دروازہ پر لکھا ہوا دیکھا کہ ہمارا ایک بندہ ہے، ہم اس کو اقسام کی نعمتوں سے اور عزت سے سرفراز کیئے۔ زمین سے آسمان پر لے آئے، آسمان سے جنتوں میں پہنچائے، باوجود اتنے احسانات کے ہم اس کو ایک بات کا حکم کریں گے وہ نافرمانی کرے گا۔

شیطان نے کہا الہی! وہ کون سا بندہ ہے مجھ کو دکھا، میں اس کو ہلاک کروں گا کہ اس کم بخت سے تیرے جیسے محسن کی ایک طاعت نہ ہو سکی۔ حکم ہوا عنقریب دیکھ لوگے، شیطان نے اپنے تمام اوراد و وظائف چھوڑ کر ہزار برس اس بندہ پر لعنت کرتا رہا۔ ہائے یہ نہ سمجھا کہ وہ خود ہی ہے (مردوں کی یہی علامت ہے) خدا کے مقبول بندے ایسے بھی ہیں:

مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا حضور کیسے ہیں فرمائیے، کیا پوچھتے ہو، خدا کی نعمت کھاتا ہوں اور شیطان کی فرماں برداری کرتا ہوں، ایک روز فرمائے، اگر کوئی مسجد کے دروازہ پر کوئی ندا کرے کہ بدترین تم میں کا کون ہے، میں باہر آؤں گا اور کہوں گا کہ سب سے بدتر میں ہی ہوں۔

ایک وقت کسی عورت نے مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ کو پکارا، اے ریا کار آپ نے جواب دیا میں سال ہوئے کسی نے مجھ کو میرے اصلی نام سے نہیں پکارا، نہ مجھ کو سمجھا البتہ تو سمجھی کہ میں کون ہوں۔

فصل - ۳

اس فصل کے مضمونیں :

- ۱۔ اللہ تعالیٰ سے محبت میں ابلیس کی ناکامی۔
- ۲۔ ابلیس کے ابتدائی خطاؤں پر خدائے تعالیٰ کا درگذر فرمانا۔
- ۳۔ ابلیس پر اللہ تعالیٰ کا اعتاب

محبت آسان ہے مگر بنناہ مشکل ہے، امتحان کرتے ہیں جب کہیں محبت کا علاقہ جوڑتے ہیں۔

حضرت ابراہیم علیہ السلام، مال، اولاد، جان، جب قربان کر دیئے تب کہیں خلیل کا خطاب ملا۔

سارے انبیاء کو جس قدر تکلیف پہنچی وہ سب ہمارے سر کار صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچی، جب کہیں حبیب اللہ ہوئے۔

اسی طرز پر شیطان سے بھی محبت آزمائے کا وقت آگیا۔

شیطان کی پہلی خطا اور معافی :-

اللہ تعالیٰ کا حکم ہوا ہم دُنیا میں ایک خلیفہ بناتے ہیں، یہی ظالم سب فرشتوں کو سکھا کر کھلوایا ہم عبادت کے لیے بس ہیں، ایسا ظالم مفسد کیوں پیدا کرتے ہیں، پہلی خطا تھی درگذر کردی گئی۔ اللہ تعالیٰ کے پاس تو ایسی ذہیل ہوتی ہی رہتی ہے آخر میں پکڑ بہت سخت ہوتی ہے۔

دوسری خطا اور معافی :-

آدم کا پتلا جب بن چکا تو ابلیس مع فوج ملائکہ کے سیر کے لیے آیا اور اس پتلے میں اندر سے باہر تک خوب گھوم کر دیکھا اور کہا مثل اور جانوروں کے یہ بھی ایک جانور ہے، خدائے تعالیٰ نے کوئی نایاب چیز نہیں بنائی ہاں قلب کی طرف کچھ بات ضرور ہے، اس کی پیدائش سے اگر کچھ غرض ہو سکتی ہے تو یہی معلوم ہوتی ہے۔ خدائے تعالیٰ نے اس متکبرانہ تقریر کو بھی درگذر کیا۔

تیری خطا اور معافی :-

ابليس نے مارے حد کے حضرت آدم کے پتلے پر تھوک دیا جو ناف پر گرا، وہ تھوک ملی ہوئی مٹی آدم علیہ السلام کے جسم سے نکال کر کتا بنایا گیا، اسی وجہ سے کتنے میں حضرت آدم کے ناف کے جز کا اثر ادمی سے محبت اور شیطان کے تھوک کا اثر شیطانی اوصاف پھاڑنا وغیرہ ہیں، غرض ابليس کی یہ حرکت بھی معاف کر دی گئی۔

ابليس کی چوتھی خطاء، اللہ تعالیٰ کا عتاب :-

تمام فرشتوں کو حکم ہوا کہ سجدہ کریں محسن کی طرف سے کہی جانے والی یہی ایک بات تھی جس کی ابليس سے اطاعت نہ ہو سکی، سب فرشتوں نے سجدہ کیا، فرشتوں نے جب سراٹھایا کیا دیکھتے ہیں کہ شیطان نے سجدہ نہیں کیا جس کی پاداش میں صورت مسخ ہو گئی ملعون ہو گیا، راندہ درگاہ ہو گیا اور زمین پر پھینک دیا گیا۔ اللہ تعالیٰ کے عتاب سے بچنے کے شکریہ میں فرشتوں نے اور ایک سجدہ کیا۔

صوفیائے کرام فرماتے ہیں نماز جنازہ میں سب لوگ صفائی باندھ کر سامنے جنازہ رکھ کر جو نماز پڑھتے ہیں، اس میں ایک رمز ہے وہ یہ کہ نماز جنازہ پڑھنے والے یاددالاتے ہیں کہ الہی! یہ وہی بندہ ہے جس کے باپ آدم علیہ السلام کو سامنے بٹھا کر جس طرح اب ہم صفائی باندھے ہیں اسی طرح آپ فرشتوں کو صفائی بنا کر سجدہ کرائے تھے۔ ایسی عزت دے کر اس مرنے والے کو قبر و مقامت میں ذلیل نہ کرنا۔

فصل - ۳

اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کی خطا اور ابليس کے گناہ پر سوال کیا، ان دونوں نے جو جواب دیا ان جوابوں کا تقابل اس فصل میں کیا گیا ہے اب یہاں خاک سے آدم کو بنانے کا راز کھلتا ہے، آہستگی، سکون، وقار، تحمل، برداہی، صبر، حیا، تواضع مٹی کے جو ہر ہیں۔

جب اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہوا کیوں آدم؟ یہ صور کیسے ہوا، آدم عرض کرتے ہیں:

رَبَّنَا ظَلَمْنَا أَنفُسَنَا إِن لَمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا نَنْكُونَنَّ مِنَ الْخَسِيرِينَ

(اللہ! نہ کرنا تھا کیا اگر آپ رحم نہ کریں تو ہم کہیں کے نہ رہیں گے ہمارے قصوروں کو معاف فرماء)

جب بچہ ماں کو ہی لپٹتا ہے، ماں کو محبت کا جوش ہو کر ریٹلے بچہ کو اٹھاتی ہے، ریٹ پوچھتی ہے اور سمجھا سمجھا کر بہلاتی ہے۔

ایسا ہی جب بندہ اپنے رب سے لپٹ جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ بھی اپنے بندہ سے گناہوں کا ریٹ پوچھ کر اپنی رحمت میں لے لیتے ہیں۔ بخلاف اس کے نار کا جو ہر، تیزی، سکی، جلدی، بے قراری ہے، جب ناری مخلوق شیطان سے اللہ تعالیٰ نے پوچھا اے ابلیس کیوں ایسا صور کیا، اس نے جواب دیا پر ورد گار تو نے مجھے دھوکا دیا۔ اس جواب پر اور اس زبان درازی کے بد لے مجانب اللہ لعنت ہوئی۔

فصل - ۵

آدم علیہ السلام کی توبہ قبول ہونے اور ابلیس کی توبہ قبول نہ ہونے کی وجہ پر اس فصل میں تفصیلی بحث کی جاتی ہے حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ تو قبول ہوئی اور ابلیس کی توبہ قبول نہیں ہوئی، اس پر ایک شبہ ہوتا ہے کہ آدم ایک گناہ کیے اور ابلیس بھی ایک گناہ کیا۔ کیا وجہ ہے کہ آدم علیہ السلام کی توبہ قبول ہوئی اور ابلیس کی توبہ قبول نہ ہوئی۔

اس کا جواب سمجھنے کے لیے ایک حکایت پر غور کیجیے۔

حکایت :-

ایک بادشاہ کے پاس دو غلام پیش ہوئے، ایک غلام نہایت عمدہ ریشمی کپڑے پہنے ہوئے تھا، دوسرے غلام کے کپڑے پہنے پڑانے تھے، بادشاہ پھٹے کپڑے والے کو پسند کیا۔ ریشمی کپڑے والے کو واپس کر دیا۔ وزیر نے پوچھا حضور! خوش لباس غلام کو واپس کر دیئے، بدلباس، بحال کو قبول کیے اس میں کیا بات ہے بادشاہ نے کہا دونوں غلاموں کے کپڑے اُتار دو تو راز کھلے گا، اور ہمارے ایک کو پسند کرنے اور دوسرے کو ناپسند کرنے کی وجہ معلوم ہو جائے گی، وزیر نے جب دونوں کے کپڑے اُتار دیا گیا دیکھتا ہے کہ اچھے کپڑے والے کے جسم سے بدبو آرہی ہے اور تمام جسم پر کوڑھ کے دھبے ہیں، پھٹے کپڑے والے غلام کے جسم سے خوبصورتی ہے اور تمام جسم پاکیزہ ہے، بادشاہ نے کہا اے وزیر! اسی وجہ سے میں اس کو قبول کیا اور اس کو واپس کر دیا۔

ایسا ہی آدم اور ابلیس دو (۲) غلاموں کی طرح اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش ہوئے ابلیس "وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ" ہم آپ کی تسبیح کرتے ہیں اور آپ کی تعریف کرتے ہیں) کا ریشمی لباس پہنا ہوا اور "وَنَقْدِسُ لَكَ" (ہم آپ کی پاکی بیان کرتے ہیں) کا کمر بند لگایا ہوا تھا۔ (پ ۱۴ سورہ بقرہ)

ادھر آدم علیہ السلام تواضع، انکساری، شکستہ دلی کا پہانا لباس پہنے ہوئے تھے، گناہ نے دونوں کا لباس اُتار دیا تو ابلیس کے جسم سے حسد کے کوڑھ کے دھبے اور تکبر کی بدبو آنے لگی، ادھر آدم علیہ السلام کے جسم سے عاجزی و درد دلی و قصور کے اقرار کی خوبصورتی نے لگی۔ یہ وجوہات تھے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ تو قبول کیا اور ابلیس کی توبہ قبول نہیں کیا۔

فقہ کے مسئلہ سے بھی اس کو سمجھ لیجیے:

مسئلہ :-

کوئی شخص غلام خریدے اور خریدنے کے بعد معلوم ہو کہ غلام کے منہ سے بدبو آتی ہے تو دیکھا جائے گا کہ اس کے منہ کی بدبو عارضی ہے اور کوئی چیز کھانے سے ہوئی ہے یا اصلی یہاری ہے اگر عارضی ہے تو غلام واپس نہیں

ہوگا، اصلی ہوتا وہ اپس ہوگا۔

اس مسئلہ کی تطبیق آدم اور ابلیس سے اس طرح ہوتی ہے کہ :-

حضرت آدم اور ابلیس دونوں کے منھ سے گناہ کی بدبو آرہی تھی مگر ابلیس کی بدبوئی تکبر کی یہماری سے تھی اور حضرت آدم کی بدبوئی گیھوں کھانے کی وجہ سے عارضی تھی اس لیے حضرت آدم قبول کیے گئے اور ابلیس واپس کیا گیا یعنی مردود ہو گیا۔

(ایک اور مثال سے اس مضمون کو واضح طور پر سمجھا جا سکتا ہے)۔

اکثر ایسا ہوتا ہے کہ سوناد کیخنے والوں کو بہت عمدہ معلوم ہوتا ہے، صراف تک بھی دھوکا کھا جاتے ہیں مگر کالا پتھر یعنی کسوٹی لے کر سونے کو اس پر جب رکڑتے ہیں تو معلوم ہوتا ہے کہ جس کو ہم کھرا سمجھے تھے وہ تو کھوٹا ہے۔ ایسا ہی ابلیس سونے کے جیسا چمک رہا تھا فرشتے بھی دھوکا کھا گئے مگر حضرت آدم کی کسوٹی پر رکڑتے ہیں معلوم ہوا کہ ابلیس بالکل کھوٹا ہے اس لیے وہ واپس کر دیا گیا مردود ہو گیا۔

فصل - ۶

یہ فصل ابلیس کے معتوب ہونے کے باوجود اس کے قیامت تک زندہ رہنے کی دعا قبول ہونے کے وجہات کی صراحة میں۔

ابلیس نے کہا اللہی! اگرچہ میں کھوٹا ہوں پھر بھی میری کچھ نہ کچھ قیمت ہونی چاہیے۔ اللہ رے تھی دربار، اللہ تعالیٰ کا حکم ہوا، مانگ کیا مانگتا ہے۔

ابلیس نے عرض کیا اللہی! صرف اتنی آرزو ہے کہ قیات تک زندہ رہوں۔ باری تعالیٰ کا حکم ہوا قیامت تک تو نہیں البتہ "نَفْخَةً أُولَى" (پہلی بار صور پھونکے جانے تک) موت سے مہلت دی جاتی ہے۔

چاہیے تو یہ تھا توبہ کرتا، مگر وہی ہٹ بس یہی ہٹا ہے، ہائے مانگا بھی تو کیا وہی دُنیا کی چند روزہ زندگی،

اسی کو دنیا میں کھپ جانا کہتے ہیں، ایسے اعمال سے آخرت بالکل بھولی جاتی ہے یہی برا ہے۔

آپ کو تعجب ہو رہا ہو گا کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم کو مقبول کیا، ان کو مہلت نہیں دیا۔ ابلیس کو مردود کیا، اس کو قیامت تک کی مہلت دیا، اس کی کیا وجہ ہے۔

اس مضمون کو سمجھنے کے لیے ذیل کی حکایت پر غور کیجیے:

حکایت :-

بادشاہ کا ایک شکاری کتا تھا، بادشاہ اس کو بہت چاہتا تھا اس کے گلے میں سونے کا پٹہ ڈالا تھا جب یہ کتا بوڑھا ہوا تو اس کی عقل میں فتور آگیا، مالک کو ہی کامنے لگا، بادشاہ نے کہا جب یہ مالک کو ہی نہیں پہچانتا تو اب یہ کس کام کا۔ اس کو لے جا کر جنگل میں چھوڑ دو، مگر اس کے گلے کا پٹہ مت اُتارو، خدمت گزار عرض کیے سر کار اس میں کیا حکمت ہے، بادشاہ نے کہا اس کتنے سے میں شکار کر کے دل بہلا دیا ہوں، میری طرف سے اب اس کتنے کا یہ آخری حصہ ہے اس کے بعد یہ مجھ سے کوئی آرام نہیں دیکھے گا۔

ایسا ہی حال ہے ابلیس کا ہے کہ بہت مدت تک خدائے تعالیٰ کی عبادت کرتا رہا، آخر میں یہ اپنے مالک سے ہی بدل گیا، اس لیے اس کو دنیا کے جنگل میں چھوڑ دیئے ہیں اور اس کے گلے میں قیامت تک کی عمر کا پٹہ رہنے دیئے ہیں، خدائے تعالیٰ کی طرف سے یہی اس کا آخری حصہ ہے پھر کبھی راحت نہیں دیکھے گا۔

فصل - ۷

عالم، جاہل، زاہد، عوام خواص کو بھٹکانے کا جواب ابلیس نے ارادہ کیا ہے، اس فصل میں اس کا بیان ہے۔
شیطان کے حسد اور کینہ کی کوئی حد نہ رہی، اس کے دل میں جنم گیا کہ ساری خرابی آدم علیہ السلام کے سب سے ہوئی اس لیے آدم کا اور آدم کی اولاد کا دشمن ہو گیا۔

اللہ تعالیٰ سے ابليس کا پہلا وعدہ :-

لَا حَتَّنَكَنْ ذُرِّيَّتَهُ (پ ۱۵ ع ۷ سورہ بنی اسرائیل)

آدم کی اولاد کا ستیاناس کر دوں گا کبھی آپ کا نہیں ہونے دوں گا۔

"بِمَا أَغْوَيْتَنِي لَا رَيْنَ لَهُمْ فِي الْأَرْضِ (پ ۱۴ ع ۳ سورہ الحجر)

آپ کے دھوکا دینے کی قسم آدم کی اولاد کے سامنے دُنیا اور دُنیا کے خواہشات کو نہایت لذیذ اور خوشنما کر کے دھکلاؤں گا۔ اس کا نتیجہ یہ ہو گا کہ آخرت میں رسوانی اور فضیحت دیکھیں گے۔

صا جبو! کیا کام کی وہ لذت جس کے آخر میں فضیحت ہو، اس کی ایسی مثال ہوئی کہ کسی نے بڑا مزیدار کھانا کھایا پھر ہوئی اس کو بدھشمی، لذت گئی گذری ہوئی اور فضیحت رہ گئی۔

اللہ تعالیٰ سے ابليس کا دوسرا وعدہ :-

وَلَا غُوِينَهُمْ أَجْمَعِينَ ۝ (پ ۱۴ ع ۳ سورہ الحجر)

سب کو گمراہ کر دوں گا عوام مثل گیند کے ہوں گے جس طرح چاہوں گا بھٹکاؤں گا البتہ عالموں سے کہوں گا تمہارا علم ہی بس ہے تم کو عمل کی کیا ضرورت، تم خود شفاعت کرو گے ہائے، انہوں نے یہ نہ سمجھا کہ بیمار کی بیماری علم طب جاننے سے نہیں جاتی۔

طبیب کو بھی دو اپنا پڑتا ہے، ایسا ہی عالم کو بھی عمل کی ضرورت ہے۔

اللہ تعالیٰ سے ابليس کا تیسرا وعدہ :-

عبدوں اور زاہدوں کو پانی کے اور طہارت کے وسوسوں میں رکھوں گا۔ ظاہری طہارت میں ہی پھنسارکھوں گا مال حرام آتا ہے تو آنے دیں، اس کے احتیاط کی کچھ فکر نہ کریں۔

اللہ تعالیٰ سے ابليس کا چوتھا وعدہ :-

قاریوں کو حروف درست کرنے میں اور آواز بنانے اور درست کرنے میں ہی رکھوں گا۔ دل کو کھینچ تان کر

تیری طرف لانے کی فکر نہیں کرنے دوں گا۔
 ہائے قاریوں کو یہ سمجھنے ہی نہ دوں گا کہ اگر کوئی حاکم و امیر کے سامنے کہے
 ”آیہا الٰ میڈر“ اور امیر کے میم اور لاء کو درست کرنے میں رہا تو امیر کہے گا یہ کیا دلگی کر رہا
 ہے نکال دواس کو۔

نماز میں قرات سے زیادہ دل کو درست رکھنے کی تائید میں یہ حکایت ہے:

حکایت :-

حضرت جبیب عجمی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ گئے نماز کا وقت تھا، حضرت جبیب عجمی امام بنے، حضرت سے قرات اچھی طرح ادا نہیں ہوئی، حضرت حسن بصریؒ کو خیال ہوا کہ نماز فاسد ہو گئی تھا پڑھے رات کو خواب میں اللہ تعالیٰ کو دیکھے، عرض کیے الہی! آپ کی رضا کس چیز میں ہے؟ حکم ہوا ہماری رضا کا موقع آگیا تھا تم نے قدر نہ کی، حضرت حسن رحمۃ اللہ علیہ عرض کیے وہ کونسا موقع تھا۔ حکم ہوا حسن! اگر تم جبیب عجمیؒ کے پیچھے نماز پڑھتے تو تمہاری تمام نمازوں کی یہ نماز سردار ہوتی ”حسن تم زبان کی درستگی کو دیکھے دل کی درستگی کو نہیں دیکھے۔

اللہ تعالیٰ سے ابلیس کا پانچواں وعدہ :-

عام صوفیوں کو لباس ایسا بنانے میں رکھوں گا کہ مثل حقیقی صوفی کے تکڑے تکڑے نئے کپڑوں کے لگا کر سلامیں، حالاں کے حقیقی صوفی کپڑا نہ ہونے سے بناتے تھے، یہ کپڑا رکھ کر صرف ولیٰ صورت بناتے ہیں یعنی صورت صوفیوں کے جیسی بنا دوں گا حالت ولیٰ ہونے نہ دوں گا۔

اللہ تعالیٰ سے ابلیس کا چھٹا وعدہ :-

مالداروں کو سکھاؤں گا کہ حرام کمائی کمائی اگر کوئی کہے تو جواب دلاوں گا کہ جائز ہونے کا فتویٰ ہو گیا ہے پھر ان سے بخالت کراؤں گا یا اسراف یا نام و نمود کیلئے خرچ کراؤں گا آپ کے لیے کچھ کرنے نہ دوں گا۔“

غرض دُنیا کو سب کے سامنے خوش نما بنانا کر پیش کروں گا اور کہوں گا کہ ایسی خوب صورت دُنیا کو کون لیتا ہے لے لے، کفار تو گر پڑ کر لیں گے۔

اللہ تعالیٰ سے ابلیس کا ساتھاں وعدہ :-

البتہ مسلمان جن کو آپ اپنا دوست کہیں گے وہ انکار کریں گے اور کہیں گے دُنیا کا نمونہ دو ہم پہلے چکھ کر بعد میں لیں گے، میں کہوں گا نمونہ حاضر ہے مگر نمونہ کے عوض کچھ رہن رکھا و مسلمان کہیں گے کیا رہن رکھائیں، میں کہوں گا اپنے کان اور آنکھ گروی رکھا تو مسلمان راضی ہو کر اپنی آنکھ اور کان میرے پاس گرو رکھائیں گے اور سب دُنیا کا مزہ چکھ کر دُنیا کے پیچھے پڑھ جائیں گے ان کے آنکھ اور کان تو میرے پاس گروی ہوں گے اس لیے ہزار کوئی دُنیا کے عیوب بیان کرے مگر ایک عیوب بھی ان کے سننے میں نہیں آئے گا، ہزار دُنیا کی بے وفائی اور اس کے دیدے بدلنا دیکھیں گے مگر کچھ نظر نہیں آئے گا نہ عبرت ہوگی۔

حکایت :-

ایک مرشد کے پاس مرید شکایت کیا کہ حضرت میں شیطان سے تنگ آگیا ہوں بہت کوشش کرتا ہوں وسو سے جاتے ہی نہیں۔ مرشد کہے ابھی ابھی میرے پاس سے شیطان رو رو کر گیا ہے کہ لوگوں سے میں تنگ آگیا ہوں کہ اپنے دل میں میرے آنے کی شکایت کرتے پھرتے ہیں ”دُنیا میری بیٹی ہے اس کو اپنے دل میں رکھے ہیں، بیٹی کے واسطے میں آتا ہوں اگر آج دُنیا کو اپنے دل سے نکال دیں تو پھر میں کبھی ان کے پاس نہ جاؤں گا۔

اللہ تعالیٰ سے ابلیس کا آٹھواں وعدہ :-

لَا تَخِذْنَ مِنْ عِبَادِكَ نَحِيْبًا مَفْرُوضًا (پ ۵ ع ۱۸ سورۃ النساء)
(تیرے سب بندوں سے اپنی اطاعت کا مقررہ حصہ لوں گا)

وَلَا يُضْلِنَّهُمْ (پ ۵ ع ۱۸ سورۃ النساء)

ان کو گراہ کر کے عقائد میں خلل ڈالوں گا)

وَلَا مَنِينَهُمْ (پ ۵ ع ۱۸ سورۃ النساء)

انکے دلوں میں طرح طرح کے آرزوؤں گا ہمیشہ اس خیال میں رکھوں گا کہ اس دارفانی سے ان کو کوچ کرنا ہی نہیں ہے جس طرح بھی ممکن ہو آرزوؤں کے پورا کرنے کا شوق دلاوں گا جس کے واسطے ایذا رسانی، جھوٹ، ظلم، دعا بازی، سب باتیں کر گزریں گے، کسی عبرت ناک بات کا ان پر اثر ہونے نہیں دوں گا۔

عبرت کے لیے یہ کیا کچھ کم ہے کہ دُنیا میں مثل ریل کے ہے لوگ چڑھتے اور اترتے ہیں اور ہر وقت گھنٹی نج رہی ہے کہ چبو بیدار ہو جاؤ تم کو بھی یہ سفر درپیش ہے (گھنٹی لوگوں کا مرنا ہے)

آپ کو معلوم ہے کہ جنازہ کی نماز میں اذان اور تکبیر کیوں نہیں، اس لیے نہیں ہے کہ جنازہ کی نماز کی اذان اور تکبیر پیدا ہوتے ہی بچہ کے کان میں دیدی گئی ہے، اس سے بچہ کو یہ بتا دیا گیا ہے کہ اذان اور تکبیر ہو چکی ہے، اب صرف نماز جنازہ کا انتظار کرو، موت کو مت بھولو۔

شیطان نے کہا یہ خیال بھی ڈالوں گا کہ جلدی کیا ہے ابھی بہت دن باقی ہیں آخرت کی تیاری کر لیں گے، پہلے تو بڑھاپے کا انتظار کراؤں گا، پھر بڑھاپے میں یہ سمجھاؤں گا کہ ذرا یہ گھر بن جائے، اس کے بعد کام ہی کیا ہے، آخرت ہی کی تو تیاری کرنا ہے جب گھر بن جائے تو سو جھاؤں گا کہ بچہ کی شادی ہو جانے دو، دُنیا میں پھنسا ہوا شخص کبھی یہ کہے گا ایک دُشمن ہے ذرا اس کو سزا دلا کر پھر خدا کی طرف متوجہ ہو جاتا ہوں۔

ہائے، یہ نہ سمجھا کہ دُنیا کے کام ایک ختم ہونے کے پہلے دس کھڑے ہو جاتے ہیں۔

غرض انسان اسی میں رہے گا کچھ نہ ہو سکے گا کہ موت آجائے گی وہ یوں ہی خالی ہاتھ چلا جائے گا۔

حکایت :-

ایک بوڑھا کھیت کا کام کر رہا تھا، خیال آیا مرنے والے کے لیے یہ سب بکھیرے فضول ہیں، سب کام

چھوڑ کر ایک جگہ بینٹھ گیا تھوڑی دیر کے بعد کہا آخر جیسے تک کرنا ہے پھر کام شروع کر دیا۔

اللہ تعالیٰ سے اپنیس کا نواں وعدہ :-

وَلَا مُرَنَّهُمْ فَلَيُبَتِّكُنَّ اذَانَ الْأَنْعَامِ (پ ۵ ع ۱۸ سورۃ النساء)

حکم کروں گا کہ افعالی کفر کیا کریں۔ بتوں کے نام سے جیسے اور لوگ جانوروں کے کان کاٹتے ہیں ایسا ہی مسلمان بھی کریں بلکہ جینے کی امید سے اپنے بچوں کے کان ناک چھیدا کریں۔

اللہ تعالیٰ سے اپنیس کا دسوں وعدہ :

وَلَا مُرَنَّهُمْ فَلَيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ (پ ۵ ع ۱۸ سورہ النساء)

اور یہ سکھاؤں گا کہ :

اللہ تعالیٰ کی پیدا کی ہوئی چیز میں اللہ تعالیٰ کی مرضی کے موافق تغیر نہ کریں بلکہ اللہ تعالیٰ کی پیدا کی ہوئی چیز میں میری مرضی کے موافق تغیر کیا کریں۔

جیسے موچھ اور داڑھی کہ یہ اللہ تعالیٰ کی پیدا کی ہوئی ہیں مگر میں ان میں اللہ و رسول کے حکم کے موافق تغیر یعنی موچھ کتروانے اور داڑھی کے چھوڑنے کے بجائے اپنے مرضی کے موافق تغیر یعنی موچھ رکھنے اور داڑھی منڈھوانے پر عمل کراؤں گا۔

(آنندہ توبہ اور گناہ کے تدارک کا ذکر آرہا ہے اس لیے توبہ کی تعریف بیان کی جاتی ہے تو بہ کی تعریف یہ ہے کہ پچھلے بُرے کاموں پر نادم ہو کر گناہ کی وجہ سے جو بگاڑ ہوئے ہیں اسے درست کر لے، جیسے غصب کیا ہے تو مال مخصوصہ واپس کر دے)

ہائے، داڑھی میں خلاف شرع تغیر کرنے والا یہ نہ سمجھا کہ سب گناہ کا تدارک قریب موت کے بھی توبہ کر کے کر سکتے ہیں مگر اس داڑھی کے گناہ کے تدارک کے لیے سال بھر چاہیے جب کہیں داڑھی سنت کے موافق ہوگی، اگر اس کے پہلے ہی انتقال ہو جائے، اور قبر میں اس کے اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر

شریف تک جو راہ ہو جاتی ہے وہ راہ ہو جائے اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پوچھیں کیوں اُمّتی کیا میری صورت کی جیسی تیری صورت ہے۔ دیکھ کیا میری صورت ایسی ہی تیرے جیسی داڑھی مونڈھی ہوئی ہے تو اس کا کیا جواب ہے ذرا سوچ رکھے۔

غرض اصلی فطرت جو توحید پر ہوئی ہے اس کو غضبانی، شہوانی و بھیمانی باتوں سے ناپاک کروادوں گا۔

اللہ تعالیٰ سے ابليس کا گیارہواں وعدہ :-

لَا تَيْنَهُمْ مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ وَعَنْ أَيْمَانِهِمْ وَعَنْ شَمَاءِهِمْ
وَلَا تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَكِيرِينَ ۝ (پ ۸۴ سورہ الاعراف)

میں ان کے سامنے سے آؤں گا اور پیچھے سے اور دائیں طرف سے اور بائیں طرف سے آؤں گا یعنی چو طرف سے ان کو گمراہ کروں گا۔

یہ بات سن کر انسان پر فرشتوں کو ترس آیا اللہ تعالیٰ نے فرمایا فرشتو! تم رنج مت کرو، انسان کے لیے اور اور نیچے کی جہت باقی رہ گئی ہے جب وہ اپنے دونوں ہاتھ عاجزی سے اوپر کی طرف اٹھائیں گے یا پیشانی زمین پر نیکیں گے تو ان کے تمام گناہوں کو معاف کر دوں گا۔

اللہ تعالیٰ سے ابليس کا بارہواں وعدہ :-

شیطان نے کہا میں اپنی ذرا ذرا سی چال سے بڑے بڑے ہنگامے بپا کر دوں گا۔

حکایت :-

کسی نے شیطان سے کہا تھا کہ تو بڑا ملعون ہے بڑے بڑے گناہ کرتا ہے، اس نے کہا میں کیا گناہ کرتا ہوں، میں تو صرف ذرا سی بات کرتا ہوں لوگ اس کو بڑھا لیتے ہیں۔ آؤ میں تم کو ایک تماشہ دکھاتا ہوں، دونوں ایک دوکان پر پہنچے، شیطان نے شیرہ کی ایک انگلی دیوار پر لگادی، اس شیرہ پر ایک مکھی آبیٹھی، ایک

چپکلی اس مکھی پر جھپٹی، اس چپکلی پر دوکاندار کی بلی دوڑی اس بلی پر ایک فوجی سوار خریدار کا کتا لپکا۔ دوکان دار نے اس کتے کو ایک لکڑی سے مارا، سوار کو جو غصہ آیا اس نے دوکان دار کو ایک تلوار ماری، بازار والوں نے دوکان دار کے انتقام میں سوار کو قتل کر ڈالا، فوج میں خبر پہنچی، فوجیوں نے تمام بازار کو گھیر کر قتل عام شروع کر دیا، بادشاہ نے سزا میں دوسری فوج منگا کر قتل کرانا شروع کر دیا۔ ایک گھنٹہ میں سارے شہر میں خون کی ندی بہہ گئی۔

”شیطان نے کہا ویکھا آپ نے میں نے کیا کیا تھا لوگوں نے کہاں تک بڑھا دیا“

فصل - ۸

اللہ تعالیٰ کے سامنے ابلیس نے اولادِ آدم کو بھٹکانے کی جو تفصیلات بیان کیے اس سے پہلے کی فصل میں آپ پڑھ چکے ہیں، اس فصل میں ابلیس سے اللہ تعالیٰ نے جو جوار شاد فرمایا اس کو پڑھیے۔
اللہ تعالیٰ کا پہلا ارشاد :-

ابلیس کے بھٹکانے کی پوری سرگزشت سن کر اللہ تعالیٰ نے فرمایا

”إذْهَبْ“

ارے جابے جو کچھ تجھ سے ہو سکے وہ سب کر لے

”وَاسْتَغْرِزْ رُّمِّنِ اسْتَطَعْتَ مِنْهُمْ بِصَوْتِكَ“

(پ ۱۵۴ - سورۃ بنی اسرائیل)

اولادِ آدم میں سے جن جن پر تیرا قابو چلے اپنی حیثیت و پکار سے قابو پا لے۔

اللہ تعالیٰ نے آیت مذکورہ میں ”بصوٰتِک“ جوار شاد فرمایا اس سے مراد شیطان کی آواز ہے، شیطان کی آواز میں ذیل کی تمام چیزیں داخل ہیں۔

ونسوہ بُرے خیالات دل میں ڈالنا، شہوت انگیز آواز، جیسے راگ، بلجہ وغیرہ عورتوں کے زیور کی آواز،

معصیت کی طرف بلانے والی آواز، خدا تعالیٰ کی مرضی کے خلاف جو آواز منہ سے نکلے۔

ان تفصیلات کے بعد اب ارشاد باری تعالیٰ پر غور کیجیے، ارشاد ہوتا ہے ان تمام ذرائع سے جن جن لوگوں پر تیرا قابو چلے ان کے قدم راہ راست سے اکھاڑڈا لانا۔

اللہ تعالیٰ کا دوسرا ارشاد :-

وَاجْلِبْ عَلَيْهِمْ بِخَيْلَكَ وَرَجْلَكَ (پ ۱۵ ع ۷ - سورۃ بنی اسرائیل)
ان سب پر اپنے سوار اور پیادہ چھوڑتا کہ سب مل کر گراہ کرنے میں خوب زور لگائیں ممکن ہے کہ شیطان کے سوار اور پیادہ ہوتے ہوں۔

اللہ تعالیٰ کا تیسرا ارشاد:-

وَشَارِكُهُمْ فِي الْأَمْوَالِ وَالآُولَادِ (پ ۱۵ ع ۷ - سورۃ بنی اسرائیل)
ان کے مال اور اولاد میں اپنا سماجھا کر لینا

اللہ تعالیٰ کے ارشاد میں لفظ "شَارِكُهُمْ" آیا ہے جس کے معنی ہیں سماجھے یا شرکت کے، مال میں شیطان کے سماجھے اور شرکت کی تفصیل یہ ہے:

مال حرام طریقہ ربی (سود) وغیرہ سے پیدا کیا گیا ہو۔

مال کا صرفہ اور خرچ احکامِ خداوندی کے خلاف کیا جائے۔

مال میں بیجا اسراف کیا جائے۔ (زکوٰۃ نہ دی جائے) مال اچھے کام میں خرچ نہ کیا جائے۔

اسی طرح اولاد میں شیطان کا سماجھا یا شرکت دو طرح سے ہوتی ہے۔

ایک اولاد ایسے ذرائع سے پیدا کی جائے جو حرام ہیں۔

دوسرے ایسے قول یا فعل کا مرتكب ہو جس سے نکاح باطل ہو جاتا ہے اس کے بعد اسی باطل شدہ نکاح کی حالت میں اولاد پیدا ہو۔

دنیا طلبی میں عمر ضائع کریں گے، فطرہ جو خیر کی استعداد ہے اس کو بگاڑ کر شر کی حالت پیدا کر لیں گے۔
حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ عنہ، سے روایت ہے کہ جب جماع ہے پہلے بسم اللہ نہ پڑھی جائے تو
شیطان بھی جماع میں شریک ہو جاتا ہے، جماع کرنے والے کے ساتھ شیطان بھی ازالہ کرتا ہے۔

حدیث :- ابلیس جب زمین کی طرف اتارا گیا تو اللہ تعالیٰ سے ابلیس نے یہ مطالبات کیے۔

حدیث :-

ابلیس نے کہا الہی مجھے گھردے۔

اللہ تعالیٰ نے فرمایا تیرا اگر حمام ہے۔

ابلیس نے کہا مجھ کو بیٹھنے کے لیے کوئی جگہ بتا دے۔

اللہ تعالیٰ نے فرمایا تیرے بیٹھنے کی جگہ بازار ہے۔

ابلیس نے کہا میرے لیے کھانا دے۔

اللہ تعالیٰ نے فرمایا جس کھانے پر بسم اللہ نہ پڑھی جائے وہ تیرے لیے کھانا ہے۔

ابلیس نے کہا میرے لیے پینے کی کوئی چیز دے۔

اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہر نشہ آور چیز تیرے پینے کے لیے ہے۔

ابلیس نے کہا میرے لیے موذن دے۔

اللہ تعالیٰ نے فرمایا مزامیر و بابے وغیرہ تیرے موذن ہیں۔

ابلیس نے کہا مجھ کو قرآن کے جیسی کوئی چیز دے۔

اللہ تعالیٰ نے فرمایا بُرے شعر تیرے لیے قرآن کے جیسے ہیں تو اس سے لوگوں کو گمراہ کر۔

ابلیس نے کہا میرے لیے کتاب دے۔

اللہ تعالیٰ نے فرمایا ”وَشِم“ یعنی گوندھنا تیری کتاب ہے (جسم پر طرح طرح کے پائدار نقش نکالنا)

بلیں نے کہا میرے لیے حدیث کے جیسی کوئی چیز دے۔

اللہ تعالیٰ نے فرمایا کذب، جھوٹ تیرے لیے حدیث کے جیسے ہیں۔

بلیں نے کہا میرے لیے رسول کسی کو بنا۔

اللہ تعالیٰ نے فرمایا کا ہن، نجومی تیرے رسول ہیں۔

بلیں نے کہا میرا جالا کیا ہوگا۔

اللہ تعالیٰ نے فرمایا عورتیں تیرے جائے ہیں ان کے ذریعہ سے تو لوگوں کو گناہوں میں پھنسا۔

اللہ تعالیٰ کا چوتھا ارشاد :-

وَعِدْهُمْ (پ ۱۵ ع ۷ - سورۃ بنی اسرائیل)

انسان سے شیطان جھوٹے وعدے کرتا ہے کہ میاں جو کچھ مزے ہیں یہیں ہیں کسی آخرت، کہاں کی قیامت، کہاں کا گناہ پر مواخذہ سب ڈھکو سلے ہیں۔

وَمَا يَعِدُهُمُ الشَّيْطَنُ إِلَّا غُرُورًا (پ ۱۵ ع ۷ - سورۃ بنی اسرائیل)

شیطان جھوٹے وعدے کرتا ہے، شیطانی وعدے دھوکے کی ٹھی ہوتے ہیں، دل کے ارمان دل ہی میں رہ جاتے ہیں کہ موت آلتی ہے۔

آپ نے اوپر اللہ تعالیٰ کے جس قدر ارشادات پڑھے وہ ذیل کے ارشاد کی تمہید تھی۔ اب اللہ تعالیٰ کا اہم ترین ارشاد پڑھئے۔

اللہ تعالیٰ کا پانچواں اہم ارشاد :-

إِنَّ عَبَادِي لَيْسُ لَكَ عَلَيْهِمْ سُلْطَانٌ " وَكَفَى بِرَبِّكَ وَكِيلًا

(پ ۱۵ ع ۷ - بنی اسرائیل)

ہاں میرے خاص بندوں پر تیرا قابونہ چلے گا۔ ”اس کا قابو کیسا چلے جب کہ آپ کارب کفیل و کارساز ہے

ان کی قوت ملکیہ پر قوت بھی یہ غالب نہ ہونے پائے گی۔

اللہ تعالیٰ کا چھٹا ارشاد :

”فَمَنْ تَبِعَكُ مِنْهُمْ فَإِنَّ جَهَنَّمَ جَزَاءُكُمْ جَرَأَةٌ مَوْفُورَةٌ“

(پ ۱۵۷ سورۃ بنی اسرائیل)

جو شخص ان میں سے تیرے ساتھ ہو گا اور تیرے تابع ہو گا، تم سب کی پوری پوری سزا جہنم ہے۔

”إِنَّ عِبَادِيُ لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ سُلْطَانٌ“ ط (پ ۱۵۷ سورۃ بنی اسرائیل)

غرض میرے خاص بندوں پر تیرا کچھ قابو نہیں چلے گا۔

خاص بندوں کے مراتب کا اندازہ لگانے کے لیے یہ حکایت سنئے:

حکایت :-

حضرت جنید رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ بازار میں ابلیس نگا پھر رہا تھا۔ حضرت فرمائے، تجھے نگا پھرتے شرم نہیں آتی۔ ابلیس نے کہا انسان سے شرم کی جاتی ہے نہ کہ حیوانوں سے، مسجد میں جو بیٹھے ہیں ان کو انسان کہتے ہیں شرم ان سے آتی ہے حضرت جنید فرماتے ہیں کہ میں مسجد میں گیا دیکھا کہ ایک بزرگ مراقب ہیں۔ میں جاتے ہی انہوں نے سر اٹھایا اور فرمایا جنید مردود کی بات پر دھوکا نہ کھاؤ، خدا کے ولی کو ابلیس کیا جانے۔

فصل - ۹

شیطان جیسے سرکش کے پیدا کرنے کی غرض و غایت کا بیان :-

ابلیس جب ایسا زبان دراز، بے ادب، خدا کا دشمن اور انسان کا دشمن ہے تو اس کو پیدا ہی کیوں کیا گیا؟ اس کا جواب سمجھنے کے لیے سنت الہی یعنی اللہ تعالیٰ کے مقرر کردہ اصول کو سمجھنے اس کے بعد اس سوال

کے سمجھنے میں سہولت ہوگی۔

جواب : ہر چیز میں خداۓ تعالیٰ کا ایک راز ہے۔

سنتِ الہی نمبر (۱)

خداۓ تعالیٰ میں یہ قدرت ہے کہ بغیر محنت اور مشقت کے اپنے بندوں کو لباس پہنانے مگر ایک راز ہے جو روئی کے بیچ میں چھپا ہوا ہے، دُنیا بھر کے جتنے کپڑے ہیں وہ سب روئی کے بیچ میں ہیں، یہ راز جب ہی کھلتا ہے جب روئی کا نیچ زمین میں پڑے۔

سنتِ الہی نمبر (۲)

مسکہ اور گھر میں بھی خدا کا ایک بھید ہے جو دودھ اور دہی میں چھپا ہوا ہے، یہ بھید جب ہی کھلتا ہے کہ دہی کو روئی سے بلویا جائے۔

سنتِ الہی نمبر (۳)

آگ خدا کا ایک راز ہے جو چتماق کے پتھرا اور لوہے میں چھپا ہوا ہے چتماق کپڑوں میں رکھئے کپڑے نہیں جلتے یہ راز جب ظاہر ہوتا ہے کہ پتھر سے رگڑا جائے۔

اوپر بتائے ہوئے سنتِ الہی تمہید تھے ان کو بتلانے کی غرض یہ سنتِ الہی نمبر (۲) ہے۔

سنتِ الہی نمبر (۲) :- ایسا ہی "إِنَّ عَبَادِيْ لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ سُلْطَنٌ" (پ ۱۵۴۔ سورہ منی اسرائیل) بھی خدا کا ایک راز ہے جو انسان میں چھپا ہوا ہے، ہر شخص کے ساتھ یہ ہی خیال ہوتا ہے کہ یہ خدا کا خاص بندہ ہے شیطان کا اس پر قابو نہیں ہے، یہ راز جب کھلتا ہے کہ کسی شخص کو شیطان سے سابقہ پڑے اور وہ دو امور پر عمل پیرا رہے، ایک ہربات میں شیطان کی مخالفت کرے، دوسرے اگر شیطانی وسوسہ سے گناہ ہو جائے تو فوراً توہ

کر لے اگر کسی نے ان امور پر عمل کر لیا تو اب معلوم ہوا کہ وہ شخص "إِنْ عَبَادِيُّ لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ سُلْطَانٌ" میں سے ہے اور اگر وہ شخص نہ شیطان کی مخالفت کیا اور اگر گناہ ہو جائے تو توبہ بھی نہیں کیا تو معلوم ہوا کہ وہ "فَمَنْ تَبِعَكَ مِنْهُمْ فَإِنَّ جَهَنَّمَ جَزَآءُكُمْ جَزَآءٌ مَوْفُورًا" (پ ۱۵۷ سورۃ بنی اسرائیل) میں سے ہے۔

سنۃ الہی سے مطابقت اور ابلیس کے پیدا کرنے کی غرض و غایت :-
اگر آگ نہ ہوتی تو عود اور اگربق کی خوبیوں بھی نہ مہکتی، اسی طرح اگر شیطان نہ ہوتا تو ایمانداری کی فضیلت ظاہر نہ ہوتی، اس لیے شیطان کو پیدا کیا۔

اس کے بعد ابلیس نے عرض کیا الہی! آپ کے خاص بندوں کی کیا علامت ہے؟
ارشاد باری تعالیٰ ہوا، میرے خاص بندے وہ ہیں کہ میں ان کے چہروں پر نور، عرش سے دیا ہوں، ان کی مٹی کا خمیر حضرت ابراہیم علیہ السلام و حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی مٹی سے کیا ہوں جس کا اثر ہے کہ ان کا قلب غمگین، اپنے گناہوں پر نادم اور وہ اپنے خاتمہ سے ڈرنے والے ہوتے ہیں اور وہ لوگ مسکینوں کو کھانا کھلانے والے، میرے بندوں پر رحم کرنے والے، میرے حکم پر راضی، میری مرضی کے موافق رہنے والے، میری رضا کو طلب کرنے والے ہوتے ہیں۔

اللہ تعالیٰ شیطان سے سب کچھ کہنے کے بعد ادھرا پنے بندوں کو کس درد بھرے الفاظ میں سمجھاتے ہیں قابل غور ہے:

أَفَتَتَخِذُونَهُ وَذُرِّيَّتَهُ أَوْلِيَاءَ مِنْ دُونِيٍّ وَهُمْ لَكُمْ عَدُوٌّ . بِئْسَ لِلظَّالِمِينَ بَدَلًا
(پ ۱۵۷ سورۃ الکھف)

کیا مجھ کو چھوڑ کر تم شیطان کو اور اس کی ذریت کو دوست بناتے ہو، ارے وہ تو تمہارا دشمن ہے نا۔ ہائے

ظالموں کو کیسا برابر ملا۔

شیطان نے تم سے وعدہ کیا اور ہم بھی تم سے وعدہ کیے۔

وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ قِيلَّاً ه (پ ۵۴ سورۃ النساء)

خدا سے بڑھ کر کون سچا ہے، ہمارے پچے وعدوں کا تم کو کچھ خیال نہیں، شیطان کے جھوٹے وعدوں پر گرے جاتے ہو۔

فصل - ۱۰

ابليس کے فریب سے بچنے کے تدبیر کا بیان

جب آدم علیہ السلام نے دیکھا کہ اپنی ہر ذریت کے ساتھ شیطان لگا ہوا ہے تو خدائے تعالیٰ سے دعا کئیے، ان کی دعا قبول ہوئی، ان کی ہر ذریت کے ساتھ ایک فرشتہ بھی مقرر کیا گیا۔

ابليس کے فریب سے بچنے کی پہلی تدبیر :-

ادھر فرشتہ ہے اور ادھر شیطان، انسان کا دل ان دونوں کی کشکش میں ہے خدا تعالیٰ کی رحمت اس بندہ پر ہے کہ ”جب کوئی کام کرنا چاہے یا کوئی بات کہنا چاہے تو وہ کام فوراً نہ کرے، وہ بات فوراً نہ کہے بلکہ رکے اور دیکھے اگر وہ کام یا وہ بات اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے تو کر گزرے، اور اگر شیطان کی طرف سے ہے تو دشمن کی بات نہ سنے دشمن کے خلاف کرے۔

شیطان کے فریب سے بچنے کی دوسری تدبیر :- قلب میں دو صلاحیتیں ہیں شیطان اگر کہے اس کی طرف ہو جائے، اور فرشتہ اگر کہے اس کی طرف ہو جائے، البتہ ایک چیز ہے اگر وہ رہے تو شیطان کا غلبہ ہو جاتا ہے اگر وہ نہ رہے تو فرشتہ کا غلبہ ہو جاتا ہے وہ چیز ہوئی (خواہشات) ہے۔

جس قلب میں ہوئی ہے وہ آشیانہ شیطان ہے اگر ہوئی نہ رہے وہ قلب مسکن فرشتہ ہے

چوں کہ ہر قلب میں شہوت، غصب، حرص، طمع، طول اہل، میں سے کچھ نہ کچھ رہتا ہے، اس لیے قلب شیطان کے اثر سے خالی نہیں رہتا۔ ہوئی کے ساتھ ساتھ دنیا بھی لگی ہوئی ہے اس لیے قلب شیطان کا جولان گاہ بنا رہتا ہے، ہوئی کم ہوئی اور ذکر اللہ غالب ہو گیا تو فرشتہ کے اثرات پیدا ہوتے ہیں، یہی کشکش اس وقت تک رہتی ہے جب تک کہ یہ دل کسی ایک کے ہاتھ فتح نہ ہو جائے، اکثر دل کا قلعہ شیطان کے ہاتھ فتح ہو جاتا ہے، اگر آپ چاہیں کہ اس قلعہ کو فرشتہ فتح کرے تو پہلے ہوئی یعنی خواہش نفسانی کو دل سے نکال دو۔

شیطان کے مکر سے بچنے کی تیسری تدبیر شیطان کی ماہیت معلوم کرنے کی کوشش نہ کرو بلکہ اس کو دفع کرنے کی کوشش کرو:-

ایک خیال فاسد یہ بھی آتا ہے کہ شیطان کیسا ہے اس کو جسم ہے یا نہیں، اگر جسم ہے تو انسان کے جسم میں کیا آتا ہے اس کا جواب یہ ہے کہ اگر آستین میں سانپ ہو تو کیا اس وقت بھی ایسا ہی سوال کریں گے کہ اس کا رنگ اور اس کی شکل کیسی ہے اور اس کا طول اور عرض کتنا ہے یا اس کے نکالنے کی فکر کریں گے۔ اسی طرح اگر دشمن سر پر آجائے تو اس وقت اس کا نسب پوچھیں گے یا اس کے دفع کرنے کی فکر کریں گے، اگر سوال کریں گے بھی تو یہی کریں گے کہ یہ دشمن کس ہتھیار سے جلد دفع ہو گا شیطان کے دفع کرنے کا ہتھیار یہی ہے کہ خلاف ہوئی کرو، اور خواہشات کے تابع مت رہو، جو جی میں آئے وہ نہ کرنا، خدا اور رسول کے حکم کی تعییں کرنا۔

شیطان کے مکر سے بچنے کی چوتھی تدبیر نفس کا سدھار:-

ظاہر میں پیغمبر سماج میں ہے ہیں، باطن میں فرشتہ نیکی کی رائے دیتا رہتا ہے اکیلے شیطان کا ہم پر بس نہیں چلنا چاہیے تھا پھر کیا وجہ ہے کہ شیطان کو ہم پر غلبہ ہو جاتا ہے، انسان برا بیاں ہی کرتا رہتا ہے، اس کی وجہ آپ کو نہیں معلوم تو سنئے۔

صاحب! چوری جب ہوتی ہے تو گھر کے بھیدی کے بھیدی نے سے ہوتی ہے آپ کا ایک اور دشمن بھی تو ہے

جو آپ کے پہلو میں بیٹھا ہوا بغلی گھونسلے لگاتا رہتا ہے وہ کون ہے؟ وہ نفس ہے یہی نفس گھر کا بھیدی ہے، یہی شیطان سے ساز باز کر لیتا ہے ورنہ شیطان ایک چور ہے، اگر یہ گھر کا بھیدی ساتھ نہ ہو تو وہ ہمارا کیا کر سکتا ہے میں پچ عرض کرتا ہوں، اگر تمام دنیا شیطانوں سے بھر جائے اور نفس ہمارا سدھر جائے تو شیاطین پکجھ نہیں کر سکتے۔

نفس سے ناصحانہ خطاب :- ذرا نفس کو سمجھاؤ کہ خالم تجھ کو ہوا کیا ہے ڈشمن کو ڈشمن سمجھ، ارے ڈشمن سے بھی کوئی دوستی کیا کرتے ہیں تو کیا کر رہا ہے تیرا جانی دوست اللہ تعالیٰ تجھے کب تک بلائے، قاعدہ ہے کہ کتاب حملہ کرے تو اس حملہ سے اسی وقت پنج سکتے ہیں کہ اس کے مالک کے پیچھے ہو جائیں، ایسا ہی تم خدا کے ہو جاؤ تو اس ڈشمن شیطان کے حملہ سے پنج سکتے ہو۔

حدیث شریف :- کل قیامت میں دوزخی دوزخ میں چلے جائیں گے، ابلیس دوزخ پر آگ کے کپڑے، آگ کا تاج، آگ کے بیڑیاں پہن کر لکھر دے گا، سب دوزخی اس کے اطراف رہیں گے۔ یہ کہے گا دوزخیو! اللہ نے تم سے سچا وعدہ کیا تھا اور فرمایا تھا کہ تم سب مروگے پھر زندہ ہو گے، میدانِ حشر میں آؤ گے اور حساب ہو گا۔ تم میں ایک فرقہ جنتی ہو گا ایک دوزخی، مگر تمہارا خیال تھا کہ ہم دنیا میں ہمیشہ رہیں گے مجھے تم پر حکومت نہیں تھی، میں تم پر زبردستی نہیں کیا کرتا تھا۔ میں تو فقط وسوسہ ڈالا کرتا تھا۔ تمہارا نفس میرے کہنے میں آگیا، یہ گناہ تمہارا ہے میرا نہیں، مجھے ملامت نہ کرو، اپنے نفس کو ملامت کرو، اب میں نہ تم کو بجا سکتا ہوں، اور نہ تم مجھ کو بجا سکتے ہو، سب دوزخی اس پر لعنت کریں گے، ایسے میں فرشتے آگ کے تیر مار کر نیچے گردیں گے وہ ہمیشہ دوزخ میں رہے گا۔

دیکھا آپ نے اس ڈشمن کی ڈشمنی اس حد تک ہے اسی واسطے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے :-

وَقَالَ الشَّيْطَنُ لَمَا قُضِيَ إِلَّا مُرِّإَنَ اللَّهَ وَعَدَكُمْ وَعْدَ الْحَقِّ وَوَعَدْتُكُمْ فَأَخَلَّفْتُكُمْ . وَمَا كَانَ لِيَ عَلَيْكُمْ مِنْ سُلْطَانٍ إِلَّا أَنْ دَعَوْتُكُمْ فَاسْتَجَبْتُمْ لِيْ فَلَا تَلُومُونِي وَلُوْمُوا أَنفُسَكُمْ مَا أَنَا بِمُضْرِخُكُمْ وَمَا أَنْتُمْ بِمُضْرِخٍ

(پ ۱۳۴ سورہ ابراہیم)

(اور جب آخر فیصلہ ہو چکے گا اور لوگ شیطان کو الزام دیں گے، تو شیطان کہے گا کہ خدا نے تم سے سچا

وعدہ کیا تھا سو اس نے پورا کیا اور وعدہ تم سے میں نے بھی کیا تھا مگر میں نے تمہارے ساتھ وعدہ خلافی کی اور تم پر میری کچھ زبردستی تو تھی نہیں، بات تو اتنی ہی تھی کہ میں نے تم کو اپنی طرف بلا یا اور تم نے میرا کہنا مان لیا تو اب مجھے الزام نہ دو بلکہ اپنے تیسیں الزام دو، آج نہ تو میں تمہاری فریاد کو پہنچ سکتا ہوں اور نہ تم میری فریاد کو پہنچ سکتے ہو۔

غرض ہوئی کے ذریعہ سے ہی شیطان جو چاہے کرتا ہے اس لیے اس ہوئی سے طرح طرح کے گناہ ہوتے ہیں خاص کر شرک، شیطان شریک کرا کر خدا سے جب تک دور نہیں کر اتا دم نہیں لیتا۔

ہائے! انسان تو اپنا شریک کسی کو نہیں دیکھنا چاہتا، بھلا شرک کو خدائے تعالیٰ کیسے پسند کرے گا۔

حکایت :-

ایک روز حضرت حسن بصریؓ رحمۃ اللہ علیہ نے سنا کہ کوئی عورت اپنے خاوند سے کہہ رہی ہے کہ جب سے میں تمہارے گھر میں ہوں کچھ رہے یا نہ رہے صبر کرتی ہوں، جائز ہوں یا گرمی، میں کچھ بھی تم سے زیادہ نہیں مانگتی ہوں، تمہارے نام اور عزت کی حفاظت کرتی ہوں، تمہارِ گلہ کسی کے سامنے نہیں کرتی ہوں، یہ سب اس واسطے سنتی ہوں کہ تم میرے رہو، اور میں تمہاری، نہ اس واسطے کہ میں تو تمہاری رہوں اور تم دوسروں کے، یہ مجھ سے نہیں دیکھا جائے گا کہ تم مجھ پر دوسری عورت کرو۔

حضرت حسن بصریؓ رحمۃ اللہ علیہ کو وجد آگیا فرمایا اللہ تعالیٰ بھی یہی فرماتا ہے :

”إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرِكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُوْنَ ذَلِكَ“ (پ ۵۴ سورۃ النساء)

تیرے سب گناہ معاف کر دوں گا مگر تیرا مجھ کو چھوڑ کر دوسروں کی طرف مائل ہونا قابلِ معافی نہیں۔ صاحبو! دشمن کو دشمن سمجھو، وہ بھی کوئی انسان ہے جو دوست اور دشمن میں فرق نہ کرے، غرض کہ دشمن سے پہنچنے کے لیے تم پر دشمن کی دشمنی ظاہر کی گئی۔

باب سوم

آدم علیہ السلام کی پیشانی میں نورِ محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کے رکھے جانے کا مضمون اوپر آچکا۔ اس مضمون کے بعد اس زیرِ نظر باب کے تفہیم کے لیے ابلیس کے جملی گمراہ کرنے کا تفصیلی ذکر کیا گیا۔ اب اس باب میں حضرت آدم علیہ السلام کو ابلیس کے دھوکا دہی کا تفصیلی بیان ہے۔

فصل ۱

اللہ تعالیٰ کو ابلیس سے دُشمنی کی وجہ کا بیان

صاحب! آپ کو معلوم ہے کہ ابلیس کیسا عابد و زاہد تھا اس کو کیوں ملعون اور مردود کیا گیا؟ آپ کی خاطر دوست کا دُشمن بھی دُشمن ہوتا ہے چوں کہ شیطان آپ کا دُشمن ہو گیا اور دُشمنی کا اظہار کرنے لگا، اس لیے خدائے تعالیٰ اس کا دُشمن ہو گیا۔

افسوس ہم اپنے قدیم دُشمن کا کہا مان رہے ہیں اور محسن حقیقی کے خلاف کر رہے ہیں، اس کی دُشمنی کا واقعہ سنو کہ حضرت آدم علیہ السلام کے ساتھ جس طرح دُشمنی کیا تھا تمہارے ساتھ بھی اسی طرح دُشمنی سے پیش آ رہا ہے تم کو خبر نہیں۔

جب ابلیس آدم علیہ السلام کو سجدہ نہ کرنے سے خدائے تعالیٰ کے عتاب میں آگیا تو اس کو جلانے اور آدم علیہ السلام کی عزت بڑھانے اللہ تعالیٰ کا حکم ہوا۔

وَيَا آدُمْ اسْكُنْ أَنْتَ وَرَوْجُكَ الْجَنَّةَ (پ ۸۲ سورہ الاعراف)

”اے آدم (ابلیس مردود نے تمہاری اہانت کی کہ تم کو سجدہ نہ کیا، لوہم تم کو عزت دیتے ہیں) تم اور تمہاری بیوی حاجت میں رہو۔“

فَكُلَا مِنْ حَيْثُ شِئْتُمَا (پ ۸ ع ۲ سورہ الاعراف)
جس جگہ سے چاہو، جو چیز چاہو کھاؤ۔

فصل - ۲

آدم علیہ السلام کا اپنے کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے برتر خیال کرنے کا بیان:-

جب آدم علیہ السلام کے پتلے میں روح بھر گئی آنکھ کھلتے ہی عرش پر نظر پڑی کیا دیکھتے ہیں کہ عرش پر کھا ہوا ہے :

”**لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ مُحَمَّدٌ رَّسُولُ اللَّهِ**“

دل میں سوچ کر یہ کون ہوں گے؟ عرض کیے الہی! یہ کون ہیں کہ ان کا نام تیرے نام کے ساتھ ہے، جواب ملا آدم! یہ تمہارے فرزند ہیں، تم سے اگر کبھی گناہ ہو تو ان کی شفاعت سے معاف ہوگا ”آدم علیہ السلام کے دل میں خیال آیا یہ کیا بات ہے کہ باپ شفیع ہونا چاہیے تھا میٹا باپ کا شفیع یہ تو اٹا ہوا۔“

باری تعالیٰ کا حکم ہوا، جبریل دوڑواں خیال کو دل سے نکال دو، اگر یہی خیال اور تھوڑی دیر رہ گیا تو ہمارا بندہ آدم ہلاک ہو جائے گا۔

جب اس خیال فاسد کو نکال کر پھینکے، اس سے گیہوں نما درخت بنا اور جو کچھ آدم علیہ السلام میں رہ گیا اس سے نفس امارہ بنا، اس لپے اللہ تعالیٰ کا حکم ہوا۔

وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةِ (پ ۸ ع ۲ سورہ الاعراف)

ہر چیز کھاؤ مگر اس درخت کے پاس مت پھکلو، ہمارے جبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت تمہارا جو مرد اخیال ہوا تھا اس سے یہ درخت بنا ہے۔

فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ ۝ (پ ۸۴ سورہ الاعراف)
اگر اس درخت سے کھاؤ گے تو ظالموں میں سے ہو جاؤ گے۔

فصل - ۳

ابليس کی حضرت آدم کو فریب دہی کا بیان:

فَوَسُوسَ لَهُمَا الشَّيْطَنُ لِيُبَدِّئَ لَهُمَا مَا وَرِيَ عَنْهُمَا مِنْ سَوْا تِهْمَةً (پ ۸۴ سورہ الاعراف)
”جستی لباس چھینے جا کر ننگے ہونے کے لیے شیطان نے یہ وسوسہ ڈالا“
ابليس، طاؤس (مور) اور سانپ کے ذریعہ جنت میں آدم اور حواتک پہنچ کر بیٹھ گیا اور دھاڑیں مار مار کر رونے لگا۔

آدم اور حواتک پہنچھے کیوں روتے ہو؟

ابليس نے کہا مجھے تمہاری حالت پر رونا آرہا ہے، چند روز میں تم سے یہ ساری نعمت وغیرہ چھینی جائے گی۔
آدم اور حوانے کہا یہ کیسے؟
ابليس نے کہا!

وَقَالَ مَا نَهَكُمَا رَبُّكُمَا عَنْ هَذِهِ الشَّجَرَةِ إِلَّا نَتَكُونَا مَلَكِينَ أَوْ تَكُونَا مِنَ الْخَلِدِينَ ۝ (پ ۸۴ سورہ الاعراف)

اس درخت کا یہ اثر ہے کہ جو اس کو کھاتا ہے وہ فرشتہ ہو جاتا ہے یا ہمیشہ زندہ رہتا ہے، خدا تم کو اس واسطے منع کیا ہے تاکہ تم فرشتہ یا ہمیشہ رہنے والے نہ بن جاؤ۔

آدم اور حواتکہے ہمارے مالک کو ہم سے بہت محبت ہے، ایسا نہیں ہو سکتا کہ اچھی چیز سے ہم کو روکے۔
ابليس نے قسمیں کھا کر کہا:

وَقَاسَمَهُمَا إِنِّي لَكُمَا لَمِنَ النَّصِحَّيْنَ ۝ (پ ۸ ع ۲ سورۃ الاعراف)

”قسم کھایا اور کہا کہ میں تمہارا خیر خواہ ہوں، حق کہہ رہا ہوں۔“

فَدَلْهُمَا بِغُرُورٍ (پ ۸ ع ۲ سورۃ الاعراف)

”شیطان نے طرح طرح کی باتیں بنایا کہ آدم و حوا علیہما السلام کو دھوکا دیا۔“

جھوٹی قسم کھانا اور جھوٹی بات کرنا شیطان کی پہلی ایجاد ہے۔

سوال : آدم علیہ السلام جانتے تھے کہ ملائکہ نے ان کو سجدہ کیا، پھر انہوں نے فرشتہ بننے کی طمع کیوں کی اور ان کو ایسی خواہش کیوں ہوئی۔

جواب : ہم سب بھی تو جانتے ہیں کہ فانی اور بے بقا چیز دنیا قابل التفات نہیں پھر بھی رات دن اسی کی دھن رہتی ہے ہمارا دنیا پر مرمنا اور آدم کے فرشتہ بننے کی طمع دونوں غفلت کا نتیجہ ہیں، ہم بھی دھوکے میں ہیں اور آدم بھی دھوکے میں آگئے اس لیے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے :

فَدَلْهُمَا بِغُرُورٍ ۝ (پ ۸ ع ۲ سورۃ الاعراف)

الغرض خلاصہ دھوکے کا یہ ہے کہ ابلیس نے ثابت کر دیا کہ حکم الہی میں ضرر ہے۔ فرشتہ نہیں بن سکتے اور ہمیشہ زندہ نہیں رہ سکتے۔

اولاد آدم کو ابلیس کے دھوکا دینے کی تفصیل :-

حضرت آدم علیہ السلام کو جس طرح دھوکا دیا ایسا ہی اولاد آدم کو دھوکا دے رہا ہے کہ شریعت پر اور قرآن پر عمل کرنے میں بڑی وقت اور بہت حرج ہے۔

ایک جنگل میں کہتے ہیں اسلام میں اگر نماز نہ ہوتی تو اسلام کو خوب ترقی ہوتی کیوں کہ لوگ نماز سے گھبراتے ہیں۔ نَعُوذُ بِاللَّهِ -

دوسرے جنگلمن کی یہ رائے ہے کہ روزہ فبروری میں ہوتا تو ہمیشہ جائزے اور چھوٹے دن رہتے۔ عقل کے معدود رکاوے سوجھا کہ اسلام ہفت اقلیم میں ہے، فبروری میں تمہارے پاس جائز اڑاہ تو کیا ضروری ہے کہ سب ملکوں میں بھی جائز اڑاہے تم ہی کو نفع اٹھانے کا کیا حق ہے۔

ایک صاحب لندن سے خط لکھ رہے ہیں کہ قربانی میں حرج ہے اس زمانہ میں پیسہ نہیں تھا جانور بہت تھے، جانور کی قربانی کرتے تھے، اب پیسہ زیادہ ہے پیسہ خیرات کرنا کافی ہے ان کو اس کی خبر ہی نہیں کہ "إِرَاقَةُ الدَّمْ (خون بہانا) عبادت ہے اگر نفع رسانی منظور ہوتی تو جانور زندہ بھی دے سکتے تھے۔

یہ بھی اعتراض کیا جاتا ہے کہ شریعت میں بڑی تنگی ہے، آدمی کے بہت ذرائع بند ہو گئے، رشوت کھا سکتے اور نہ سو دلے سکتے۔ یہ اس واسطے اللہ تعالیٰ نے منع کیا ہے کہ مسلمان مالدار نہ ہوں مفلس رہیں۔

اسلام میں تو تنگی نظر آئی، حکومت کے قانون میں کبھی آپ کو تنگی کا خیال آیا؟ قانون میں ڈیکیتی ناجائز ہے، کتنے بڑے آدمی کے ذریعہ کو حکومت نے روک دیا۔ حکومت کے قانون میں اس واسطے تنگی نظر نہیں آئی کہ شیطان نے وسوہ نہ ڈالا، اسلام میں اس لیے تنگی نظر آئی کہ شیطان وسوہ ڈال کر دھوکا دے رہا ہے۔ غرض آدم علیہ السلام کی طرح ان کی اولاد کو یہ دھوکہ دے رہا ہے کہ احکامِ الہی میں ضرر اور تنگی ہے۔

فصل - ۳

حضرت آدم علیہ السلام کا ابلیس کے فریب میں آ کرنا فرمانی کر جانے اور اس نافرمانی کے منحوس اثرات کا بیان:

اولاد آدم کی طرح آدم علیہ السلام کو بھی کچھ نہ سوجھا انہوں نے گیہوں کھالیا۔

فَلَمَّا ذَاقَ الْشَّجَرَةَ بَدَأَتْ لَهُمَا سَنَوْاتُهُمَا (پ ۸۲ الاعراف) گیہوں کھا کر خدا کی فرمانی کرتے ہی نافرمانی کی نحوضت نے اثر کیا جنتی لباس جسم سے گرنے لگا۔ دونوں برہمنہ ہو گئے (یہ بہنگی اپنی

نظروں میں تھی فرشتوں کو برہنے نظر نہ آتے تھے اس لئے بَدَثْ لَهُمَا فرمایا بَدَثْ لَهُمَا کے معنی یہ ہیں کہ ظاہر ہوئے ان دونوں ہی کے لیے شرمگا ہیں، اور وہ پر ظاہر نہیں ہوئیں)

الغرض آدم و حواء سے تمام لباس تو علیحدہ ہوا مگر تاج شر مایا اور سر سے علیحدہ نہ ہوا اس کو جبریل علیہ السلام آکر علیحدہ کیے اور عرض کیے اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ

”تمام کپڑے اتار کر جنت سے نکال دو، اس لیے کہ ہمارا نافرمان ہمارے پڑوس میں نہیں رہ سکتا“ آدم علیہ السلام مرکر حواسے حسرت ویاس کے ساتھ کہے حوا یہ گناہ کی پہلی نحوضت ہے کہ درمحبوب چھوٹتا ہے۔

وَطِقَاقَا يَخْصِفْنَعَلَيْهِمَا مِنْ وَرَقِ الْجَنَّةِ ۝ (پ ۸۲ سورہ الاعراف)

الغرض آدم و حوا جنت میں برہنہ اور حیران و پریشان پھرنے لگے، ہر ایک درخت سے ”اپنا بدن ڈھانکنے کے واسطے پتے مانگنے لگے“، جس درخت کے پاس جاتے وہ بھاگتا، اور کہتا آدم ہم سے علاحدہ رہو، ایسا نہ ہو کہ تمہارے میل جول سے تمہارے نافرمانی کی نحوضت اثر کرے اور ہم پر بھی عذاب آجائے، ایک درخت سے بال الجھ گئے، آدم فرمائے اے درخت کیوں ستاتا ہے، درخت نے کہا آدم! یہ تمہارے گناہ کا اثر ہے خدا کے حکم سے تم کو پکڑا ہوں کیا تم کو چھوڑ کر میں بھی نافرمان بن جاؤں، آدم روئے لگے۔

وَنَادَاهُمَا رَبُّهُمَا اللَّمُ أَنْهَكُمَا عَنْ تِلْكُمَا الشَّجَرَةِ وَأَقْلَلَ لَكُمَا إِنَّ الشَّيْطَانَ لَكُمَا عَدُوٌ مُبِينٌ ۝ (پ ۸۲ سورہ العراف)

اللہ تعالیٰ کا حکم ہوا، آدم کہاں ہو۔

آدم عرض کئے الہی! یہاں ہوں، برہنہ ہوں، قیدی ہوں پریشان حال ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا“ کیوں آدم کیا میں نے تم کو یہ جھاڑ کھانے سے منع نہیں کیا تھا“۔ کیوں آدم تم کو یہ نہیں کہا تھا کہ دیکھو شیطان تمہارا ذمہن ہے۔

فصل - ۵

اس فصل کے مضمایں :-

(۱) آدم علیہ السلام کا عرش پر بعض تحریرات دیکھ کر ہونے والی لغزش کے خوف سے پریشان ہونا۔

(۲) لوح محفوظ پر مردودیت کی تحریر دیکھ کر فرشتوں کا پریشان ہونا۔ اب یہاں اس امر کی طرف متوجہ کرنا ہے کہ: دو گنہگار ہیں، دونوں سے گناہ کرنے کی وجہ پوچھی جا رہی ہے دونوں اس کا جواب دے رہے ہیں، جوابوں پر غور کیجیے اس سے آپ کو پتہ لگے گا کہ ایک گنہگار کیوں مردود ہوا۔ اور دوسرا مقبول کیوں رہا۔
ہونیوالی لغزش کے خوف سے آدم کی پریشانی :-

آدم علیہ السلام کے پتلے میں جب روح بھرنے لگی عرش پر نظر پڑی تو کیا دیکھتے ہیں کہ کلمہ طیبہ کے ساتھ "أَمَّةٌ مُذْنِبَةٌ" (گنہگار امت) لکھا ہوا ہے اور جب روح کا نوں میں بھری اور کان کھلتے تو "يَرْحَمُكَ اللَّهُ" سے رونے لگے، اللہ تعالیٰ کا حکم ہوا، آدم کیوں روتے ہو۔ عرض کیے الہی! آنکھ کھولتے ہی "أَمَّةٌ مُذْنِبَةٌ" دیکھا کان کھلتے ہی "يَرْحَمُكَ اللَّهُ" سنا معلوم ہوتا ہے کہ کچھ لغزش ہونے والی ہے عتاب سہنا پڑے گا۔
اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہوا، آدم "أَمَّةٌ مُذْنِبَةٌ" جہاں دیکھے "رَبِّ غَفُورٍ" بھی تو وہیں لکھا ہوا ہے کیا وہ نہیں دیکھے۔

مردودیت کے خوف سے فرشتوں کی پریشانی :-
حدیث :-

اسرافیل علیہ السلام نے لوح محفوظ پر لکھا دیکھا کہ ہمارا ایک بندہ عمر بھر ہماری عبادت کرے گا، ہم اس کو ایک حکم دیں گے وہ اس کو نہ مان کر مردود ہو جائے گا، اسرافیل علیہ السلام کا نپ گئے چیخ چیخ کر رونے لگے، شائد وہ

بندہ میں ہی ہوں تمام فرشتے جمع ہوئے اور پوچھنے لگے رونے کا سب معلوم ہونے سے سب فرشتے بھی بے قراری سے رونے لگے ہر ایک کوڈر ہونے لگا کہ شائد وہ نافرمان بندہ میں ہی ہوں۔

یہ مقبولوں کی علامت ہے کہ خوفِ خدا ان کو اس قدر ہوتا ہے کہ "أَمَّةٌ مُذَنَّبَةٌ" دیکھتے ہیں تو اپنے ہی کو سمجھتے ہیں، لوحِ محفوظ پر نافرمان بندہ کا ذکر دیکھتے ہیں تو اپنے ہی کو خیال کرتے ہیں۔

غرض سب فرشتے کہنے لگے چلو عز ازیل (شیطان کا نام) کے پاس چلو وہ مستجاب الدعوات ہے، اس سے دعا کروائیں گے جب سب اس کے پاس گئے اور واقعہ سنائے تو وہ دعا کرنے لگا کہ الہی ان کو اپنے غضب سے بچا۔
یہ مردودوں کی علامت ہے کہ خوفِ خدادول سے نکل جاتا ہے تو زعم میں اپنے کو بھول جاتے ہیں۔

چنانچہ ابلیس بھی اور وہوں کے واسطے دعا کیا اور اپنے کو بھول گیا، لوحِ محفوظ کا لکھا اسی بے ذر کے سامنے آیا۔
الغرض آدم والبیس دونوں سے گناہ ہو گیا تو ہر ایک سے پوچھا گیا کہ کیوں گناہ ہوا ابلیس کہتا ہے جو کچھ کیا اچھا کیا، وہ اس پر اصرار بھی کرتا ہے، اور اپنے آپ کو اچھا ہی سمجھے جاتا ہے، کہتا ہے۔

"أَنَا خَيْرٌ" مِنْهُ (پ ۸ ع ۲ سورہ اعراف)

(وہ بولا میں آدم سے بہتر ہوں)

حضرت آدم علیہ السلام سے گناہ کی وجہ پوچھی جاتی ہے تو کہتے ہیں۔

"قَالَ رَبَّنَا ظَلَمْنَا أَنْفُسَنَا وَإِنْ لَمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَسِيرِينَ ۵
(پ ۸ ع ۲ سورہ الاعراف)

"اللہ نہ ہونا تھا ہو گیا ہم نے اپنا آپ خرابہ کر لیا، اب تیری رحمت پر نظر ہے میاں رحمت کرتے ہیں تو بات بنتی ہے"۔

اللہ تعالیٰ آدم اور ابلیس دونوں کو اپنے پاس سے نکالتے ہیں، ابلیس کو اس کی کچھ فکر نہیں، فکر یہی ہے کہ کس طرح دنیا اچھی بنے، آخرت بگڑتی ہے تو بگڑ جائے ابلیس کہتا ہے۔

"أَنْظُرْنِي إِلَى يَوْمٍ يُبَعْثُرُونَ ۝ (پ ۸ ع ۲ سورۃ الاعراف)

(اگا عرض کرنے کے جس دن سب لوگ دوبارہ جلا کر انہا کھڑا کیے جائیں گے، اس دن تک کی مجھے مہلت دے) آدم علیہ السلام کو دنیا کی کچھ فکر نہیں کسی طرح گذر ہی جائے گی، فکر ہے تو یہ ہے کہ محبوب کا درد دلت چھوٹ رہا ہے، بار بار پوچھتے ہیں میاں پھر کب بلا و گے جی، "حکم ہوتا ہے اگر وہاں زمین پر جا کر ہمارے احکام بجالاتے رہے، کتابِ الہی پر عمل کرتے رہے تو جنت تمہاری ہے۔

اگر کتابِ الہی پر عمل نہیں کیے تو جنت اب جو چند روز کے لیے چھوٹی ہے ہمیشہ کے لیے چھوٹ جائے گی۔ انجیر اور عود کے درخت نے آدم کو ستر ڈھانکئے جو پتے دیئے تھے ان کو حکم ہوا کیوں انجیر اور عود تم نے یہ کیا کیا، عود اور انجیر نے عرض کئے الہی آدم کو جس وقت تم نے مسعود ملائکہ بنایا تھا، اس وقت ہم جس نظر سے دیکھتے تھے اب بھی اسی عزت کی نظر سے دیکھتے ہیں گو کہ آدم سے نافرمانی ہوئی ہے مگر آپ کا یہ عتاب ان پر چند روزہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کا حکم ہوا ہمارے نافرمان سے میل جوں کی تم کو یہ سزا ہے کہ اے عود! تو بے جلائے خوشبوون دے گا۔ اے انجیر تو بے گوئی میعنے تیرے توڑنے کے لیے تجھے موڑنا پڑے گا تو بغیر موڑے کے نہیں ٹوٹے گا۔

فصل - ۶

حضرت آدم علیہ السلام کے زمین پر اترنے کا بیان

اللہ تعالیٰ کا پہلا حکم :- حکم ہوا ان سب کو یہاں سے لے جاؤ۔

قَالَ اهْبِطُوا (پ ۸ ع ۲ سورہ الاعراف)

(تم سب یہاں سے چلے جاؤ)

الله تعالیٰ کا دوسرا حکم :- بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ ج (پ ۸ ع ۲ سورۃ الاعراف)

تمہاری آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ دشمنی رہے گی)

آدم علیہ السلام خوش ہوئے اور فرمائے الحمد للہ "آنَ الْكُمْ عَدُوٌ" (میں تمہارا دشمن ہوں) نہیں فرمایا بلکہ آپسی عداوت کی خبر دیا ہے۔

اللہ تعالیٰ کے اس ارشاد کا نتیجہ ہے کہ شیطان اور بنی آدم، سانپ اور طاؤس (مور) میں سب کی ایک دوسرے کے ساتھ آپس میں دشمنی ہے، یعنی شیطان دشمن ہے۔ بنی آدم کا، اور ایسے ہی مور اور سانپ آپس میں ایک دوسرے کے دشمن ہیں۔

اللہ تعالیٰ کا تیرا حکم :-

وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقْرٌ وَمَتَاعٌ إِلَى حِينٍ ۝ (پ ۸ ع ۲ سورۃ الاعراف)
”تم سب کو چند روز دنیا میں رہنا اور ایک وقت معین تک نفع اٹھانا ہے۔“

اللہ تعالیٰ کا چوتھا حکم :- قَالَ فِيهَا تَحْيَوْنَ وَفِيهَا تَمُوتُونَ وَمِنْهَا تُخْرَجُونَ ط
(پ ۸ ع ۲ سورۃ الاعراف)

”اسی زمین پر رہو گے، اسی میں مر جاؤ گے، اسی سے اٹھائے جاؤ گے۔“

حکایت :-

مالک بن دینار فرماتے ہیں ایک بچہ کو دیکھا کہ مٹی سے کھیل رہا ہے، میں نے اس بچہ کو سلام کرنا چاہا، پھر دل میں خیال کیا کہ بچہ کو کیا سلام کریں، اپنے اس خیال کو دور کیا اور سلام کیا وہ لڑکا جواب دیا وَ عَلَیْکمُ السَّلَامُ يَا مالک بن دینار اس کے بعد میرے اور لڑکے میں یہ سوال و جواب ہوا۔

میں نے کہا میرا نام کیسے معلوم ہوا؟

لڑکے نے کہا علیم و خبیر نے معلوم کرایا۔

میں نے کہا عقل و نفس میں کیا فرق ہے؟

لڑکے نے کہا نفس سلام سے منع کر رہا تھا، عقل سلام کروائی
میں نے کہا مٹی میں کیوں کھیل رہے ہو؟

لڑکے نے کہا "فِيهَا تَحْيَوْنَ وَفِيهَا تَمُوتُونَ وَمِنْهَا تُخْرَجُونَ ۝

(پ ۲۸ سورۃ الاعراف)

(اسی زمین پر ہو گے، اسی میں مر گے، اسی سے اٹھائے جاؤ گے)
میں نے کہا تم کبھی روتے ہو، اور کبھی ہنستے ہو، کیا وجہ ہے؟

لڑکے نے کہا جب عذاب کا خیال آتا ہے روتا ہوں، جب رحمت کا خیال آتا ہے ہنستا ہوں۔
میں نے کہا تمہارا گناہ ہی کیا جو تم روتے ہو؟

لڑکے نے کہا مالک یہ نہ کہوا پنی ماں کو دیکھتا ہوں کہ چولہا سلگاتے وقت بڑے لکڑیوں میں چورا بھی ڈال کر سلگاتی ہیں، اس خیال سے خوف ہوتا ہے کہ لکڑی کے چورے کی طرح بچے بھی بڑوں کے ساتھ دوزخ میں نہ ڈالے جائیں۔

میں نے لوگوں سے پوچھا کہ یہ بچہ بڑا سمجھدار ہے کون ہے؟ لوگ کہے یہ بچہ امام حسینؑ کا صاحبزادہ زین العابدینؑ ہے، میں نے کہا یہ فرع ایسی ہی اصل کی ہونی چاہیے۔

فصل ۷

حضرت آدم ایک گناہ کی وجہ سے جنت سے نکالے گئے اولاد آدم کو بے شمار گناہوں کے باوجود کیا جنت مل سکتی ہے؟ اگر مل سکتی ہے تو جنت ملنے کے ذرائع کا بیان

آدم علیہ السلام کو جنت میں لے جا کر پھر وہاں سے اس واسطے نکالا گیا تھا تاکہ اولاد آدم کو عبرت ہو کہ ایسے مقبول بندہ صغیرہ گناہ سے عتاب میں آئے ان کی وہ پہلی حالت نہ رہی۔ جنت چھین لی گئی، ہم کبیرہ گناہ

والوں کے ساتھ کیسا ہوگا، گناہوں کی شامت سے آخرت تو خراب ہو، یعنی دُنیا کی عزت بھی چھین لی جائے گی۔ خداۓ تعالیٰ جنت نیچ رہا ہے، اولاد آدم خریدار ہے، اور آدم علیہ السلام دلال، قاعدہ ہے کہ دلال پہلے خود وہ چیز دیکھ لیتا ہے، اس کے بعد لوگوں سے خریدی کرتا ہے۔

اسی طرح حضرت آدم جنت کو پہلے دیکھ بحال کراپنی اولاد سے فرماتے ہیں کہ جنت ایسی ہے ایسی ہے، خریدنے کی چیز ہے ضرور خریدو۔

جنت ملنے کے ذرائع :-

حضرت آدم علیہ السلام کے قصہ سے یہ بتایا گیا ہے کہ گناہوں کی عادت چھوٹنے کے لیے بڑے بڑے مجاہدے کرنا پڑتا ہے مگر یہ مجاہدے تم سے نہیں ہو سکیں گے، اس لیے بے مشقت کی ایک بُوئی بتائی جاتی ہے نہ ہلدی لگنے پہنچنکری اور نہ کہیں جانا پڑے۔

وہ بُوئی یہ ہے کہ جب گناہ ہو جائے تو ساتھ ہی ساتھ توبہ کر لیا کرو گناہ کرنے میں ہاتھ پاؤں ہلانا پڑتا ہے ارادہ کرنا پڑتا ہے، توبہ کے لیے ذرا زبان کو حرکت دے لینا اور قلب سے نادم ہو جانا کیا دشوار ہے۔ شیطان سمجھا ہوا ہے کہ اولاد آدم نے اپنے باپ کی طرح ادھر توبہ کی ادھر گناہ سے پاک ہوا، اس لیے توبہ کو نظر وہ میں حقیر کر کے دکھاتا ہے چوں کہ شیطان خود توبہ نہیں کیا، اس لیے اولاد آدم سے بھی توبہ کرنا نہیں چاہتا۔

اس قدر مفید چیز توبہ کا قاعدہ کس قدر آسان ہے کہ وضو کر کے دور کعت نفل نماز پڑھیں توبہ کیلئے سر سجدہ میں رکھ کر عاجزی سے اپنے گناہوں کی معافی چاہیں، یہ عمل نفس پر گراں ہو گا وہ یہ اور خیال کرے گا کہ اگر گناہ کرواتا ہوں تو وہ شخص نماز وضوء وغیرہ میں پھنساتا ہے اس لیے نفس خود بخود گناہ سے رک جائے گا۔

(نوٹ : آئندہ مثال میں کرسی کا ذکر آرہا ہے، کرسی کو یوں سمجھئے کہ شریڑکوں کو سزا کھڑے رہنے اور

بیٹھنے کے درمیانی ہیئت میں رکھا جاتا ہے اس کو کرسی کہتے ہیں)

نفس کے گناہ سے رکنے کی ایک مثال یہ ہے کہ:-

شریڑکے کو اُستاد کرسی بٹھاتا ہے، شریڑکا شرارت سے باز آ جاتا ہے وہ یہ سمجھتا ہے کہ اگر شرارت کیا کہ

کرسی کی مصیبت پڑی۔

ایسا ہی نفس سمجھتا ہے کہ گناہ کیا کہ وضو و نماز کے ساتھ توبہ کی کرسی پر بیٹھنا پڑتا ہے۔
نفس کے گناہ سے رکنے کی دوسری مثال :-

بچہ جب دودھ چھڑائی کی عمر کو پہنچ جاتا ہے اور دودھ پینا نہیں چھوڑتا تو ماں اپنی پستان کو الیوالگاتی ہے، پھر
الیوے کی ناگواری اور تنفس سے دودھ جیسی مرغوب چیز چھوڑ دیتا ہے۔
ایسا ہی نفل نماز، وضوء اور توبہ مثل الیوے کے ہیں گنہگار جب ان پر عمل شروع کرتا ہے تو نفس ان کے
ناگواری کے اندر یہ سے اپنی مرغوب چیز گناہ چھوڑ دیتا ہے۔

نورِ محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کے بیان کو روک کر دیگر مضامین لانے کے وجوہات کی تفصیل:-

ابتداء سے نورِ محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کی تخلیق اور اس کے تفصیلات بیان ہو رہے ہیں، دورانِ تفصیلات میں نورِ محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کا حضرت آدمؑ کے پیشانی میں رکھے جانے کا ذکر اس موقعہ پر ضرورت تھی کہ حضرت آدم علیہ السلام کی لغزش وغیرہ کا ذکر کیا جائے چون کہ حضرت آدمؑ کے لغزش کا تعلق ابلیس سے ہے اس لیے ابلیس کے تلبیس و مکر کے وضاحت بھی ضروری ہوئی۔ ان تمام امور کا لحاظ کرتے ہوئے نورِ محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکرِ مبارک کو آدم علیہ السلام تک پہنچا دیا گیا اس کے بعد ابلیس سے متعلقہ تفصیلات بعد ازاں حضرت آدم علیہ السلام کے متعلقہ تفصیلات بیان ہوئے۔ اب حضرت آدم علیہ السلام کی پیشانی میں نورِ محمدی صلی اللہ علیہ وسلم رکھے جانے کے بعد کا سلسلہ شروع ہوتا ہے۔

باب چہارم

یہ باب ان واقعات کے بیان میں ہے جو نورِ مبارک حضرت آدم علیہ السلام میں آجائے کے بعد سے لے کر ولادت باسعادت کے بعد تک پیش آئے۔

فصل - ۱

اللہ تعالیٰ کی دوری کی وجہ سے آدم علیہ السلام کی روح کی بے قراری اور اللہ تعالیٰ کا اس کو تسلیم دینے کا بیان۔ آدم علیہ السلام کی پیشانی میں نورِ محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر حضرت آدم کی روح آدم کے قلب میں چلی تو گئی مگر آدم علیہ السلام کی روح ہمیشہ اس قربِ الہی کو جو اس تنگ مقام میں آنے سے پہلے حاصل تھا یاد کرتی تھی جسم میں رہنا اس پر مصیبت ہو رہا تھا ہمیشہ روتی اور یہ کہتی:

ساقیا بر سرِ جاں بار گرانست تم	اسے ساقی روح پر یہ تن بہت بھاری بوجھ ہے۔
بادہ دہ باز رہا یک نفس از خویشتم	محبتِ الہی کی شراب دے ایک لحظہ مجھ کو بے خود کر دے۔
میں اس تن میں رہنے سے بہت تنگ آگئی ہوں۔	

اسے ساقی تو مجھے ایسا بے خبر بنا دے کہ میں اپنی خودی بھول جاؤں، اس مردار تن سے مجھ کو کیا کام۔
میں تو عالم بالا میں قربِ الہی میں رہنے والی ہوں،

میں کو اچیل نہیں ہوں کہ مردار تن کی گرویدہ رہوں، میں بیٹھے باتیں کرنے والی طوطی ہوں۔
کیا لطف ہو گا اس وقت کہ میں اپنے دوست اللہ کی

من ازیں هستی خود نیک بہ تنگ آمدہ ام
تو چنان بے خبرم کن کہ نہ دانم کہ منم

پیش ازیں قالب مردار چہ کار است مرا
پیشم زاغ و زغن طوطی شکر سخنم

خنک آں روز کے پرواز کنم تابر یار طرف اڑتی ہوئی جاؤں گی اور دوست کی طرف اس کے بہ ہوائے سرِ کویش پر وبا لے بہ زخم محبت میں پکھوئے کھولے اڑتی ہوئی جاؤں گی۔

جب بچہ کا دل نہیں لگتا تو مخفائی اور میوه لا کر دل بہلاتے ہیں ایسا ہی اللہ تعالیٰ آدم علیہ السلام کی روح کو اس طرح بہلاتا ہے کہ کبھی ملائکہ کو سجدہ کرتا ہے کبھی آسمانوں کی سیر کرتا ہے کبھی جنت میں رکھتا ہے پھر پیام پر پیام بھیجا ہے تاکہ سلسلہ پیام کے لطف میں چندے روح اس قلب میں رہے۔

فصل - ۲

نکاح آدم و مہر حوا کے بیان میں

اللہ تعالیٰ نے جب آدم علیہ السلام کا نکاح حضرت حوا علیہ السلام سے کیا، مہر درود شریف مقرر ہوا۔ اگر درود شریف نہ ہوتا تو نکاح ہی نہ ہوتا اور نہ نسل انسانی آگے بڑھتی، اس لحاظ سے درود شریف ہی سارے انسانوں کی بنیاد ہے۔

اب درود شریف سے نکاح نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ مہر معاوضہ ہے شرمگاہ کا، اور درود شریف جیسی تبرک چیز معاوضہ شرمگاہ کا نہیں ہو سکتی بلکہ اب درود شریف معاوضہ دیدارِ الہی مقرر ہوا۔ درود شریف جو کوہ نور ہیرے جیسا ہے اس کو شرمگاہ جیسے ذیل چیز کے معاوضہ میں دینا عقل مندی نہیں ہے۔ انسان کی بنیاد درود شریف پر مقرر کرنے کیلئے حضرت آدم کے وقت درود شریف مہر مقرر ہوا تھا اب منسوخ ہو چکا ہے۔

فصل - ۳

اپنے فرزند حضرت شیعث علیہ السلام کو حضرت آدم علیہ السلام کی وصیت کے بیان میں آدم علیہ السلام کو جب اولاد ہونے لگی ایک حمل سے دو بچے پیدا ہونے لگے تھے مگر شیعث علیہ السلام تہا پیدا ہوئے، کوئی ان کے ساتھ جو زندہ تھا اس لیے کہ شیعث علیہ السلام میں نور نبی صلی اللہ علیہ وسلم منتقل ہو گیا تھا اس نور

کے ساتھ کسی کو شریک کرنا اللہ تعالیٰ نے پسند نہیں فرمایا۔

آدم علیہ السلام کی پہلی وصیت :-

آدم علیہ السلام کے انتقال کا جب وقت آیا شیٹ علیہ السلام کو وصیت کئے دیکھو بیٹا تمہارے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نور ہے، پاک عورتوں میں حلال ذریعہ سے منتقل کرنا۔

اس کے بعد بھی اجداد نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں ہر ایک یہی وصیت کرتا تھا کہ دیکھو یہ نورِ محمدی کو پاک عورتوں میں حلال ذریعہ سے منتقل کیا کرنا، اسی واسطے حدیثِ شریف میں آیا ہے، حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے ہیں کہ اللہ تعالیٰ مجھ کو پاک پیٹھوں سے پاک پیٹوں میں منتقل کرتا رہا۔

یعنی عبداللہ تک آدم سے لے جتنے جد سلطانِ عالم کے ہوئے تھے بہادر قائم اپنے دین پر بیباں بھی ان کی عابد باخبر نقل جن جن میں کیا نورِ شریف صلب پاک ان کے رحم ان کے لطیف اللہ تعالیٰ فرماتا ہے :

وَتَقْلِبَكَ فِي السُّجَدَيْنَ أَنْهَى هُمْ آپَ كَنُورَ كَوْعَابِدُوْنَ مِنْ مُنْتَقِلٍ كَرْتَهَ رَهَـ

لقد جاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ (پ ۱۱ ع ۱۶ سورۃ التوبہ) اس آیت مبارک کی قرأت دو قسم کی ہے ایک قرأت میں آنفُسِكُمْ کے ف کو پیش ہے، دوسری قرأت میں آنفُسِكُمْ کے ف کو زبر ہے یہاں آنفُسِكُمْ کے ف کو زبر والی قرأت مراد ہے، ف کو زیر والی قرأت کے لحاظ سے اس آیت شریف کے معنی اس طرح ہوتے ہیں، بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تم میں سب سے زیادہ جو نفس مرد اور عورت تھے ان میں منتقل ہوتے ہوئے تشریف لائے۔

آدم علیہ السلام کی دوسری وصیت کہ اے شیٹ امتِ محمدی سے با ادب رہو :-

حضرت آدم علیہ السلام ہمیشہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی فضیلت بیان فرماتے تھے ایک مرتبہ شیٹ علیہ السلام اپنے باپ حضرت آدم سے پوچھئے اب اہر وقت آپ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی فضیلت بیان فرماتے ہیں کیا

وہ آپ سے افضل ہیں؟ آدم علیہ السلام جواب دیئے بیٹا محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو بڑے درجے کے ہیں ان کی امت کی شان سنو:

امّتِ محمدی کی فضیلت:

(۱) امّتِ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت سے لغزشوں کے باوجود اللہ تعالیٰ جنت میں لائے گا اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امّت باوجود ہزاروں گناہوں کے کبھی ان کو بدنام نہیں کریں گے۔

(۲) محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امّت کو سینکڑوں صیرہ اور کبیرہ گناہوں کے باوجود ان کے دوستوں سے ان کو جدا نہیں کریں گے۔

(۳) محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امّت کو گناہ پر نداشت ہوتے ہی ان کے سب گناہ معاف کر دیں گے۔

(۴) محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امّت سے کتنے ہی گناہ ہوں ان کو برہنہ نہیں کریں گے۔

(۵) محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امّت کو گھر سے باہر جانے کی ضرورت نہیں۔ اپنی جگہ ہی نداشت ہوئی اور توبہ قبول ہو گئی۔

حضرت آدم کی حالت:

(۱) بیٹا کیا کہوں مجھ سے ایک لغزش ہوئی تو اللہ تعالیٰ نے مجھ کو جنت سے باہر کر دیا۔

(۲) میری ایک لغزش کی وجہ سے عصی آدم (آدم نافرمانی کے) کہہ کر زمین و آسمان میں مشہور کر دیئے۔

(۳) مجھ سے ایک لغزش ہوئی تو ہوا سے مجھ کو سو برس تک جدار کھے

(۴) ایک لغزش ہوئی اس کی وجہ سے سو برس تک روتا رہا ہوں۔

(۵) ایک گناہ کی وجہ سے میرے جسم سے جنت کے کپڑے اتار کر مجھے برہنہ کر دیئے

(۶) میری توبہ قبول کرنے کے لیے کہاں سے کہاں میدانِ عرفات میں بلا کر توبہ قبول کئے۔

نسب نامہ حضور اکرم صَلَوَاتُ اللّٰہِ عَلٰیْہِ وَسَلَّمَ تبر کا تھوڑی دور تک

آپ اوپر پڑھ چکے ہیں کہ نورِ محمدی صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت آدم بنے اور ان سے حضرت حوابین، ان دونوں سے جو الاد پیدا ہوئی، اس اولاد میں حضرت آدم سے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنے مشاہیر ہوئے ہیں، ان کا مفصل شجرہ اس کتاب کے آخر میں درج ہو رہا ہے وہاں مطالعہ کیجئے یہاں تبر کا حضرت کے اجداد کا تھوڑا سلسلہ درج کیا جاتا ہے :-

حدیث شریف :-

حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نورِ مبارک کو دنیا میں لانے کے لیے سب مخلوق میں سے بني آدم جواشرف المخلوقات ہے منتخب کیا۔

بني آدم میں سے عرب کو جو سب سے زیادہ اشرف تھے منتخب کیا۔

عرب میں سے کنانہ کو جو شریف القوم تھے منتخب کیا۔

کنانہ میں سے قریش کو جو وہ اشرف الاقوام تھے منتخب کیا۔

قریش میں سے بني هاشم کو جو سب قریش میں اشرف ہیں منتخب کیا۔

محمد صلی اللہ علیہ وسلم بن عبد اللہ عبدالمطلب بن هاشم بن عبد مناف بن قُصْری بن کلاب بن مُرَه بن کعب بن کُوئی بن غالب بن فہر بن مالک بن النضر ابن کنانہ بن خزیمہ بن مدرکہ بن الیاس بن مضر بن نزار بن معد بن عدنان۔

فصل - ۲

حضرت هاشم و حضرت عبدالمطلب و حضرت عبد اللہ

میں نورِ محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کے برکات کا بیان

نورِ مبارک منتقل ہوتے ہوئے حضرت هاشم تک پہنچا، حضرت کا نورِ مبارک حضرت هاشم کی پیشانی سے

چمکتا تھا جس طرف حضرت ہاشم نکل جاتے ہر ایک چیز آپ کو سجدہ کرتی تھی۔

حضرت عبدالمطلب میں نورِ مبارک کے برکات :-

پھر وہ نورِ مطہر حضرت عبدالمطلب کو ملا، حضرت عبدالمطلب کے جسم سے مشک کی خوبی آتی تھی اور نورِ محمدی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عبدالمطلب کی پیشانی سے چمکتا تھا جب بھی قریش کو قحط سالی ہوتی تو وہ حضرت عبدالمطلب کا ہاتھ پکڑ کر ان کو پہاڑ پر لے جاتے ان کے طفیل سے خدائے تعالیٰ سے دُعا مانگتے بارش ہوتی۔ نورِ محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے قحط دور ہو جاتا۔

قصہ ابرہا

سورہ "آل مُ تَرَ" میں اصحاب فیل کا واقعہ ہے، اس واقعہ میں حضرت عبدالمطلب کے ذریعہ سے نورِ محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کے برکات کا ظہور ہوا ہے اس لیے وہ واقعہ مختصر اور درج کیا جاتا ہے :-

نجاشی شاہ جوش کی طرف سے دو افراد کو یمن بھیجا گیا تاکہ وہاں کے حاکم کی سرکوبی کی جائے، ان دو افراد میں سے ایک افسر کا نام ابرہا تھا، جب ابرہا یمن پہنچا خود وہاں کا حاکم بن گیا اور اس نے یمن میں ایک گرجا بنا کر یہ چاہا کہ کعبہ شریف کی طرح اس گرجا کی زیارت کے لیے خلقت آیا کرے، جب وہ اپنے اس ارادہ میں کامیاب نہ ہوا۔ کعبہ شریف کو آنے والوں کی طرح گرجا میں ہجوم نہ ہوا تو ابرہا کو بہت رنج اور صدمہ ہوا وہ یہ سمجھا کہ جب تک کعبہ شریف رہے گا کوئی بھی میرے گرجا کو نہیں آئے گا اس لیے اس نے یہ ارادہ کر لیا کہ کعبہ شریف کو گردے تاکہ مخلوق میری گرجا کو آیا کرے کعبہ شریف کو ڈھانے کے ارادہ سے بہت سی فوج معہ ہاتھیوں کے لے کر نکلا جن میں ایک سفید ہاتھی بھی تھا۔ جب ابرہا یہ فوج اور ہاتھی لے کر کعبہ شریف کی طرف چلا تو اس کی اطلاع حضرت عبدالمطلب کو ہوئی، اس اطلاع کے ساتھ ہی حضرت عبدالمطلب تمام قریش کو جمع کئے اور فرمائے کہ ابرہا کی فوج آنے سے تم لوگ مت گھبراو، کیوں کہ اس کعبہ معمظمہ کا اللہ تعالیٰ پروردگار ہے وہ خود اس کی حفاظت کرے گا۔ کعبہ شریف کو ہمارے حفاظت کی حاجت نہیں بلکہ کعبہ خود ہمارا محافظ ہے، ابرہا کے شر سے ہم کو بچائے گا۔

جب ابرھا اور اس کی فوج کعبہ کے قریب پہنچی، فوج کے کچھ لوگ لوٹ مار شروع کر دیئے، اس لوٹ میں حضرت عبدالمطلب کے بھی چار سو اونٹ پکڑ کر لے گئے۔

حضرت عبدالمطلب قریش کو لے کر ایک پہاڑ پر چڑھ گئے وہاں سے کعبہ شریف سامنے نظر آتا تھا۔ حضرت عبدالمطلب کے پیشانی میں حضرت رسول اللہ علیہ وسلم کا جونور تھا وہ مثلی ہلال کے ہو کر پیشانی کے اوپر چک رہا تھا اور اس نورِ مبارک کی شعاع کعبہ مکرہ پر گر رہی تھی۔ یہ کیفیت دیکھ کر حضرت عبدالمطلب نے فرمایا اے قریش چلو کہ تم ہر طرح کے صدمات سے نج گئے اور کعبہ کا بھی کچھ نہیں بگزے گا۔ خدا کی قسم یہ نورِ مبارک جب ایسا بن کر ظاہر ہوتا ہے جیسا کہ اب بنا ہے تو مجھ کو بارہافت ہوئی ہے یہ سن کر قریش واپس ہو گئے اور اپنے اپنے کاموں میں لگ گئے۔

ابرھا ایک شخص کو سفیر بنایا کہ حضرت عبدالمطلب کے پاس بھیجا اور اپنے سفیر سے کہا کہ حضرت عبدالمطلب اور دیگر سردار ان قریش سے کہو کہ میں کعبہ کو گرانے آیا ہوں تم سے لڑنا میرا مقصد نہیں ہے۔

جب سفیر حضرت عبدالمطلب کے پاس پہنچا اور حضرت عبدالمطلب کے چہرہ مبارک پر اس سفیر کی نظر پڑی، حضرت کے پیشانی میں جونورِ مبارک تھا اس نور پر نظر پڑتے ہی وہ سفیر گرا اور بے ہوش ہو گیا، اس سے ایسی آوازیں آنے لگیں جیسے ذبح کی ہوئی گائے سے آتی ہیں، بہت دیر کے بعد وہ سفیر ہوش میں آیا، ہوش میں آتے ہی اس نورِ مبارک کے سامنے سجدہ میں گر پڑا اور حضرت عبدالمطلب سے عرض کیا کہ بے شک آپ قریش کے سردار ہیں یہ کہہ کر سفیر واپس ہو گیا۔

حضرت عبدالمطلب ابرھا کے پاس تشریف لے گئے، ابرھا حضرت کی آمد کی اطلاع پا کر حضرت کو اپنے دربار میں بلا یا، ساتھ ہی ساتھ اس سفید ہاتھی کو بھی طلب کیا جو کعبہ گرانے کے لیے لا یا تھا، ہاتھی طلب کرنے سے مقصد یہ تھا کہ ایک قسم کا رب حضرت عبدالمطلب پر پڑے۔

الغرض ہاتھی دربار میں لا یا گیا آتے ہی اس ہاتھی کی نظر حضرت عبدالمطلب اور آپ کی پیشانی کے نورِ مبارک پر پڑی، نظر پڑنا تھا کہ وہ ہاتھی اس نورِ مبارک کے سامنے سجدہ میں گرا، حالاں کہ اس ہاتھی کی کسی کو سجدہ

کرنے کی عادت نہ تھی۔ اس کے بعد وہ ہاتھی فصح زبان میں گویا ہوا۔ اے عبدالمطلب جونور آپ کے پشت مبارک میں ہے اور جونور آپ کی پیشانی پر چمک رہا ہے اس نورِ مبارک پر میرا اسلام ہو۔

ابرھائیہ کیفیت دیکھ کر تخت سے اتر آیا۔ حضرت عبدالمطلب کے ساتھ فرش پر بیٹھ گیا ہاتھی کے سجدہ کرنے کا ابرھائیہ اثر ہوا کہ وہ حضرت عبدالمطلب سے بے انہا تعظیم و تکریم کے ساتھ ملاقات کیا اور کہا آپ کی جو بھی حاجت ہو فرمائیے، حضرت عبدالمطلب فرمائے آپ کے لوگ میرے اونٹ پکڑ لائے ہیں واپس کر دو۔

ابرھانے تجھ سے کہا کہ آپ اپنے اونٹ کا مطالبہ فرمار ہے ہیں، کعبہ کو بچانے سے متعلق کچھ نہیں فرمار ہے ہیں، حالاں کہ کعبہ سے ہی آپ کی عزت ہے یہ تو بڑے حیرت میں ڈالنے والی بات ہے۔

حضرت عبدالمطلب فرمائے یہ اونٹ میرے ہیں مجھے ان کی فکر ہے، کعبہ جس کا گھر ہے وہ خود اسے بچالے گا مجھے اس کے متعلق کچھ کہنے کی ضرورت نہیں۔

ابرھانے حضرت عبدالمطلب کے سب اونٹ واپس کر دیا حضرت عبدالمطلب واپس آگئے اور کعبہ کا پردہ پکڑ کر دعا کرنے لگے۔

عدو اس بیت کا دُشمن ترا کون ہے تیرے سوا اُمید گاہ
لے بچا ان سے حرم اپنا إله اپنی بستی کو بچا ان سے خدا

مضمون دعا بتار ہا ہے کہ حضرت عبدالمطلب موحد، خدا پرست تھے ورنہ بتوں کی سفارش لاتے۔ کس قدر قوتِ قلب و صدق سے کہا کہ تیرے سوا میں کسی سے اُمید نہیں رکھتا۔

صاحب! حضرت عبدالمطلب کے ولی دعا کا اثر دیکھو کہ کعبہ جس کا ہے وہ کعبہ کو کس طرح بچاتا ہے اور اس کو بھی دیکھو کہ ابرھا فوجوں اور ہاتھیوں کو لئے ہوئے تیاری میں تھا کہ اب جائیں اور کعبہ گردیں۔ کیا دیکھتا ہے کہ پرندوں کی ایک نکڑی اڑتی ہوئی آئی، ان کے پنجوں میں اور چونچ میں کنکر تھے اللہ تعالیٰ کے حکم سے ان پرند جانوروں نے وہ کنکریاں ابرھا اور اس کے لشکر پر پھینکے۔

صاحب! کیا کہوں وہ کیسے کنکریاں تھیں جس سوار پر وہ کنکری گرتی تھی اس کے سر کو سوراخ کرتے ہوئے

اور اس کی سواری کو سوراخ کرتے ہوئے زمین تک پہنچ جاتی تھی اور وہ سوار اور سواری دونوں ہلاک ہو جاتے تھے اس طرح ابرها اور اس کی فونج اور سب ہاتھی تباہ و برباد ہو گئے۔ نام و نشان ان کا باقی نہ رہا۔ کعبہ اپنی شان و شوکت کے ساتھ ایسا ہی باقی رہا اور باقی رہے گا۔

یہ نورِ محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کا مجھزہ ہے جو دنیا میں تشریف لانے سے پہلے ظاہر ہوا۔

ایک روز حضرت عبدالمطلب نیند سے ہوشیار ہوئے خود بخود سرمہ لگائے ہوئے سر میں تیل ڈالے ہوئے نہایت قیمتی لباس پہنے ہوئے ان کو سخت حیرت ہوئی کہ کچھ نہیں معلوم یہ کس نے کیا ہے، ان کے والدان کا ہاتھ کپڑ کر کا ہناں قریش کے پاس لے گئے اور سارا واقعہ بیان کئے، کاہنوں نے جواب دیا کہ اس سے اشارہ ہے کہ اب نورِ محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کے منتقل ہونے کا زمانہ آگیا۔ ان کا نکاح کیا جائے۔

حضرت عبد اللہ میں نورِ مبارک کے برکات :-

وہ نورِ مبارک منتقل ہو کر حضرت عبد اللہ میں آیا۔ جو کوئی یہودی مکہ معظمه میں آتا تو حضرت عبد اللہ کے چہرہ کا نور دیکھ کر کہتا لوگوں! یہ نور عبد اللہ کا نہیں ہے، یہ محمد بن عبد اللہ کا نور ہے۔ حضرت عبد اللہ کی بنت کے پاس سے گذرتے تو بت چلاتے کے اے عبد اللہ! ہمارے پاس مت آؤ، تمہاری پیشانی میں جو نور ہے اس سے ہماری ہلاکت ہے۔

حضرت عبد اللہ عجیب عجیب واقعات جب ملاحظہ فرماتے تو حیران ہو کر اپنے باپ حضرت

عبدالمطلب سے ظاہر فرماتے :-

حضرت عبد اللہ کے ملاحظہ کردہ واقعات کی توضیح وہ واقعات جو حضرت عبد اللہ نے اپنے والد ماجد سے ظاہر فرمائے۔

(۱) باوا! جب میں مکہ کے میدان میں کسی پہاڑ پر چڑھتا (۱) صاحبو! کچھ آپ نے سونچا کہ مشرق سے مغرب ہوں، میری پیشہ سے دنور نکل کر ایک مشرق کی تک نور کا پھیلنا اس طرف اشارہ ہے کہ آپ کا طرف اور ایک مغرب کی طرف پھیل جاتے ہیں، دین مشرق سے مغرب تک پھیلے گا۔

پھر دونوں سٹ کر ابر کے مانند بن کر آسمان طرف چڑھ جاتے ہیں، آسمان اس نور کے لیے کھل جاتا ہے، اور یہ نور آسمان پر چلا جاتا ہے، پھر ایک لمحہ کے بعد آسمان سے واپس آ جاتا ہے۔

(۲) باوا! میں جس جگہ بیٹھتا ہوں زمین سے آواز آتی (۲) حضرت عبد اللہ کو زمین سلام کرتی تھی اس کا یہ ہے سلام ہوتم پر اے نور محمدی ﷺ کے امانت دار مطلب ہے کہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہونے والے ہیں ان کی نبوت پر ہر بیزبان، اور زمین اور پہاڑ بھی گواہی دیں گے۔

(۳) باوا! جب میں کسی سو کھے جہاڑ کے نیچے بیٹھتا ہوں (۳) موکھی زمین، سوکھا جھاڑ ہرا ہونے سے اس بات وہ جھاڑ ہرا ہو کر مجھ پر اپنی ڈالیاں جھکاتا ہے، سے کی طرف اشارہ ہے کہ اب وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لانے والے ہیں جس سے مردہ دل سوکھی زمین پر کھڑا رہتا ہوں، اس زمین پر ہر آگہانس پیدا ہو جاتا ہے، پھر میں جب وہاں زندہ ہوں گے۔ سے چلا جاتا ہوں وہ زمین اور وہ درخت پہلے کی طرح خشک ہو جاتے ہیں۔

اہل کتاب ان علمتوں سے جوان کی کتابوں میں بتائی گئی تھیں یہ معلوم کر کے کہ پیغمبر آخر الزماں حضرت عبد اللہ سے پیدا ہوں گے سب حضرت عبد اللہ کے ڈشمن ہو گئے اور کسی طرح سے ان کو ہلاک کرنا چاہتے تھے مگر عجیب و غریب واقعات دیکھ کر واپس ہو جاتے تھے۔

نمحلہ ان واقعات کے ایک واقعہ یہ بھی ہے کہ :-

ایک روز حضرت عبداللہ شکار کے لیے گئے تھے چند یہودی توارکھینچ کر حضرت عبداللہ پر حملہ آور ہوئے، فوراً چند سوار غیب سے ظاہر ہو کر ان یہودیوں کو دفع کر دیئے۔

حضرت عبداللہ کے حسن و جمال کا شہرہ دور دور تک تھا پھر یہ معلوم ہونے سے کہ حضرت عبداللہ سے پیغمبر آخر الزماں پیدا ہونے والے ہیں، اکثر عورتوں کو یہ آرزو تھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ماں بنیں۔

مصطفیٰ کا نور جو مستور تھا جسم عبداللہؑ کا پُر نور تھا
تھی جبیں روشن مثال آفتاب جسم تھا رخشندہ جیسے ماہتاب
سینکڑوں عاشق تھی ان پر عورتیں جان دیتی تھی ہزاروں عشق میں
جس کو دیکھو وہ یہ کرتی تھی دعا ماں محمدؐ کی بنا اے کبریا

حضرت عبدالالمطلب کو تلاش تھی ایسی عورت کی جو شریف حسب و نسب والی، عصمت و عفت والی ہو،
حضرت آمنہ کی تقدیر میں یہ دولت تھی، ان سے حضرت عبداللہ کا پیام ہو گیا۔ ایک عورت دولت مند تھی اس نے
حضرت عبداللہ سے نکاح کرنا چاہا۔ حضرت عبداللہ چند روز کا وعدہ کر کے گھر آگئے۔

یہاں حضرت عبداللہ کا نکاح حضرت آمنہ سے ہو گیا۔

حضرت عبداللہ چند روز کے بعد جب اس دولت مند عورت کے پاس گئے تو اس نے کہا کہ کیا اور سے
نکاح کر چکے ہو، حضرت عبداللہ فرمائے ہاں، اس عورت نے کہا وہ نور منتقل ہو گیا، اب مجھے تمہاری خواہش نہیں۔

فصل - ۵

کسی چیز کے متعلقات میں جہاں اشخاص ہو سکتے ہیں وہیں زمانہ بھی ہو سکتا ہے
اسی طرح متعلقات نورِ محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کے نمحلہ ایک چیز اشخاص کی عظمت و بزرگی بیان ہو چکی۔

اس نور مبارک کے متعلقات میں دوسری چیز جو زمانہ ہے اس میں ” شبِ میلاد ” اور ” وقت ولادت ” داخل ہیں، اس لیے اس فصل میں شبِ میلاد کی فضیلت اور وقت ولادت کی خوشی منانے کا مفصل بیان ہے :-
صاحب! تمام متبرک راتوں میں سب سے افضل شبِ قدر ہے، آپ کو معلوم ہے کہ اس کا یہ مرتبہ کیوں ہے؟

” تَنَزَّلُ الْمَلَائِكَةُ وَالرُّوحُ ” (پ ۳۰ سورۃ القدر)

(ملائکہ کے نازل ہونے کے سبب سے شبِ قدر متبرک ہے)

جس رات خود حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف فرمائی ہوئی ہے اس کا کیا مرتبہ پوچھتے ہو۔
حضرت کے پیدائش کی رات شبِ قدر سے اس لیے افضل ہے کہ شبِ قدر صرف رحمت ہے مومنین کے لیے،
خاص مومنین کو ہی فائدہ پہنچتا ہے۔ شبِ میلاد رحمت ہے تمام عالم کے لیے۔

” وَمَا أَرْسَلْنَا إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ ۝ ” (پ ۱۷ سورۃ الانبیاء)

(اے پیغمبر! ہم نے آپ کو دنیا جہاں کے لوگوں کے حق میں رحمت بنائی کر بھیجا ہے)

شبِ قدر سے خاص فائدہ پہنچتا ہے اور شبِ میلاد سے عام فائدہ پہنچتا ہے، اسی لیے شبِ میلاد تمام
راتوں سے افضل ہے۔

اب شاید آپ کو یہ شبہ ہو رہا ہوگا کہ شبِ قدر میں ایک رات کی عبادت کا ثواب ہزار مہینوں کی عبادت
سے بہتر ہے۔

” لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِّنْ أَلْفِ شَهْرٍ ۝ ” (پ ۳۰ سورۃ القدر)

شبِ میلاد میں نہ کوئی خاص عبادت ہے اور نہ عبادت کا کوئی ثواب زیادہ ملنا ثابت ہے، پھر کیسے شبِ
میلاد شبِ قدر سے افضل ہوگی۔

میرے دوستو! آپ نے غور نہیں فرمایا۔ بادشاہوں کے پاس کا قاعدہ ہے کہ دربار کے وقت نوکروں کو
ہمیشہ سے زیادہ کریا ندھ کر نوکری پر مستعد ہونا پڑتا ہے اور دنوں کے انتظام سے زیادہ انتظام کرنا پڑتا ہے اس کے

بعد کہیں سرفرازی ہوتی ہے۔ بخلاف اس کے جب بادشاہوں کے پیدائش کا دن ہوتا ہے عام تعطیل دی جاتی ہے بغیر کسی خدمت کے سرفرازی ہوتی ہے خلعتیں بُٹتی ہیں۔

دستو! شب قدر دربار کی رات ہے، تمام رات جا گتو سرفرازی ہوتی ہے۔ شب میلاد بادشاہوں کے پیدائش کی طرح ہے اس میں عام تعطیل ہے، نہ رات کو جانے کی ضرورت، نہ کوئی عبادت کرنے کی، بغیر کسی خدمت کے سرفرازی ہوتی ہے۔

مشقت کی سرفرازی سے بے مشقت کی سرفرازی بہتر ہے، اس لیے بھی شب قدر سے شب میلاد افضل ہے۔
صاحب! ایک کلمیہ پر غور فرمائیے :-

الَّدِينَ أَمْنُوا (پ ۱۳۴ سورۃ الرعد) وَعَمِلُوا الصِّلَحَاتِ

(اور نیک عمل کئے) (جو لوگ ایمان لائے)

(۱) پہلے اعمال صالح ہیں۔

(۱) پہلے ایمان ہے

(۲) بغیر اعمال صالح کے ایمان کے کار نہیں

(۳) شب قدر اعمال صالح میں سے ہے

(۲) شب میلاد ایمان سے تعلق رکھتی ہے

اس لیے کہ ایمان کے دو جز ہیں دوسرا جز محمد رسول اللہ ہے شب میلاد کا تعلق اسی جز سے ہے۔

نتیجہ یہ نکلا کہ ایمان افضل ہے اعمال صالح سے، شب میلاد چوں کہ ایمان سے تعلق رکھتی ہے اس لیے اعمال سے تعلق رکھنے والی شب قدر سے افضل ہے۔

ایمان میں اعمال نہیں، ایمان کے بعد اعمال کرنے پڑتے ہیں چوں کہ شب میلاد ایمان سے تعلق رکھتی ہے اس لیے شب میلاد میں کوئی عمل نہیں۔

صاحب! جو کچھ ملتا ہے کئے پر ملتا ہے، بے کچھ کئے کے ملنا یہ خاصہ ہے شب میلاد کا

لو مسلمانو! مبارک باد ہے نام اس شب کا شب میلاد ہے نور کا چھڑکاؤ ہے اب جابجا ذکر ہے اس شاہ کے مولود کا سامعین کہو ہر دم صلن علی ہے بیان میلاد کے سامان کا

فصل - ۶

گذشتہ فصل میں شب میلاد کی جس طرح فضیلت ثابت کی گئی اسی طرح اس فصل میں حضور سرورِ کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے ولادت کی خوشی منانے کو ثابت کیا جاتا ہے۔

مومنوں کے دل پر فرحت ہے نمود ☆ قدیماں پڑھتے ہیں الحمد اور درود جو مسلمان آپ کے ہیں اُمتی ☆ ان پر واجب ہے تولد کی خوشی صاحبو! حضرت کی پیدائش کی جس قدر خوشی ہو کم ہے تولد کی خوشی منانے صرف ایک میں ہی نہیں کہہ رہا ہوں بلکہ خدا خود حکم دے رہا ہے قرآن خود سکھا رہا ہے۔

مصطفیٰ کی دوستی ایمان ہے ☆ شاہد اس پر آیتِ قرآن ہے

قُلْ بِفَضْلِ اللّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ فَلَيَفْرَحُوا (پ ۱۱ ع ۶ سورہ یونس)
(آپ کہہ دیجئے کہ بس لوگوں کو خدا کے اس انعام اور رحمت پر خوش ہونا چاہیے)

لفظ رحمت سے مراد دین کی نعمت ہوتی ہے جس طرح حکم ہے کہ مسجد میں آتے ہی پڑھیں "اللّٰہُمَّ افْتَنْنَا أَبْوَابَ رَحْمَتِكَ" اس دعا میں لفظ رحمت سے مراد دین کی نعمت ہے۔

لفظ فضل سے مراد دنیا کی نعمت ہوتی ہے جس طرح مسجد سے باہر آتے وقت کی دعا "اللّٰہُمَّ إِنِّي سْأَتَلُكَ مِنْ فَضْلِكَ" اس دعا میں لفظ فضل سے مراد دنیا کی نعمت ہے۔

اس قaudہ کے لحاظ سے آیت مبارک "قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذِكْرِكَ فَلَيَفْرَحُوا" (پ ۱۴ سورہ یونس) میں لفظ "فضل" اور لفظ "رحمت" سے دین اور دنیا کی تمام نعمتوں کی اصل وجہ مراد یعنی کا اہتمام کیا گیا ہے۔

وہ اصل وجہ اجس کا اہتمام کیا گیا آقا نے نامدار سرکارِ دو عالم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہے۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے تشریف لانے سے دنیا اور دین کی سب نعمتیں ملیں اس لیے تاکید پر تاکید اور حصر پر حصر کر کے یہ بتلا دیا ہے کہ اگر خوشی کے قابل کوئی چیز ہے تو حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہے، اس پر بے حد خوش ہونا چاہیے "قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذِكْرِكَ فَلَيَفْرَحُوا" پر ہی بس نہیں کیا، بلکہ اس کے بعد صراحة فرماتا ہے "هُوَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ" (پ ۱۴ سورہ یونس) یہ حضرت کی نعمت "دنیا کے ان تمام نعمتوں سے بہتر ہے جن کو تم جمع کر کے اس پر خوش ہوتے ہو۔"

اس آیت میں فضل و رحمت سے مراد حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہونے کی دلیل یہ ہے کہ ایک اور جگہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ :-

يَتَلَوُا عَلَيْهِمْ آيَتَهُ وَيُرَزِّكُهُمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ قَوْلًا كَانُوا أَمْنًا قَبْلُ لَفْيَ ضَلَالٍ مُّبِينٍ (پ ۲۴ سورہ الجمعة)

یہ نبی ایسے ہیں کہ "آیتیں بتلاوت کرتے ہیں، ظاہری و باطنی نجاستوں سے پاک کرتے ہیں ان کو حکمت کی باتیں سکھلاتے ہیں سب کھلی گمراہی میں تھے، یہی منشاء ہے حضرت کے پیدا ہونے کا، اس وجہ سے حضور رحمت اور فضل ہیں۔

فصل ۷

ان حالات کے بیان میں جو حضور اکرم فخر عالم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے مادر محترمہ کے شکم مبارک میں تشریف آوری سے لے کر ولادت با سعادت تک پیش آئے۔

کیا کہوں کہ ہزار ہا سال سے جو نور منتقل ہوتا چلا آ رہا تھا اب بی بی آمنہ کے پیٹ میں آئے۔

لب حوراں ترنم ریز تسبیح

بگردوں زہرہ رقصانست امشب

ملائک تہنیت گویا کہ لاریب

زشب قدر عزیز آنسٹ امشب

کیا کہوں حضور شکم مادر میں آنے کی کیسی رات تھی، حوراں جنت مارے خوشی کے تسبیح پڑھ رہے تھے آسمان پر خوشی سے زہرہ (تارا) رقص کر رہا تھا فرشتے ایک دوسرے کو مبارکباد دیرے تھے آج کی رات عاشقانِ الہی کے لیے شبِ قدر سے بہتر ہے۔

دل عشق از داغ جگر سوز

خوش رشک چراغانست امشب

عاشقانِ الہی کے دلوں پر جو عشق و محبت کا داغ تھا وہ اس قدر منور ہو گیا تھا کہ چراغوں کو اس پر رشک آ رہا تھا۔

بہ گرد شمع چوں پروانہ جبریل

بلا گردان بصد جانست امشب

جیسے پروانہ شمع کے اطراف ہوتا ہے اس طرح حضرت جبریلؑ حضور کے دنیا میں تشریف آوری کی خوشی میں حضور پر قربان ہو رہے تھے۔

بہر کوئے کہ می بنی بہ عالم

بہار باغ رضوانست امشب

کیا کہوں کہ سارے عالم کا اس وقت کیا حال تھا ہرگلی کوچہ میں باغِ رضواں (یعنی جنت کی طرح بہار تھی)

جمعہ کی رات تھی وہ نور کردار ☆ آمنہ کے پیٹ میں پایا قرار
 جمعہ کی رات افضل تر یقین ☆ لیلة القدر اس کے آگے کچھ نہیں
 رجب کا مبارک مہینہ ہے جمعہ کی رات ہے جو شبِ قدر سے بھی افضل ہے جنت کے داروغہ کو حکم ہوا کہ ”
 رضوان تمام جنتوں کے دروازے کھول دو، عالم قدس کو انوارات سے منور کر دو۔ تمام عالم کو طرح طرح کی
 خوبیوں سے معطر کر دو۔

زمین اور آسمان میں پکار دو کہ وہ نورِ مبارک جس کی خوشخبری انبیاء دیتے آتے تھے، آج کی رات اپنی ماں
 کے پیٹ میں آگیا، عنقریب پیدا ہو کر لوگوں کو جنت کی خوشخبری سنائے گا۔

یوں ہوا رضوان کو حکم کبریا ॥ سب مکاں جنت کے کر آراستہ
 بحر و بر بُرگ و شجر سے تھی صدا ॥ اب محمدؐ کا زمانہ آگیا
 اب زمانہ آیا حضرت کا قریب ॥ اب تولد ہوئیں گے حق کے جبیب
 آسمانوں کے فرشتو! شاد ہو ॥ اور بشر، جن کو مبارک باد ہو
 اللہ، اللہ! حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے چار سو چوتیس سال بعد آج دُنیا میں رسولؐ کے آنے کی اور جنت
 کے دروازے کھلنے کی مبارک خبر آئی۔

خوش نصیب ہے وہ امت جس کے یہ رسول ہوں گے جو ان پر ایماں لائیں گے ان کو اپنے ساتھ جنت
 میں لے جائیں گے۔

صاحب! کیسا مبارک رسول ہے جو اپنے ماں کے پیٹ میں آتے ہی سب سے پہلے امت کے لیے جنت کا
 دروازہ کھلوایا، ابھی تو کچھ بھی نہیں ہوا ہے پیدا ہو کر کیا کچھ نہ کرے گا۔ پھر رسول ہو کر عمر بھر قوم کی ہدایت میں مختین
 اٹھا کر جنت کو کیسا ستارے گا اس کے بعد وفات کے وقت امت کے لیے مغفرت کی آخری دعا کر کے جنت
 میں جانے کا پورا اسامان کرے گا۔

قریش کا ہر ایک جانور بول اٹھا لوگو! آج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حمل میں تشریف لائے، رب کعبہ کی قسم وہ ساری دنیا کے لیے امن کا باعث ہیں۔

جانور دریا کے مل کے آپس میں سب
کہتے تھے آیا خوشی کا وقت اب

جنگلی، وحشی اور دریائی جانور خوشی سے بچوں لئے نہیں سمار ہے ہیں، جانوروں کے خوشی کی وجہ یہ تھی قیامت اُس وقت قائم ہوگی جس وقت دنیا میں کوئی اللہ اللہ بولنے والا نہیں رہے گا۔ گویا سارے جہاں کی بقاء ذکر الہی سے ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد سے ذکرِ الہی کم ہوتے ہوتے منہ کے قریب آگیا تھا۔ جانور گھبرائے تھے کہ اب دنیا فنا ہوتی ہے، ایسے نامیدی کی حالت میں خدا کی رحمت ظاہر ہوئی۔ سب نبیوں کا خاتم ماں کے پیٹ میں آگیا۔ اب تو ذکرِ الہی ایسا ہوگا کہ آج تک کبھی ایسا نہیں ہوا سب کی جان میں جان آئی۔ سب جانور خوش ہو کر عالم کے باقی رہنے کی خوشخبری ایک دوسرے کو سنار ہے تھے کہ :-

آج کی رات وہ ہے کہ جانِ جہاں حیاتِ عالم اپنی ماں کے پیٹ میں آگئے۔

شرق سے تاغرب کئے یہ ندا ﴿ نورِ نبی سرورِ گُلِ انبیاء ہے وہ بلا شبہ خدا کا حبیب ﴿ اب ہے بہت اسکا زمانہ قریب جانوراں مکہ کے جو تھے تمام ﴿ یوں لگے آپس میں وہ کرنے کلام حضرتِ بولاق اسم والا حشم ﴿ لاتا ہے دنیا میں قریب اب قدم کیوں نہ ہو یہ بات کہ سرور کی ذات ﴿ سیدِ لولاک پیغمبر کی ذات مصدر خیرات و کرامات ہے ﴿ پشمہ فیض ہمه برکات ہے درگہ خلاق کا ایسا حبیب ﴿ ہوتا ہے اب جلوہ فزا عنقریب کیوں نہ ہو مسرور زمین و زمان کیوں نہ کریں فخرِ مکین و مکان

بُت اوں دھے ہوئے، بادشاہوں کے تختِ الٹ گئے۔ ہر ایک جگہ نور سے منور تھی قحط تھا، درخت خشک تھے، جانوروں بے تھے، حضرتِ حمل میں تشریف لاتے ہی قحط دور ہوا۔ اس سال کا نام ”سنۃ الابتهاج“ رکھا گیا۔

اہلِ مکہ کے دلوں پر تھی خوشی
پانی برسا خشک سالی سب گئی

جب سے حضرت پیٹ میں تشریف لائے ہر مہینہ میں ایک آواز آسمان سے آتی تھی لوگو! خوش ہو جاؤ کہ
نہایت برکت والے نبی اس جہاں میں تشریف لارہے ہیں۔

حضرت بی بی آمنہ ایامِ حمل میں جب راستہ چلتیں جو پتھران کے پیروں میں آتا وہ موم کی طرح
نہایت زم ہو جاتا۔

آپ کو معلوم ہے پتھر کا موم ہو جانا کیا تھا، اس سے یہ بتانا منظور تھا کہ اے آمنہ تم کچھ سمجھیں؟
جیسے پتھر تھارے پیروں میں موم ہو جاتا ہے ایسا ہی وہ نبی جو تمہارے پیٹ میں ہیں پتھر جیسے سنگ دلوں کو
موم بنائیں گے۔

حضرت آمنہ کو حمل کے دنوں میں دوسری عورتوں کو جس طرح تکلیف ہوتی ہے اس قسم کی کچھ تکلیف نہیں
ہوئی۔ حضرت آمنہ فرماتی ہیں کہ مجھے معلوم ہی نہیں ہوتا تھا کہ میں حاملہ ہوں، البتہ صرف حیض بند ہو گیا تھا۔

حضرت آمنہ کا دل کبھی کسی کھٹی میٹھی چیز کو نہ چاہا جس طرح دوسری عورتوں کا دل اکثر چاہتا ہے اس کی وجہ
کچھ معلوم ہے؟

صاحبہ! بی بی آمنہ کے پیٹ میں کون ہے، وہ زاہد نبی ہے جو ساری عمر دُنیا کا مزہ نہ لے گا۔ کھٹی میٹھی کی
چیز سے دل نہ لگائے گا، یا جس کے گھر میں دو دہیئے تک چولہا نہ سلگے گا پیٹ پر پتھر باندھ کر نماز پڑھائے گا۔
ایسا زاہد نبی پیٹ میں رہے تو پتھر کیا ان کی ماں کا دل کھٹی میٹی چیز چاہ سکتا ہے؟

ہر ایک مکان نور سے روشن تھا۔ مشرق کے جانور مغرب کے جانوروں کو اور مغرب کے جانور مشرق کے
جانوروں کو خوشخبری دے رہے تھے کہ رسول آخر الزمان اپنے ماں کے پیٹ میں آگئے۔ ربِ کعبہ کی قسم یہ نبی اس

شان سے دُنیا میں آئیں گے کہ تمام پیغمبروں کے امام ہوں گے۔ تمام دُنیا والوں کے لیے ان کے دلوں کو منور کرنے والے چراغ ہوں گے۔

حضرت آمنہ فرماتی ہیں کہ میں کچھ نہیں میں تھی اور کچھ ہوشیاری میں، کوئی کہتا ہے آمنہ تم کو کچھ خبر ہے تم حاملہ ہو، ایسے ذات مبارک سے جو سارے عالم سے بہتر ہے۔

اب شکم سے تیرے اے رشک زنان

ہوئے گا پیدا نبی آخر الزمان

مجھ پر آثارِ حمل ظاہر نہ تھے نہ شکم میں بوجھ تھا بالکل میرے
خواب میں آ ایک فرشتہ نے کہا کون ہے تیرے شکم میں آمنہ
میں کہی اس کی خبر مجھ کو نہیں وہ کہا ہیں رحمتہ للعالیین

حضرت آمنہ فرماتی ہیں کہ :-

جب فرشتوں نے آ کر مجھے اطلاع دی تو میں سمجھی کہ حاملہ ہو گئی ہوں، زمین اور آسمان سے ہر مہینہ یہ ندا ہوتی تھی کہ آمنہ تم کو خوشخبری ہو، اب تمہارے بطن سے ابوالقاسم محمد صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہونے والے ہیں۔
حضرت آمنہ فرماتی ہیں کہ ہر ماہ ایک پیغمبر آتے۔

دے مبارک باد کہتے تھے مجھے کیا مبارک بخت ہیں بی بی تیرے
پیٹ میں تیرے جو رشک ماہ ہے رحمتِ عالم ہمارا شاہ ہے
جب تولد ہوئیں یہ عالی مقام شاد ہو رکھیو محمد ان کا نام

وقتِ حمل اکثر دیکھتی تھی کہ :-

مجھ سے ایک نور ظاہر ہو رہا ہے سارا عالم اس سے منور ہو رہا تھا اس نور میں میں شام کے شہر بصری کو دیکھ رہی تھی۔

حضرت کی پیدائش کے پہلے جب حضرت کے والدِ ماجد حضرت عبداللہ کا انتقال ہو گیا تو سب فرشتوں نے اللہ تعالیٰ سے عرض کیا، اے ہمارے معبود اللہ آپ کے حبیب، آپ کے پیغمبر، پیدا ہونے سے پہلے یتیم ہو گئے ہیں اب ان کا کیسا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا میں سو (۱۰۰) باتیں سے زیادہ محبت رکھنے والا، اس یتیم نبی کا حافظ و نگہبان اور ان کا کفیل رہوں گا اور ہر وقت ان کی مدد کرتا رہوں گا۔

رو رو کہتے تھے فرشتے اے کریم
پیٹ میں ماں کے ہوا احمد یتیم
دی یہ خالق نے فرشتوں کو خبر
ہے بزرگی باپ کی اولاد پر
چاہتے ہیں ہم کہ یہ دڑ یتیم
بے پدر دُنیا میں ہو بیخوف و بیم

حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ولادت کے وقت موسمِ ربيع (بہار) تھار بیج کے موسم میں حضرت کے ولادت کی وجہ یہ تھی کہ حضرت علامت قیامت تھے۔

‘آناؤ السَّاعَةُ كَهَا تَيْنِ’

حضرت کی پیدائش سے معلوم ہو رہا تھا کہ اب قیامت آنے والی ہے اس لیے حدیثِ شریف میں آیا ہے کہ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیج کی انگلی اور کلمہ کی انگلی ملا کر فرمائے جیسے کلمہ کی انگلی کے بعد بیج کی انگلی ہے، اسی طرح میرے بعد قیامت ہے، میرے بعد کوئی بُنی نہیں آئیں گے۔

بہار و طرح کے ہوتے ہیں، ایک بہار اشباح یعنی بہارِ اجسام اس سے عالم آب و گل (پانی کچھز) کی آرائش ہوتی ہے۔

دوسری بہارِ رواح، اس بہار سے جان و دل کو راحت نصیب ہوتی ہے۔ بہار اشباح کو ابر سے سیرابی ہوتی ہے جیسے اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے :-

”وَأَحْيَيْنَا بِهِ بَلْدَةً مَيْتَنَا (پ ۲۶ ع ۱ سورہ ق)“
(ہم ابر سے زندہ کرتے ہیں مردہ بستیوں کو)

ابر کی سیرابی سے متعلق اللہ تعالیٰ دوسری جگہ ارشاد فرماتا ہے:-

سُقْنَةُ لِبَلْدٍ مَيْتٍ (پ ۸ ع ۷ سورہ اعراف)

تو پھر ہم کسی بستی کی طرف جو (افتادگی کی وجہ سے گویا) مری پڑی تھی۔ بادل کو ہاںک دیتے ہیں (پھر وہاں بادل سے پانی بر ساتے ہیں)۔

بہار ارواح کے متعلق اللہ تعالیٰ فرماتا ہے :-

وَسَقَهُمْ رَبُّهُمْ شَرَابًا طَهُورًا (پ ۲۹ ع ۱ سورہ الدھر)

(ان کا پروردگار ان کو شراب طہور پلانے گا)

اسی طرح بہار ارواح کے بارے میں ارشاد باری ہے:-

فَلَنْخَيْنَةُ حَيْوَةٌ طَيِّبَةٌ (پ ۱۴ ع ۱۳ سورہ النحل)

(ہم حیات طیبہ دے کر ان کی زندگی خوشگوار بناتے ہیں)

بہار اشباح گل و ریحان سے حاصل ہوتا ہے۔

بہار ارواح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری سے حاصل ہوتا ہے۔ جیسے کہ انہیрی رات میں راستہ چلنے والے مسافر گھڑی گھڑی آسمان کی طرف نگاہیں اٹھا اٹھا کر دیکھتے ہیں کہ کب وہ وقت آئے کہ چاند طلوع کرے اور یہ انہیں راستہ روشن ہو جائے۔

اسی طرح سارا عالم گھڑی گھڑی دیدے پھاڑ پھاڑ کر دیکھتا تھا کہ کب وہ وقت آئے گا کہ خاتم النبین کا نور مکہ کے پھاڑوں سے چمکے گا۔

جب چاند نکلا قریب ہوتا ہے تو آسمان کے کنارے چمکنے لگتے ہیں، ربع الاول کا چاند نظر آیا۔ سارا عالم نور سے چمک رہا ہے، بہار کا موسم ہے عام الفیل ہے یعنی وہ سنہ ہے جس میں ابرھا کے ہاتھی بتاہ ہوئے تھے، ربع الاول کا مہینہ ہے اب زمانہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیدا ہونے کا قریب ہو گیا ہے۔

ابر کی سیرابی سے متعلق اللہ تعالیٰ دوسری جگہ ارشاد فرماتا ہے :-

”سُقْنَةُ لِبَلْدٍ مَّيِّتٍ (پ ۸ ع ۷ سورہ اعراف)

تو پھر ہم کسی بستی کی طرف جو (افتادگی کی وجہ سے گویا) مری پڑی تھی۔ بادل کو ہانک دیتے ہیں (پھر وہاں بادل سے پانی بر ساتے ہیں)۔

بہارِ رواح کے متعلق اللہ تعالیٰ فرماتا ہے :-

وَسَقَهُمْ رَبُّهُمْ شَرَابًا طَهُورًا (پ ۲۹ ع ۱ سورہ الدھر)

(ان کا پروردگار ان کو شراب طہور پلانے گا)

اسی طرح بہارِ رواح کے بارے میں ارشاد باری ہے :-

فَلَنْخُبِينَهُ حَيْوَةً طَيِّبَةً (پ ۱۴ ع ۱۳ سورہ النحل)

(ہم حیاتِ طیبہ دے کر ان کی زندگی خوشگوار بناتے ہیں)

بہارِ اشباح گل و ریحان سے حاصل ہوتا ہے۔

بہارِ رواح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری سے حاصل ہوتا ہے۔ جیسے کہ اندھیری رات میں راستہ چلنے والے مسافر گھڑی گھڑی آسمان کی طرف نگاہیں اٹھا اٹھا کر دیکھتے ہیں کہ کب وہ وقت آئے کہ چاند طلوع کرے اور یہ اندھیرا راستہ روشن ہو جائے۔

اسی طرح سارا عالم گھڑی گھڑی دیدے پھاڑ پھاڑ کر دیکھتا تھا کہ کب وہ وقت آئے گا کہ خاتم النبین کا نور مکہ کے پھاڑوں سے چمکے گا۔

جب چاند نکلا قریب ہوتا ہے تو آسمان کے کنارے چمکنے لگتے ہیں، ربع الاول کا چاند نظر آیا۔ سارا عالم نور سے چمک رہا ہے، بہار کا موسم ہے عام الفیل ہے یعنی وہ سنہ ہے جس میں ابرھا کے ہاتھی تباہ ہوئے تھے، ربع الاول کا مہینہ ہے اب زمانہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیدا ہونے کا قریب ہو گیا ہے۔

آمد آمد ہے رسول پاک کی آمد آمد ہے شہ لولاک کی
 آمد آمد سید اعظم کی ہے آمد آمد سرورِ عالم کی ہے
 آمد آمد ہے شہابدار کی آمد آمد ہے پڑے سرکار کی
 آمد آمد مالک کوثر کی ہے آمد آمد دین کے سرور کی ہے
 آمد آمد شافعِ محشر کی ہے آمد آمد اپنے پیغمبر کی ہے
 آمد خیرالورا کی دھوم ہے جلوہ نورِ خدا کی دھوم ہے
 دھوم ہے کون و مکان میں دھوم ہے دھوم ہے دونوں جہاں میں دھوم ہے
 جلوہ افزا آج ہوتا ہے یہاں نور سے جس کے ہوا روشن جہاں
 آج محبوبِ خدا کی دید ہے عید ہے اہلِ نظر کی عید ہے
 اپنے تن پر اپنا جامہ تنگ ہے گل نہیں پھولے ساتھا تنگ ہے
 باغ میں سُن کر گلوں کے قہقہے بڑھ گئے ہیں بلبلوں کے چچبے
 وصل کا لائی صبا جس دم پیام کھلھلا کر ہنس پڑیں کلیاں تمام
 ہر چمن میں نکھلت زلفِ دوتا جھولیاں بھر بھر کے لاتی ہے صبا
 عرش آج اس شمع کی قدیل ہے جس کا پروانہ پر جبریل ہے
 وجد میں اس کے قدم کو چوم کر رہ گیا بس عرشِ اعلیٰ جھوم کر
 شوق میں اس مہ لقا کے سربر خاک پر گرتے ہیں تارے ٹوٹ کر
 ہے زمیں بوس ادبِ چشمِ فلک راہ میں آنکھیں بچھاتے ہیں ملک
 خلق کا چاروں طرف ہے ازدحام ہاتھ میں حوروں کے ہے کوثر کا جام
 تہنیت گویاں ملک ہیں ہر طرف حاملانِ عرش ہیں مشعلِ بکف
 ہر طرف جبریل کا ہے اہتمام ہے فرشتوں کے زبانوں پر سلام

۴

جبیب حق رسول مجتبی کی آمد آمد ہے ॥ شہ کونین فخر انبیاء کی آمد آمد ہے
صدائیں آرہی ہیں آسمان سے اہل بلطخا کو ॥ مبارک ہو تمہارے رہنمای کی آمد آمد ہے
طبق انوار کے حوریں تصدق کرنے لائی ہیں ॥ یہ کہتی ہیں کہ ایک نورِ خدا کی آمد آمد ہے
کرے چودہ طبق کو جو منور نور سے اپنے ॥ اسی شمسِ الضھی بدرالدین کی آمد آمد ہے
معن و بالبشر جسکی بشارت دیتے آئے تھے ॥ اسی امی لقبِ خیرالورمی کی آمد آمد ہے
ملائک آسمان سے بہراستقبال آتے ہیں ॥ خدا کے خاص پیارے دلربا کی آمد آمد ہے

اے ماہِ ربیع الاول کروڑ ہا انسان آئے اور گئے تو تو وہی ہے، تیرے اس بارھویں تاریخ کی رات کو چ بتا
کیسا سماں تھا۔ جنت کی حوریں جو آسکیں آگئیں، باقی جنت کی کھڑکیاں کھولے خوشیاں کر رہی تھیں۔ عرشِ الہی خوشی
سے جھوم رہا تھا، ساری دُنیا خوشی میں آ کر رقص کر رہی تھی، ساتوں آسمانوں کے فرشتے خوشیاں منار ہے تھے سب تو
سب خدائے تعالیٰ بھی خاص تجلی اپنے بندوں پر فرمرا ہا تھا۔

ہے سب کیوں؟

اب کوئی دم میں نوپد جاں فزا آنے کو ہے ☆ اے دل شیدا سنبل جادر بآ آنے کو ہے
 عرشِ اعظم سے نسیم جاں فزا آنے کو ہے ☆ دل میں جاں آنے کو ہے عیسیٰ ادا آنے کو ہے
 اب بلوں پر خیر مقدم مر جبا آنے کو ہے ☆ دوستو! اب لو بھارِ جاں فزا آنے کو ہے
 پھر چمن میں دیکھنا اب بلوں کے چیچے ☆ از سرِ نو زندگانی کا مزا آنے کو ہے
 آرہی ہے شوق کی کالی گھٹا امڈی ہوئی ☆ اب طبیعت میں ہمارے ولولہ آنے کو ہے
 چکنکی باندھے ہوئے تکتے ہیں غنچہ کب سے راہ ☆ سنتے ہیں گزار میں باد صبا آنے کو ہے
 ہوچکی باد خزان کی خانہ ویرانی تمام ☆ آج گھشن میں نسیم جاں فزا آنے کو ہے
 شکر ہے گذری شب بھراں ہوئی صح وصال ☆ آفتاب آسمان اعتلا آنے کو ہے

اب وہ آتا ہے کہ جس کی دید کا تھا انتظار

دیدہ مشتاق میں نور و ضیا آنے کو ہے

اب وہ وقت بہت قریب آگیا ہے کہ حضور رونق افروز ہوں، ۱۲ ار ربیع الاول وقت صبح صادق ہے حضرت آمنہ فرماتی ہیں کہ زچگی کے درد تیزی سے ہونے لگے اور میں کیا دیکھتی ہوں کہ سفید مرغ میرے پیٹ پر اپنے پر مل رہا ہے۔

جب تولد کا ہوا وقت سعید ☆ آیا اک آگے مرے مرغ سفید
اپنا بازو پیٹ پر میرے ملا ☆ خوف و اندیشہ مرا جاتا رہا
اس وقت سفید شربت مجھے پلا یا گیا۔

اک حسین وہ مرغ اس دم بن گیا ॥ لایا اک پیالہ شراب پاک کا
دودھ سے اس کی سفیدی تھی فزوں ॥ شہد شیرینی میں اس سے سرگوں
مجھ سے وہ بولا کہ اس کو نوش کر ॥ پی گئی جب پھر کہا پی پیٹ بھر
تین بار اس نے بڑی تکرار سے ॥ وہ شراب پاک پلوائی مجھے

درمیان زمین و آسمان کے سفید دیبا کے تھان، مثل پھریوں کے لٹکائے گئے تھے۔ زمین اور آسمان کے درمیان بہت سے لوگ تھے جن کے ہاتھوں میں نقوی لوٹے تھے اور بہت سے پرندے میرے مجرے کو ڈھانک لئے تھے جن کے چونچ زمرد کے اور بازو یا قوت کے تھے۔

ایک نکڑی پرندوں کی بڑی ॥ چونچ تھی جن کی زمرد سبز کی
بازو ان کے سرخ تھے یا قوت کے ॥ ڈھانکے مرے پیٹ کو اطراف سے

مجھے ایسا کشف ہوا، ایسا معلوم ہوتا تھا کہ میرے آنکھوں کے سامنے سے سب پرے اٹھادیے گئے ہیں
اور میں مشرق سے مغرب تک دیکھ رہی تھی۔

مشرق و مغرب کھلے مجھ پر تمام
رو برو میرے تھا سارا ملکِ شام

اور یہ بھی دیکھی کہ تین جھنڈے نصب کیے گئے ایک مشرق میں دوسرا مغرب میں اور تیسرا خانہ کعبہ پر۔

آسمان سے تین لائے نشان ۔ ۔ ۔ چھت پر اک کعبہ کے گاڑھے نشان
اک کئے مشرق کی جانب کھڑا ۔ ۔ ۔ نصب مغرب میں کئے تیسرا
بلند بلند قد کی بہت سی عورتیں میرے مکان میں جمع ہوئیں، مجملہ ان کے آسیہ تھیں اور مریم تھیں۔

حضرت آمنہ یہ بھی فرماتی ہیں کہ دریزہ کے وقت آدمی کے صورت کے فرشتے آفتابہ لیے کھڑے تھے کوڑو
سلسلہ جنت سے لے کر حضرت کو غسل دینے کے لیے انتظار میں درِ دولت پر حاضر تھے۔

بہر حال اک عالم منتظر ہے کہ آپ برآمد ہوں ۔

یا رسول اللہ ہو رونق فزا ۔ ۔ ۔ انبیاء کے شاہ ہو رونق فزا
گھر خدا کا آج تک تاریک تھا ۔ ۔ ۔ شمع بیت اللہ ہو رونق فزا
ہوچکیں باتیں کلمیں اللہ سے ۔ ۔ ۔ اب حبیب اللہ ہو رونق فزا
ابن مریم کا زمانہ جا چکا ۔ ۔ ۔ ابن عبداللہ ہو رونق فزا
منتظر کوئیں ہے دیدار کا ۔ ۔ ۔ مظہر اللہ ہو رونق فزم

سارا عالم انتظار میں گھریاں گن رہا تھا ہر ایک کے زبان پر تھا۔

اب تاب نہیں ہجر کی از پرده بروں آ
مشتاق ترے وصل کا ہر پیرو جوانست

حضرت آمنہ فرماتی ہیں کہ مجھے کچھ اور زیادہ دردزہ ہونے لگے اس کے بعد سردار کو نین سلطان دارین آقائے نامدار حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اس عالم کو رونق دینے کے لیے پیدا ہوئے۔ سب حاضرین کھڑے ہوں اور ذیل کے اشعار اور سلام کھڑے ہو کے پڑھے جائیں:-

لو مبارک ہو محمد مصطفیٰ پیدا ہوئے ॥ باعث پیدائش ارض و سما پیدا ہوئے
دی ندا ہاتف نے سب حور و ملک تسلیم کو ॥ آج حاضر ہوں کہ محبوب خدا پیدا ہوئے
احمد محمود پیارے پیارے ہیں جن کے خطاب ॥ شان جنکی ہے حبیب کبریا پیدا ہوئے
شرق سے تاغرب روشن ہو گیا سارا جہاں ॥ دور تاریکی ہوئی مش شفیحی پیدا ہوئے
جن کی خوشبو سے مہک جائیگا یہ باغِ جہاں ॥ عندلیب! وہ گلِ وحدت نما پیدا ہوئے
آرزو جن کی زیارت کی تھی یوسف کو وہی ॥ حسن کا رتبہ سب حسینوں سے سوا پیدا ہوئے
مژده یہ دید و مریضانِ محبت کو کہ آج ॥ اپنے بیکس دردمندوں کی دوا پیدا ہوئے
ہونے کو امت میں جن کی انبیائے سابقین ॥ روز و شب کرتے تھے حق سے الْجَایا پیدا ہوئے

دیگر

ہو گئے ظاہر شہ دنیا و دین ○ مظہر حق رحمۃ " للعالمین
سرور پیغمبر اس پیدا ہوئے ○ ہادی ہر دو جہاں پیدا ہوئے
کیا رہا اب فخر سیر طور کا ○ شہسوارِ لامکاں پیدا ہوئے
آیت لا تقطروا کا ہے ظہور ○ لو ٹفتیع عاصیاں پیدا ہوئے
بیکسی اب بھاگتی ہے دور دور ○ غمزدوں کے مہرباں پیدا ہوئے

دیگر

شہنشاہِ اعظم تولد ہوئے ♦ رسول کرم تولد ہوئے
 شہ دین و دُنیا تولد ہوئے ♦ مہ اوچ علیا تولد ہوئے
 تولد ہوئے پیشوائے جہاں ♦ تولد ہوئے مقتداۓ جہاں
 تولد ہوئے سرورِ مرسلان ♦ تولد ہوئے رہبر دو جہاں
 تولد ہوئے رہنمائے قدیم ♦ قسم جسم نسم وسیم
 تولد ہوئے بحرِ فیض عیم ♦ شفیع مطاعِ نبی کریم
 تولد ہوئے مہر اوچ شرف ♦ تولد ہوئے فخرِ عہد سلف
 تولد ہوئے خواجہ بعث و نشر ♦ تولد ہوئے شافع روزِ حشر

سلام

السلام اے آفتاب داد و دیں • السلام اے انتخاب اولین
 السلام اے دشیر بے کسان • السلام اے چارہ درد نہماں
 السلام اے قبلہ گاہِ اہل دیں • السلام اے بادشاہِ مرسیں
 السلام اے بود آدم را سبب • السلام اے خلق عالم را سبب
 السلام اے شاہِ عظمت السلام • السلام اے ماہِ رفتت السلام
 السلام اے گھرِ تاجِ قبول • السلام اے زیبِ معراجِ قبول
 السلام اے پیشوائے انبیاء • السلام اے مقتداۓ اولیاء
 السلام اے باعثِ ایجادِ خلق • السلام اے موجبِ بنیادِ خلق

السلام اے زبدۃ ارباب علم • السلام اے قدوۃ اصحاب علم
 السلام اے مظہر انوار حق • السلام اے مصدر اسرار حق
 السلام اے شاہ شاہان السلام • السلام اے جانِ جانان السلام
 السلام اے انبیاء کے پیشوں • السلام اے اولیاء کے مقتدا
 السلام اے غزدوں کے دشیگر • السلام اے ہادی روشن ضمیر
 السلام اے درِ دل کے چارہ ساز • السلام اے خواجہ بیکس نواز
 السلام اے دو جہاں کے بادشاہ • مجھ غریب خستہ پر بھی اک نگاہ

دیگر

سلام اس پر کہ جس نے بیکسوں کی دشیگری کی ۷۷ سلام اس پر کہ جس نے بادشاہی میں فقیری کی
 سلام اس پر کہ اسرارِ محبت جس نے سمجھائے ۷۷ سلام اس پر کہ جس نے زخم کھا کر پھول بر سائے
 سلام اس پر کہ جس نے خون کے پیاسوں کو قباکیں دیں ۷۷ سلام اس پر کہ جس نے گالیاں سنکر دعائیں دیں
 سلام اس پر کہ دشمن کو حیاتِ جاوداں دیدی ۷۷ سلام اس پر ابوسفیان کو جس نے اماں دیدی
 سلام اس پر کہ جس کا ذکر ہے سارے صحائف میں ۷۷ سلام اس پر کہ ہوا مجروح جو بازار طائف میں
 سلام اس پر وطن کے لوگ جس کو تیک کرتے تھے ۷۷ سلام اس پر کہ گھروالے بھی جس سے جنگ کرتے تھے
 سلام اس پر کہ جسکے گھر میں چاندی تھی نہ سونا تھا ۷۷ سلام اس پر کہ ٹوٹا بوریا جس کا بچھونا تھا
 سلام اس پر جو سچائی کی خاطر دکھ اٹھاتا تھا ۷۷ سلام اس پر جو بھوکا رہ کے اوروں کو کھلاتا تھا
 سلام اس پر جو امت کیلئے راتوں کو روتا تھا ۷۷ سلام اس پر جو فرشِ خاک پر جاڑے میں سوتا تھا
 سلام اس پر کہ جس کی سادگی درسِ بصیرت ہے ۷۷ سلام اس پر کہ جس کی ذات فخر آدمیت ہے
 سلام اس پر کہ جس نے جھولیاں بھردیں فقیروں کی ۷۷ سلام اس پر کہ مشکلیں کھول دیں جس نے اسیروں کی

سلام اس پر کہ تھا الفقر فخری جس کا سرمایہ ﷺ سلام اس پر کہ جس کے جسم اطہر کا نہ تھا ساری
 سلام اس پر کہ جسے فضل کے موتی بکھیرے ہیں ﷺ سلام اس پر بروں کو جس نے فرمایا کہ میرے ہیں
 سلام اس پر کہ جس کی چاند تاروں نے گواہی دی ﷺ سلام اس پر کہ جسکی سنگ پاروں نے گواہی دی
 سلام اس پر کہ جس نے چاند کو دنکڑے فرمایا ﷺ سلام اس پر کہ جس کے حکم سے سورج پلت آیا
 سلام اس پر فضا جس نے زمانہ کی بدل ڈالی ﷺ سلام اس پر کہ جس نے کفر کی قوت کچل ڈالی
 سلام اس پر شکستیں جسے دیں باطل کی فوجوں کو ﷺ سلام اس پر کہ ساکن کر دیا طوفان کے موجودوں کو
 سلام اس پر کہ جس نے کافروں کے زور کو توڑا ﷺ سلام اس پر کہ جس نے پنجہ بے داد کو موڑا
 سلام اس پر سر شاہنشہی جس نے جھکایا تھا ﷺ سلام اس پر کہ جس نے کفر کو نیچا دکھایا تھا
 سلام اس پر کہ جسے زندگی کا راز سمجھایا ﷺ سلام اس پر کہ جو خود بدر کے میدان میں آیا
 سلام اس پر بھلا سکتے نہیں جس کا کبھی احسان ﷺ سلام اس پر مسلمانوں کو دی تلوار اور قرآن
 سلام اس پر کہ جس کا نام لے کر اس کے شیدائی ﷺ اللہ دیتے ہیں تخت قیصریت اورِ دارائی
 سلام اس پر کہ جس کے نام لیوا ہر زمانے میں ﷺ بڑھادیتے ہیں نکڑا سرفروشی کافانے میں
 سلام اس پر کہ جسکے نام کی عظمت پر کٹ مرتا ﷺ مسلمان کا یہی ایماں ، یہی مقصد ، یہی شیوا

سلام اس ذات پر جس کے پریشاں حال دیوانے
 ساکنے ہیں اب بھی خالد و حیدر کے افسانے

حضرت آمنہ فرماتی ہیں کہ آپ پیدا ہوئے سجدہ کرتے ہوئے انگلی شہادت اٹھائے ہوئے ، میں قریب
 ہو کر سنی تو آپ فرماتے تھے الہی امتی امتی۔

ایسا فرماتی ہیں بی بی آمنہ ☆ جب ہوئے پیدا وہ نور کریا
 پہلے سجدے میں گئے ہیں عجز سے ☆ ہاتھ کی انگلی جو کلمہ کی تھی اوپر کو کئے
 آقائے نامدار صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی امت سے ایسی ہی محبت تھی جیسی کہ یعقوب علیہ السلام کو یوسف علیہ

السلام سے، اسی لیے پیدائش کے ساتھ امتی امتی فرمائے۔

حضرت آمنہ یہ بھی فرماتی ہیں کہ حضور سجدہ کرتے ہوئے جب پیدا ہوئے تو فصح زبان سے "لَا إِلَهَ إِلَّا
اللهُ، إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ" بھی فرمائے تھے۔

عیسیٰ علیہ السلام بھی پیدا ہو کر "إِنِّي عَبْدُ اللَّهِ" فرمائے اقرار معبودیت کئے، "وَأَوْصَانِي
بِالصَّلَاةِ" (پ ۱۶۴ سورہ مریم) زبانی نماز کی فضیلت بیان فرمائے۔

حضور صلی اللہ علیہ وسلم سجدہ کرتے ہوئے پیدا ہو کر نماز پڑھ کر عمل کر کے آنکھوں سے دکھائے۔

یہ دو عبادتیں، کلمہ کا ذکر اور نماز، حضرت کو بہت پیارے تھے، امت کو لازم ہے کہ خدا کے پیارے رسول
کے ادا کئے ہوئے اعمال کو جان سے زیادہ عزیز رکھے یہ دونوں عمل یعنی نماز اور ذکرِ الہی میں خاصیت ہے کہ خدا
سے ملنے والے ہیں۔ دیدارِ الہی دکھانے والے ہیں۔

بچپن میں یعنی اس عمر میں کہ جس میں کچھ بات نہیں کر سکتے۔ دو نبی بات کئے ایک تو حضرت عیسیٰ
علیہ السلام، وہ اس وجہ سے بات کئے تاکہ اپنی ماں کو زنا کی تہمت سے پاک کریں، دوسرے ہمارے حضور صلی
اللہ علیہ وسلم آپ بچپن میں اس لئے بات کئے کہ اللہ تعالیٰ پر شرک کی جو تہمت کفار لگا رہے تھے اس سے اللہ
 تعالیٰ کو پاک کریں۔

حضرت آمنہ فرماتی ہیں کہ میں سنی کوئی کہتا ہے کہ :

حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام زمین میں پھرالا۔ تمام روحوں کو ان کا نظارہ کراو۔ جنوں، انسانوں،
فرشتوں، پرندوں اور حشی جانوروں، غرض سب کو انھیں دکھاؤ تاکہ سارے عالم کو معلوم ہو جائے کہ یہ نبی سارے
عالم کے لئے ہیں۔

یہ صد تھی شش جہت میں لے کے جاؤ
جانور، انسان، ملک، سب کو دکھاؤ

حضرت آمنہ فرماتی ہیں کہ میں یہ بھی سنی کہ کوئی کہتا ہے کہ:

محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ صفات دید و جو تمام پیغمبروں کو دیئے گئے ہیں یعنے حضرت آدم علیہ السلام کے اخلاق، شیعہ علیہ السلام کو جو معرفت حاصل تھی وہ بھی حضرت کو دیدا اور نوح علیہ السلام کی شجاعت، ابراہیم علیہ السلام کو خلیل بناء کر جو خلقت دی گئی وہ بھی دیدا سماعیل علیہ السلام کی زبان عربی، الحق علیہ السلام جو راضی برضائے الہی رہتے تھے وہ بھی دیدا، صالح علیہ السلام کی فصاحت، لوط علیہ السلام کو جو حکمت دی گئی تھی وہ بھی دیدا، اور یعقوب علیہ السلام کو ایک زمانہ کے غم و رنج کے بعد یوسف علیہ السلام کے ملنے کی بشارت دی گئی تھی، ایسی بشارت بھی ان کو دیدا، موسیٰ علیہ السلام میں جو دین کی سختی تھی وہ بھی حضرت کو دیدا، ایوب علیہ السلام کا صبر اور یونس علیہ السلام کی اطاعت بھی دیدا، یوشع علیہ السلام میں جو حیاتی تھی وہ بھی، داؤد علیہ السلام کی خوش آوازی، دانیال علیہ السلام کو جو محبت الہی تھی وہ، الیاس علیہ السلام کو جو وقار حاصل تھا وہ، تھی علیہ السلام کی عصمت و عفت، عیسیٰ علیہ السلام کا زہد۔

غرض ہر ایک پیغمبر کو جو خاص خاص صفات دیئے گئے تھے وہ سب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دو، ان کو سارے خوبیوں کا جامع بناؤ۔

حسن یوسف، دم عیسیٰ، یہ بیضا داری

آنچہ خوبیں ہمہ دارند تو تنہا داری

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا شان تھی کہ یوسف کا حسن، عیسیٰ کی پھونک میں جو اثر تھا وہ اور موسیٰ علیہ السلام کا یہ بیضا یہ سب آپ میں جمع ہیں یا رسول اللہ، سارے پیغمبروں میں جو علحدہ علحدہ خوبیاں تھیں، وہ سب خوبیاں آپ میں جمع ہو گئے ہیں یا رسول اللہ۔

حضرت عبدالمطلب فرماتے ہیں کہ جس رات حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے، میں اس وقت کعبہ کے قریب تھا۔ جب آدمی رات ہوئی کیا دیکھتا ہوں کہ کعبہ جھک گیا، اور ایسا معلوم ہوتا تھا کہ گویا وہ سجدہ کر رہا ہے، اس وقت کعبہ سے یہ آواز آئی۔

اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ رَبُّ مُحَمَّدٍ مُصطفِيٍّ . الْأَنْ طَهَّرَنِي رَبِّي مِنْ أَنْجَاسِ
الْأَصْنَامِ وَأَرْجَاسِ الْمُشْرِكِينَ ،

پہلے دوبار اللہ اکبر کی آواز کعبہ شریف سے آئی، پھر کعبہ نے کہا اللہ، محمد کا رب ہے اور یہ کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہو گئے، ان کے پیدا ہونے سے اب وقت آگیا ہے کہ میرارب مجھ کو بتوں کی نجاست اور مشرکین کے نجس اعتقدات سے پاک کر دے گا۔

اس کے بعد غیب سے یہ بھی آواز آئی کہ کعبہ کے رب کی قسم اللہ تعالیٰ نے کعبہ کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا قبلہ بنانے کے لئے قبول فرمایا اور اس کو ان کے رہنے کی جگہ بھی بنایا۔

فصل - ۸

حلیہ شریف و سراپائے مبارک

اس فصل میں حضور کے سراپا کو لکھنا چاہتا ہوں لیکن حضور اقدس کے جمال مبارک کو جیسا چاہیے ویسا دکھانا بشری طاقت سے باہر ہے، نورِ جسم کی تصویر کھینچنا ہم جیسے ناقص انسانوں سے کیسے ہو سکتا ہے لیکن بالکل سراپائے مبارک کا ذکر نہ کرنا یہ بھی مناسب نہیں ہے، صحابائے کرام رضی اللہ عنہم کا ہم پر بڑا احسان ہے کہ انہوں نے حضور کے علوم و معارف جس طرح ظاہر کئے ہیں اسی طرح حضور کے جمال مبارک کو بھی اپنی طاقت کے موافق ظاہر کر دیئے ہیں تاکہ امت حضور کے سراپائے مبارک کو پیش نظر رکھے اور درود شریف پڑھتے وقت سراپائے مبارک کا تصور کر کے اپنے ما یوس دل کو تسلی دیا کرے، اس لیے اب سراپائے مبارک شروع کیا جاتا ہے۔

حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود اپنی ذات والاصفات کے اعتبار سے بھی شاندار تھے اور دوسروں کی نظروں میں بھی بڑے مرتبہ والے تھے، آپ کا چہرہ مبارک ماہ بدر کی طرح چمکتا تھا، اور آپ کے چہرہ مبارک کا نور آفتاب کی طرح تھا مگر آفتاب کے نور میں تمازت کی وجہ سے تکلیف ہوتی ہے آپ کے نور مبارک میں راحت و

آرام تھا اور آپ کا چہرہ مبارک صرف سفید ہی نہیں تھا بلکہ اس میں ملاحت ہونے کی وجہ سے بے حد حسین معلوم ہوتا تھا۔ آپ کا قد مبارک متوسط قد والے آدمی سے کسی قدر طویل تھا لیکن زیادہ لانے بنے قد والے سے پست تھا، جب کوئی لانے بنے قد والے آپ کے ساتھ چلتے تو آپ کا مجزہ تھا کہ ان لانے بنے قد والوں سے آپ کا قد دراز معلوم ہوتا تھا۔ مبارک اعتدال کے ساتھ بڑا تھا۔ بال مبارک کسی قدر بل کھائے ہوئے تھے، سر کے بال مبارک کاں کے لوٹک رہتے اور کبھی نصف گردن تک پہنچتے تھے اور کبھی اس سے تجاوز کرتے تو آخر گردن تک پہنچتے، اس سے زیادہ کبھی آگے نہیں بڑھے، آپ کا رنگ نہایت چمک دار اور پیشانی کشادہ، آپ کے ابر و خمار باریک و گنجان تھے دونوں ابر و خدا جد اتھے ایک دوسرے سے ملے ہوئے نہیں تھے، ان دونوں کے درمیان ایک رگ تھی جو غصہ کے وقت ابھر جاتی تھی، آپ کی ناک بلندی مائل تھی اور اس پر ایک چمک اور نور تھا۔ ابتداء دیکھنے والا آپ کو بڑی ناک والا سمجھتا تھا لیکن غور کرنے سے معلوم ہوتا کہ حُسن چمک کی وجہ سے بلند معلوم ہوتی ہے ورنہ فی نفسیہ زیادہ بلند نہیں ہے آپ کی داڑھی مبارک بھر پور اور گنجان بالوں کی تھی، آنکھ کی پتلی نہایت سیاہ تھی، آنکھوں میں سرخ ڈورے تھے جب آپ کی طرف نظر کرو تو یوں معلوم ہوتا تھا کہ سرمه لگا ہوا ہے حالاں کہ سرمه لوگا ہوانہ ہوتا۔ آپ جیسے سامنے سے دیکھتے تھے ویسے ہی پیچھے سے بھی نظر فرماتے تھے، رخسار مبارک ہموار تھے نہ ابھرے ہوئے تھے نہ لٹکے ہوئے تھے، آپ کا دہن مبارک اعتدال کے ساتھ کشادہ تھا، یعنے نہ شگ منہ تھا اور نہ بہت فراخ، آپ کے دندان مبارک باریک آبدار تھے اور ان میں سے سامنے کے دانتوں میں ذرا ذرا فصل بھی تھا۔ تسم کے وقت تمام درود یوار نور کے عکس سے روشن ہو جاتے تھے، آپ کلام فرماتے تو سامنے کے دانتوں کے نیچ میں سے ایک نور سما لکتا معلوم ہوتا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے کسی بشر کو آپ سے زیادہ فصح اور خوش آواز نہ پیدا کیا، سینہ سے ناف تک بالوں کی ایک لکیر تھی، آپ کی گردن مبارک خوبصورت تھی اور اس کا رنگ چاندی جیسا سفید اور صاف تھا، آپ کے سب اعضاء نہایت معتدل اور پر گوشت تھے اور بدن گٹھا ہوا تھا، پیٹ اور سینہ مبارک ہموار تھا، لیکن سینہ مبارک فراخ اور چوڑا تھا، آپ کے دونوں موٹھوں کے درمیان قدرے زیادہ فصل تھا۔ آپ کے دونوں شانوں کے درمیان مہر نبوت تھی اور یہ آپ کے خاتم النبین ہونے کی علامت تھی، جوڑوں کی ہڈیاں قوی اور بڑی تھیں جو قوت کی دلیل

ہوتی ہے۔ ناف اور سینہ مبارک کے درمیان بالوں کی ایک لکیر تھی۔ دونوں چھاتیاں اور پیٹ بالوں سے خالی تھے، البتہ دونوں بازوں اور کندھوں اور سینہ کے بالائی حصہ پر بال تھے، آپ کی کلائیاں دراز تھیں اور ہتھیلیاں فراخ، نیز ہتھیلیاں اور دونوں قدم گداز اور پُر گوشت تھے ہاتھ اور پاؤں کی انگلیاں تناسب کے ساتھ لانبی تھیں، آپ کے ٹموں، قدرے گھرے تھے اور قدم ہموار تھے، جب آپ چلتے تو قوت سے قدم اٹھاتے اور آگے کو جھک کر تشریف لے جاتے، قدم مبارک زمین پر آہستہ پڑتا اور زور سے نہیں پڑتا تھا، آپ تیز رفتار تھے اور ذرا کشادہ قدم رکھتے، چھوٹے چھوٹے قدم نہیں رکھتے تھے، جب آپ چلتے تو ایسا معلوم ہوتا کہ گویا بلندی سے پستی میں اتر رہے ہیں جب کسی طرف توجہ فرماتے تو پورے بدن سے پھر کرتوجہ فرماتے، آپ کی نظر پیچی رہتی تھی، عادتِ شریفہ شرم و حیاء کی وجہ سے زمین ہی کی طرف نگاہ رکھنے کی تھی، لیکن چوں کہ وجہ کا بھی انتظار رہتا تھا۔ اس لیے اس کے انتظار میں گاہ بگاہ آسمان کی طرف بھی ملاحظہ فرماتے تھے آپ کی عادت شریفہ عموماً گوشہ چشم سے دیکھنے کی تھی، یعنی غایت شرم و حیاء کی وجہ سے پوری آنکھ بھر کر نہیں دیکھتے تھے چلنے میں صحابہ کو آگے رکھتے تھے جس سے لئے سلام کرنے میں خود ابتداء فرماتے تھے۔

”اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَىٰ سَدِّنَا مُحَمَّدٍ وَآلِهِ قَدْرَ حُسْنِهِ وَجَمَالِهِ“

صاحب! میلاد شریف کا بیان تو آپ سن چکے، قاعدہ ہے کہ بادشاہ ہوں کی سالگرہ یعنی ان کی پیدائش کے دن قیدی چھوڑے جاتے ہیں۔

آئیے دعا کیجئے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حالاتِ مبارک کے صلہ میں ہم کو بھی دوزخ سے چھوڑ دیا جائے۔

مناجات

یا محمد عاصیوں کے مہرباں ۱) طول ہے ہم بیکسوں کی داستان عرض کرنے شرم آتی ہے مگر ۲) ہے ہمارا حال روشن آپ پر آج تک یہ بھی نہ سمجھے جہل سے ۳) کون ہیں ہم کس لیے پیدا ہوئے

زندگی فکرِ معیشت میں کئی (۱) اور جوانی ساری غفلت میں کئی
ہم سے کچھ ہوتی نہیں طاعت ادا (۲) مانگیں پھر کس منھ سے خالق سے دعا
ہر مصیبت میں یہاں والی ہیں آپ (۳) معمر کہ میں حشر کے حامی ہیں آپ
خیر دنیا کٹ گئی ہر حال سے (۴) بھولیے مت وقت آخر نزع کے
ایک دم رونق فزا ہو جائیے
مصحفِ رُخ آپ کا دکھلائیے

دیگر

چارہ سازِ بیکاں بیکس ہوں میں آرزومندِ درِ اقدس ہوں میں
رحم کرحم اے کریم بے کساں چھوڑ کر یہ آستاں جاؤں کہاں
ہوں میں پیاسا شربت دیدار کا تجھ سوا ہے کون مجھ بیمار کا
گوہدا ہوں یا بھلا جیسا ہوں میں فکر رہتی ہے مجھے یہ روز و شب
کوئی انشابادہ وحدت سے مست کوئی اشبابادہ وحدت سے مست
کوئی اپنے زہد پر نازاں چلا یاں تو میں ہوں اور دل مایوس ہے
کون پوچھے گا مجھے سرکار میں
ہاتھ خالی اس طرف جاتا ہوں میں عابدوں کے ساتھ کیونکر جاؤں میں
باق پ بیٹے کا نہ بیٹا باپ کا آسرداں ہے تو بے شک آپ کا

دشگیر! دست گیری کیجئے آبرو میری وہاں رکھ لیجئے
 سخت مشکل ہے کہ وقت جانکنی ہوتی ہے شیطان کو فکر رہنی
 کشمکش میں یاں تو اپنی جان ہے وال وہ دشمن درپئے ایمان ہے
 سخت طوفان بلا ہے نزع روح آپ اس طوفان آفت کے ہیں نوح
 ساتھ بیکس کے کوئی جاتا نہیں باب پیٹا بھائی کا م آتا نہیں
 ایسی مشکل میں خبر لیجئے مری جب تباہی میں پڑے مرا جہاز
 مشکل آسان کیجئے بندہ نواز اس گھڑی رحم آپ کا درکار ہے
 گر کرم کیجئے تو پیڑا پار ہے دم نکل جائے وہ صورت دیکھ کر
 خاتمه ہو آپ ہی کے نام پر جس دم آئیں قبر میں منکر نکیر
 دشگیری کیجئے یا دشگیر شکل ان کی دیکھ کر مضطر نہ ہوں
 وہ جمالِ دل ربا پہچان لوں دولت دیدارِ جس دم پاؤں میں
 قبر میں اٹھ کر فدا ہو جاؤں میں
 نام نامی پر ہو حسن اختتام
 خاتمه ہے نام اس کا والسلام

فصل - ۹

اس سے پہلے حضور پر نور کے تولد مبارک کا تفصیلی مضمون آچکا ہے۔ عام قاعدہ ہے کہ پیدائش کے بعد نومولود کا نام رکھا جاتا ہے، اسی طرح حضرت کے بعد آپ کا اسم گرامی محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) رکھا گیا ہے۔
 اس فصل میں اسم مقدس محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) کے فضائل اور برکات کا بیان ہے :-

يَا إِيَّاهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَكُمْ مَوْعِظَةٌ مِّنْ رَبِّكُمْ وَشِفَاءٌ لِّمَا فِي الصُّدُورِ ه

وَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ " ۵ (پ ۱۱ ع ۶ سورہ یونس)

سنوصا جبو! اس وقت آپ کو پکار رہا ہے، کون؟ کیا کہوں کون پکار رہا ہے، مجمع عام میں عزت دینے کے لیے، خلعت دینے کے لیے، سرفرازی کے لیے، کسی شخصی کو بادشاہ وقت یا کوئی مقتندر حاکم پکارے تو اس وقت اس کے دل کی حالت اسی سے پوچھئے۔

ایسا ہی اس آیت میں آپ کو کون پکار رہا ہے؟ بادشاہ نہیں، کوئی حاکم نہیں بلکہ بادشاہوں کا بادشاہ، بڑے بڑے بادشاہ جس کے سامنے سر مجھوں ہیں یعنی اللہ تعالیٰ آپ کو پکار رہا ہے جس کے آپ پر کروڑ ہا احسانات ہیں، وہ مزید احسان کرنے آپ کو پکار رہا ہے۔

یا وہ پکار رہا ہے جس کی محبت کا آپ کو دعویٰ ہے، سچ فرمائیے اگر لیلیٰ خود مجنوں کو پکار کر وصال کی تدبیر بتائے اس وقت مجنوں کی کیا حالت ہوگی۔ صاحبو! وہ مجنوں برسوں سے بس اسی کو ترس رہا تھا کہ ایک بار میری لیلیٰ مجھ کو پکارے، اس وقت مجنوں کیا کرے گا، ایک جان نہیں کروڑ ہا جان بھی ہوں تو لیلیٰ پر سے قربان کرنے دوڑے گا۔

ایسا ہی وہ خدا، وہ محبوب، جس کی ذرا سی توجہ کے لیے ہزاروں اپنا عیش و آرام کھو بیٹھے ہیں آپ سب کو پکار رہا ہے۔

غرض ایک تعلق نہیں و تعلق نہیں جس سے سینکڑوں تعلق ہیں کیا کہوں تمہارا دوست، تمہارا محبوب، تمہارا مالک، تمہارا رب، جو کچھ کہواں کو سب سزاوار ہے، وہ خدا تم کو پکار رہا ہے۔

اگلے نبیوں کو آرزو تھی کہ وہ دن آئے کہ اللہ تعالیٰ ہم کو ایک بار پکارے۔ صاحبو! ایک ہم خوش تقدیر ہیں ”صدقة ہے حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ ”گھڑی گھڑی اللہ تعالیٰ ہم کو پکار رہا ہے۔

اکثر ”قل“ کے واسطے سے (یعنی حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے توسط سے) یہاں بے واسطہ بے پردہ پکار رہا ہے وہ بھی کس انداز سے ”يَا إِيَّاهَا النَّاسُ“ جس کے معنے ہیں لوگو سنو، مگر اس میں لطف یہ ہے کہ ناس بنایا گیا ہے انس سے۔ تو گویا یوں پکار رہے ہیں او انسان! سچ بتا تجوہ کو پہلے کس سے انسیت تھی کیا یہی تیری

روش تھی، یوں ہی کہتا تھا میرے بچے، میرا اگھر، میرے روپیے، میرا پیسہ یا تو تھا اور ہم تھے، ہم ہی سے تجھ کو محبت تھی، ہم ہی سے تجھ کو علاقہ تھا یا اب تیری یہ حالت ہے کہ ہماری طرف رخ تک نہیں کرتا۔ اگر کبھی بھولا بھٹکا آگیا تو دشت اور پریشانی سے نکل بھاگتا ہے، کیا تو اپنی پہلی حالت کو بھول گیا۔

توئی آل دستِ پور مرغ گستاخ
کہ بودت آشیاں بیروں ازیں کاخ
چرازاں آشیاں بے گانہ گشتی
کیا ہوا تجھ کو تو اپنے اصلی مقام کو کیوں بھولا،
چودوناں چخد ایں ویرانہ گشتی
تو وہ ہاتھوں سے پلا ہوا گستاخ پرندہ ہے

اب معنی "یَايَهَا النَّاسُ" کے یہ ہوئے ارے وہ میرے منس !

یا انسان نیان سے بنایا گیا ہے "یَايَهَا النَّاسُ" ارے وہ بھولے ہوئے انسان کچھ یاد بھی ہے کہ تو کیا تھا" وَكُنْتُ نَسِيَّا مَنْسِيَّا (پ ۲۶ ع ۲ سورہ مریم) کچھ بھی نہیں تھا۔ "وَلَمْ يَكُنْ شَيْءاً مَذْكُورًا (پ ۲۹ ع ۱ سورہ الدھر) نہ تو موجود تھا اور نہ تیرا کچھ چرچا تھا اور وہ کو "کن" سے اور تیرے کو میں اپنے ہاتھ سے بیدا کیا، تیرے کیچڑ کا میں خود خمیر کیا پھر تجھ کو نطفہ بنایا تاکہ تو اپنی اصلیت کو نہ بھولے، پھر خون کا ذله بنایا، پھر مضغہ گوشت ہوا پھر ہڈی بنی، پھر ان پر گوشت چڑھایا، پھر رگوں اور پھٹوں کو حسب ضرورت جوڑا پھر اس پر چڑامڑ کر ماں کے پیٹ میں جنین بنایا۔ پھر اس میں روح پھونکا، پھر اچھا خاصہ انسان بننا کر دنیا میں لایا، لڑکپن رہا، جوان ہوئے، پھر ادھیر، پھر بوڑھا۔

ہر حالت میں ہمارے بے گنتی احسانات تجھ پر ہوتے رہے، ہمارے ہی نعمت میں تو چھوٹے سے بڑا ہوا، تو بے کچھ تھا تجھ کو سمجھ دیئے تو نا توان تھا تجھ کو قوت دیا، تو ذلیل تھا تجھ کو عزت دیا، کیا کیا دیا، ہائے سب کچھ بھول گیا۔ جب ہوش سن بھالا تو تو کس کا بندہ بنا، جور و کا بندہ، روپیہ کا بندہ، کپڑے کا بندہ، ارے او بختی مارے انسان، کھاتا کس کا ا درگا تا کس کا۔ ہمارا کھانا، نفس اور شیطان کی عبادت کرنا، کیا اچھا انصاف ہے، سب کی خدمت کرنا

تجھ کو آسان ہے، ایک مشکل ہے تو ہماری ہی خدمت۔ کیوں بندے؟ کیا ہمارا تجھ پر کوئی حق نہیں، کب تک تو ہم کو بھولا رہے گا۔ بہت دور نہیں قریب میں ایک دن وہ آتا ہے کہ تو قبر کے کونہ میں پڑا ہماری عبادت کو ترے گا مگر نہ سکے گی۔

حکایت :-

چند بچے کھیل رہے تھے

سر برہنہ وقت بازی طفل خرد
دزد ازنگہ قبا و کفش برد

ہماری مثال اس بچہ کے جیسی ہے جو کرتا اور ٹوپی اُتار کر ایک جگہ رکھ دیا اور کھیل میں محو ہو گیا، چور کو موقع مل گیا، کوئی ٹوپی لے گیا اور کوئی گرتا۔

شام ہو رہی ہے گھر جانے کا وقت آگیا۔
کھیل ختم ہو گیا بچہ رورہا ہے کیا منھ لیکر۔
گھر جاؤں، باپ کو کیا کہوں، ہائے ہم بھی لذت
خی و خیالی میں ایسا لگ گئے کہ لذت
قلبی کو بھی بھولے، دُنیا کے سفر کا مقصد بھی
بھولے، زندگی کی شام ہو رہی ہے اپنے وطن
آخرت کو جانے کا وقت آگیا ڈر ہو رہا ہے کہ
کیا منھ لے کر خدا کے سامنے جائیں اور
اس سے کیا عرض کریں۔

آنچنان گرم او بازی در افتاد
کاں کلاہ و پیر، هن نقش زیاد
شب شد و بازی او شد بے مدد
رو ندارد کہ سوئے خانہ رود
نے شنیدی ائمما اللہ تینا لعب“
یاد دادی رفت و دشی مرتع

پیش از انکہ شب شود خانہ بجو
روز را ضائع مکن در گفتگو

ارے وہ غافل انسان! ارے وہ ہم کو بھولے ہوئے انسان، ارے وہ ہم سے منھ موڑے ہوئے انسان!

گو تو ہمارا نہیں، مگر ہم تیرے ہیں اس لیے اگر تو تم جو ہے تو ذرمت، تیرے پاس سراپا نصیحت بھیجتے ہیں اگر تو گمراہ ہے تو تیرے پاس چراغ ہدایت آتے ہیں اگر تیرا دل بیمار ہے تو تیرے پاس شفاء قلوب اور آب حیات بھیجتے ہیں اگر تو گنہگار ہے تو گھبرا ملت، تیرے پاس مجسم رحمت آتے ہیں، وہ آتا ہے جو پھر بے بندوں کو خدا سے ملانے والا، بھولوں کو راہ بتانے والا ہے سب سے پہلے اپنی امت کے لیے جنت کا دروازہ کھلوانے والا ہے، عمر بھر مخلوق کی ہدایت میں مختین اٹھانے والا، آسان عمل بتا کر جنت کو ستا کرنے والا، وفات کے وقت بھی امت کو نہ بھولنے والا پیغمبر بھیجتے ہیں، وہ تم کو تمہارا پچھلا زمانہ یاد دلائے گا۔ تم کو تمہارے بھول کا علاج بتائے گا۔

پہلی انست و محبت کا سبق یاد دلائے گا۔

جن کا نام مبارک مُحَمَّد (صلی اللہ علیہ وسلم) ہے۔

یہ جن کا نام مبارک ہے ان کی شان کیا کہوں، نام ہی سے اندازہ کر لو کہ کیسا پیارا نام ہے، آپ کی پیدائش کے ساتویں دن آپ کے داد آپ کا نام محمد رکھے، لوگوں نے پوچھا آپ کی قوم میں کسی کا نام آج تک محمد نہیں تھا نہ آپ کے آبا و اجداد میں کسی کا یہ نام تھا۔

حضرت عبدالملک نے فرمایا مجھے امید ہے کہ خدا اس بچہ کو ایسا بنائے گا کہ آسمانوں میں اسی کی تعریف اور زمین میں اسی کی توصیف ہوگی۔

خداۓ تعالیٰ نے ان کی امید پوری کیا، خدا کے پاس انہی کی تعریف ہو رہی ہے، مقرب فرشتوں کے زبان پر اور کل پیغمبروں کے پاس اور زمین والوں کے پاس آپ ہی کی تعریف ہو رہی ہے۔

خداۓ تعالیٰ نے اپنے نام کے جتنے حروف رکھا ہے اتنے ہی حروف محمد کے ہیں یعنی ”اللہ“ اور ”محمد“ میں چار چار حروف ہیں۔

”لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ“ میں بارہ حروف ہیں تو

”مُحَمَّدَ رَسُولُ اللَّهِ“ میں بھی بارہ

مولانا جامی فرماتے ہیں :

محمد چوں بہ لا نہایہ زق
یافت شد نام او ازاں مشتق

جب اللہ تعالیٰ آپ کی حمد یعنی تعریف بے انہا ایک ہے، اس لیے آپ کا نام مبارک محمد حمد سے بنتا ہے۔
می نماید پچھم عقل سلیم
حرف حالیش عیاں میان دو میم
عقل سلیم کو ایسا دکھائی دیتا ہے کہ آپ کے نام مبارک کا "ح" درمیان میں دو میم کے (اور میم عربی خط
میں مثل حلقہ کے ہوتا ہے)۔

چو حارخ حور کز کنارہ او
گشت پیدا دو گوشوارہ او
"خ" ایک حور ہے جس کے چہرہ کا کنارہ دو میم کے دو گوشاروں کے بیچ میں ہے۔
یا دو حلقہ زغمبریں مویش
آشکار از جانب رویش
یا ایسا معلوم ہوتا ہے کہ دو میم کیا ہیں، دوزلف کے حلقہ ہیں۔

DAL آں کز ہمہ فرو نشت
دل بہ نا زش گرفتہ بر سر دست

جس کے درمیان سے چہرہ حور ظاہر ہو رہا ہے۔ آپ کے نام مبارک میں دال جو نام کے آخر میں ہے اس
کے حسن کو دیکھ کر دل کو دست یعنی ہاتھوں سے پکڑنا پڑتا ہے۔
اس نام مبارک کے کیا کیا برکات بتاؤں۔

- (۱) برکت کے واسطے اگر کوئی شخص اپنے بچہ کا نام "محمد" رکھا تو وہ شخص اور اس کا بچہ جنت میں جائے گا۔
- (۲) اگر کوئی شخص ابتدائی حمل میں نیت کرے کہ میں نو مولود بچہ کا نام "محمد" رکھوں گا تو لڑکا ہی پیدا ہو گا۔

- (۲) جس کا بچہ نہ جیتا ہو، نذر کرے کہ اگر لڑکا پیدا ہوگا تو میں اس کا نام "محمد" رکھوں گا وہ بچہ زندہ رہے گا۔
- (۳) "محمد" نام والا اگر دستِ خوان پر بیٹھے، دستِ خوان کے کھانے میں برکت ہوگی۔
- (۴) "محمد" نام والے سے کسی کام میں مشورہ لیا جائے گا تو اس کام کا انجام بہتر ہوگا۔

نکایت :-

ایاز کا ایک لڑکا تھا وہ سلطان محمود کی خدمت میں رہتا تھا۔ ایک روز سلطان پا خانہ کو جارہا تھا کہا پسرا یاز کو کبوطہ بارت خانہ میں پانی رکھے، یہ بات سن کر ایاز سونپنے لگا کہ میرے بچے سے کیا قصور ہوا ہوگا کہ بادشاہ نے اس کا نام نہیں لیا۔ سلطان جب وضو کر کے باہر آیا۔ آیاز کو دیکھا کہ متفلکر ہے، سلطان نے آیاز سے فکر کا سبب پوچھا، بازنے عرض کیا کہ حضور بندہ زادہ کا نام نہیں لیے تو مجھ کو خوف ہو رہا ہے کہ شاید کوئی بے ادبی اس سے ہوئی ہے، فتحی سے اس کا نام نہیں لیا گیا ہے، سلطان مسکرا یا اور کہا آیاز فکر مت کرو، تمہارے بچے سے کوئی قصور نہیں ہوا ہے، بت یہ ہے کہ میں بے وضوء تھا۔ تمہارے بچہ کا نام "محمد" ہے، مجھے شرم آئی کہ "محمد" کا نام بے وضوء نہیں سے نکالوں۔

ہزار بار بشویم دہن زمشک و گلاب

ہنوز نام تو بردن ادب نمی دانم

اگر مشک و گلاب سے ہزار بار منہ کو دھوؤں، پھر بھی
آپ کا نام مبارک محمد لینا ادب کے خلاف سمجھتا ہوں۔

صاحب!

چوں نام ایسٹ نام آور چہ باشد

صاحب! سونچو نام کی یہ فضیلت اور شان ہے تو نام والے کا کیا مرتبہ اور کیا شان ہوگی۔

از نسل آدمی تو ولے بہ زآدمی
 شک نیست اندریں کہ بودُویہ از صدف
 یار رسول اللہ! آپ انسان کی نسل سے پیدا ہوئے ہیں مگر ان سے بہتر ہیں، یہ آپ کا انسان سے بہتر ہوا
 تعجب کی بات نہیں ہے، دیکھو موتی پیپی میں ہوتا ہے مگر پیپی سے افضل ہوتا ہے۔
 سلطانِ انبیاء کہ بد رگاہ کبریا
 چوں او نیافت یچ کے عزت و شرف
 سب پیغمبروں کے باادشاہ اللہ تعالیٰ کے پاس آپ کے جیسا کسی کو ایسا عزت و شرف نہ ملا۔
 تم غفلت میں تھے تمہارے پاس ”قدْ جَاءَكُمْ مَوْعِظَةً“ مِنْ رَبِّکُمْ ”
 (پ ۱۱۴ سورہ یونس) غفلت دور کرنے والا آگیا۔

سب سے اول محبت خدا ہی کے ذات میں تھی، البتہ اس کی شعاعیں مخلوقات میں ظاہر ہوئیں، اپنی اپنی
 قابلیت کے موافق ہر ایک نے اس شعاع سے حصہ لیا۔ معدنیات میں اسی کی چمک ہے، نباتات میں اسی کی جھلک
 حیوانات بھی اس سے محروم نہیں مگر حضرت انسان نے تو کچھ پرده ہی نہ رکھا، مگر انسان میں محبت سے خالی بہت
 سے لوگ تھے، اس لیے اکثر وہ میں کدو رت پیدا ہو گئی۔

حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آکر صاف بتایا کہ فانی محبوب کا عشق بھی فانی، محبوب بھی فانی، عاشق بھی
 فانی، باقی محبوب سے محبت جوڑو، محبت باقی عاشق بھی باقی۔

حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سورہ ہے تھے دو فرشتے آئے ایک نے کہا ان پر مثال بیان کرو، دوسرے نے کہا یہ
 سورہ ہے ہیں، پہلے نے کہا آنکھ سورہ ہی ہے دل ہوشیار ہے، اس نے یہ مثال بیان کی کہ ایک شخص نے گھر بنایا،
 دستِ خوان بچھایا، بلانے والے کو بھیجا، جو بھی بلانے والے کی بات سن گھر میں آیا اور نعمتیں کھایا، اور جس نے بلانے
 والے کی بات نہ سنبھالی نہ آیا نہ کھایا۔ ان میں سے ایک نے کہا اس کی تشریع بھی کر دو، دوسرے نے کہا، گھر جنت ہے،
 گھر والا اللہ تعالیٰ ہے بلانے والے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں جو آپ کی بات سن جنت میں گیا جو نہ سن محروم رہا۔

”وَشِفَاءٌ لِّمَا فِي الصُّدُورِ“ (پ ۱۱ ع ۶ سورہ یونس)

(وہ تمہار پاس آگیا جو بیمار دلوں کی شفا ہے)

صاحب! عمر گذشتہ پر افسوس نہ ہونا، بُرے اعمال پر ندامت نہ ہونا، یہ علامت ہے دل کے بیمار ہونے کی، اٹھو جلدی علاج کرو، دل کا مفعع آچکا، پانچ جز کا نسخہ بتایا ہے اس کولو، اور تند رست ہو جاؤ۔ وہ نسخہ یہ ہے:-

- (۱) قرآن شریف کو تدبیر سے پڑھنا۔
- (۲) رمضان شریف کے روزوں کے علاوہ باقی دنوں میں روزے رکھنا۔
- (۳) تجدید پڑھنا۔
- (۴) سحر کے وقت گردگڑا کر رونا۔
- (۵) صالحین کی صحبت میں رہنا۔

دیکھنے کیسے کیسے بیمار اس طبیب کے ہاتھ پر شفایاب ہو گئے ہیں۔

حدیث :-

ایک نوجوان نے عرض کیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم مجھے زنا کی اجازت دیجئے۔ آج کل کسی مولوی یا مشائخ سے کہئے تو کیا حال ہوتا ہے۔ کچھ ٹھکانا ہے، حضور کے تحمل کا، اس کو پاس بٹھا کر فرمائے، تیری ماں سے اگر کوئی زنا کرے تو کیا تو راضی ہوگا، اس نوجوان نے عرض کیا میں ہرگز راضی نہ ہوں گا بہت بُرا معلوم ہوگا۔ حضور ارشاد فرمائے تو جس سے زنا کرے گا وہ کسی کی ماں، بہن جو رو ہوگی جس سے تو زنا کرے گا، کیا اس کے رشتہ دار پسند کریں گے، تیرے جیسا ان رشتہ داروں کو بُرا معلوم ہوگا۔ اس کے بعد فوراً نوجوان کے دل کو شفا ہو گئی، ہمیشہ کے لیے تائب ہو گیا۔

حدیث :-

حضرت حظله رضی اللہ عنہ کی شادی ہوئی، رات دہن کے پاس رہے، صبح کو ندا ہوئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جہاد کو چلو۔ ہائے کیا دل تند رست ہو گئے تھے، غسل کی ضرورت بھی یاد نہ رہی، جہاد میں شریک

ہو گئے، خوب لڑ کر شہید ہو گئے۔ جب تمام شہیدوں کے لفظ جمع کے گئے دھفلہ رضی اللہ عنہ کی لفظ ندارد ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم آسمان کی طرف دیکھے قدرت کا تماشہ نظر آیا۔ چاندی کے تختہ پر فرشتے دھفلہ کو لٹا کر نہ لارہے ہیں، حیران تھے، اور دوسرے شہیدوں کے ساتھ ایسا نہیں کیا گیا۔ حضرت دھفلہ کے ساتھ ایسا معاملہ کیوں ہو رہا ہے، ان کی بیوی سے راز کھلا، کیا دلوں کا روگ گیا تھا اور شفا یا ب ہو گئے تھے کہ غسل دینے فرشتے آرہے ہیں۔

اگر راہ بھٹکے ہوئے ہوں تو وہ دنی را دکھانے والا آگیا، جن کو دوسرا جگہ اللہ تعالیٰ نے "سِرَاجَ مُنِيرًا" فرمایا آپ ایسے روشن چراغ ہیں کہ نفوس کے عیب کھل رہے ہیں، مگر اسی کی تاریکی دور ہو رہی ہے اندھیرے میں کچھ نہ سمجھتا تھا، اب ہر چیز اپنی اصلی حالت پر دکھائی دے رہی ہے۔

گھر کی کھوئی چیزیں چراغ سے دکھائی دیتے ہیں، اس چراغ سے خدا نے تعالیٰ کا پتہ لگتا ہے، پھرے ہوئے خدا سے مل رہے ہیں، جس طرح چراغ سے گھر والے کو راحت اور امن، چور کو خجالت حاصل ہوتی ہے، ایسا ہی حضور جو چراغ ہیں ان سے دل والوں کو دل کی سلامتی، نفس اور شیطان کو ندامت ہو رہی ہے، جیسے چراغ سے سینکڑوں چراغ منور ہو رہے ہیں، ایسا ہی اس چراغ سے سینکڑوں علماء اور اولیاء اللہ رoshn ہو کر دلوں کو منور کر رہے ہیں۔

اگر گنہگار ہو تو گہرا امت "وَرَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ" سراپا رحمت آگئے۔ حضرت رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقہ سے آپ کی امت پر سے سخت اٹھائی گئی اور اجر زیادہ کیا گیا۔

(۱) وہ سخت سنت عذاب مل گئے جو اگلی امتوں پر آتے تھے، بندر، سور بنتے تھے، زمین الٹ دی جاتی تھی، پھر برستے تھے، اب وہ نہ رہا۔

(۲) ایک نیکی کا ثواب دس نیکوں کے برابر تو ضرور بلکہ ایک نیکی کا ثواب سات سونیکیوں کے ثواب کے برابر ملتا ہے۔

(۳) سخت احکام جو اگلی امتوں پر تھے جیسے توبہ کے لئے جان دے دینا تو توبہ قبول ہوتی تھی، طہارت کے لیے بجائے کپڑا دھونے کے کپڑے کا وہ حصہ جس کو نجاست لگی ہے کتر دینا اب اٹھائے گئے۔

ہم کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ولی محبت نہیں ہے، جیسی محبت حضرت کو ہم سے ہے، معرفت سے محبت پیدا ہوتی ہے، حضور کو ہم نہیں سمجھے مگر ہم کو حضور سمجھ لیے ہیں۔

باب پنجم

نورِ محمدی صلی اللہ علیہ وسلم مراحل و مدارج طے کرتے ہوئے قابل انسانی میں جاگزیں ہو کر اس دنیا میں تشریف آوری کی پوری تفصیل گذرچکی۔ اس باب میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جس عظمت و شان کے ساتھ بھیجا گیا ہے اس کے مقصد کو بیان کیا جاتا ہے۔ حضرت کے تشریف آوری کی غرض و غایت حضور کی رسالت ہے، نفسِ رسالت کے دو اجزاء ہیں، ایک رسول، دوسرے منشاء رسالت، اب اس باب میں اولاً حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے رسول ہونے کو ثابت کیا جاتا ہے۔ اس کے بعد حضور سے منشاء رسالت کا کامل طور پر پورا ہونے کے تفصیلات بیان کئے جاتے ہیں۔

فصل - ۱

مالداروں کو پیغمبر نہ بنانے کی وجہات میں
نبی اور ولی ہونا ایسی دولت ہے کہ عوام کو نظر نہیں آتی
پہلا شب تو یہ ہوتا ہے کہ ہمارے جیسا آدمی نبی کیسی

ہمسری با انبیاء برداشتند پیغمبروں کے ساتھ ہمسری کا دعویٰ کرتے ہیں۔
اولیاء را ہچھو خود پنداشتند اولیاء کو اپنا جیسا خیال کرتے ہیں۔
گفت ایک ماشر ایشان بشر کہتے ہیں وہ بھی آدمی، ہم بھی آدمی
ما و ایشان بستہ خوابیم و خور وہ بھی کھاتے سوتے اور ہم بھی کھاتے سوتے ہیں۔

اس لئے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے۔

أَكَانَ لِلنَّاسِ عَجَبًا أَنْ أَوْحَيْنَا إِلَى رَجُلٍ مِّنْهُمْ كِيالوگوں کو اس بات سے تعجب ہوا کہ ہم نے ان ہی میں آنُزِرِ النَّاسَ وَبَشَّرَ الَّذِينَ آمَنُوا آنَّ لَهُمْ قَدَمَ سے ایک شخص کے پاس وہی بھیج دی کہ سب آدمیوں کو صدقِ عنَدِ رَبِّهِمْ (پ ۱۱ ع ۱ سورہ یونس) ڈرانے اور جو ایمان لے آئے ان کو یہ خوشخبری سنائے کہ ان کے پروڈگار کے پاس ان کا سچا درجہ ہے۔

آدمی کو پیغمبر بنانے کا تعجب ہو رہا ہے۔ پھر وہ اور لوہے اور پیتل کے بتوں کو جو خدا بنا رہے ہیں اس کا کچھ تعجب نہیں۔

لَوْلَا نُرِّلَ هَذَا الْقُرْآنُ عَلَى رَجُلٍ مِّنَ الْقَرِيَّتِينَ عَظِيمٌ (پ ۲۵ ع ۳ سورہ الزخرف)
اگر آدمی پر اتنا رنا تھا تو مکہ یا طائف کے کسی بڑے آدمی و دولت مند پر کیوں نازل نہ ہوا، ایک یتیم پر کیوں نازل ہوا، جس کے پاس نہ دولت ہے نہ مال اگر ہے تو محتجی کی دولت ہے۔

حضور کے حالات کی تفصیل :-

حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو طالب کے پاس رہتے تھے، خود حضرت ابو طالب کو پیٹ بھرنہ ملتا تھا انہوں نے کئی مرتبہ تجربہ کیا کہ حضرت کے ساتھ سب گھر کے لوگ کھاتے تو سب کا پیٹ بھر جاتا اگر اکیلے کھاتے تو سب بھوکے رہتے۔ اس لئے حضرت ابو طالب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو ساتھ لے کر کھاتے، اگر آپ نہ رہتے تو آپ کو ڈھونڈ لاتے تاکہ آپ کی برکت سے سب کا پیٹ بھرے۔

ہاں البتہ حسب ونسب میں سب سے اعلیٰ درجہ کے تھے، گوہ کہ حسب ونسب کو نبوت میں دخل نہیں، مگر صاحب حسب ونسب کے اتباع میں کسی کو عار نہیں آتی۔ حضرت میں اتنی بات تو تھی باقی کوئی اور دنیوی فراغت نہ تھی، اس لئے روساء مکہ کہتے تھے کہ کسی رئیس پر قرآن کیوں نازل نہ ہوا۔
اسلئے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے۔

أَكَانَ لِلنَّاسِ عَجَبًا أَنْ أَوْحَيْنَا إِلَى رَجُلٍ مِّنْهُمْ آنُّ أَنْزِرِ النَّاسَ وَبَشَّرَ الَّذِينَ آمَنُوا

آن لَهُمْ قَدَمَ صِدْقٍ عِنْدَ رَبِّهِمْ (پ ۱۱ ع ۱ سورہ یونس)

کیا لوگوں کو اس بات سے تعجب ہوا کہ ہم نے ان ہی میں سے ایک شخص کے پاس وہی بھیج دی کہ سب آدمیوں کو ڈرانے اور جوایمان لے آئے ان کو یہ خوشخبری سنائیے کہ ان کے پروردگار کے پاس ان کا سچا درجہ ہے۔ ان میں سے ایک ایسے شخص پر جو دولت مند نہیں ہے ہم قرآن اتارے ہیں اس سے تعجب ہو رہا ہے۔ ارے ناشکرے انسان! خوب تو ہماری نعمت کی قدر کیا خوب ہماری عنایت کا شکر یہ ادا کیا، یہ ہماری شفقت ہے کہ ہم ہمیشہ دولت مند کو نبی نہیں بناتے، اگر نبی ہمیشہ صاحب سلطنت اور صاحب مال ہوا کرتے تو ان کا اتباع سلطنت اور مال کی وجہ سے ہوتا ہے اس سے حق کا ظہور نہ ہوتا اور اسلام کا دین ہونا ثابت نہ ہوتا۔

باوجود یہ کہ حضور نہ صاحب سلطنت و حکومت تھے نہ پڑھے لکھے تھے اور نہ کوئی کمال عرفی رکھتے تھے، پھر فتح بڑے بڑے سلاطین بڑے بڑے اہل کمال کی آپ کے سامنے گرد نہیں جھک گئیں، یہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نبی برحق ہونے کی دلیل ہے۔

جس طرح کعبہ شریف اللہ کا گھر ہونے کی یہ دلیل ہے کہ خانہ کعبہ اگر واadi "غَيْرَ ذِي زَرْعٍ" (ایسا جنگل جس میں کھیتی نہیں ہوتی) میں نہ ہوتا اور کسی شاداب اور تروتازہ مقام پر ہوتا تو اس کی حقانیت ایسی ظاہر نہ ہوتی، یہی وسوسہ ہوتا کہ ظاہری شادابی کے سبب لوگ وہاں جا رہے ہیں، بخلاف اس وقت کے کہ سنگستان خشک میں کعبہ ہے، پھر اس کی طرف مخلوق مشقتیں اٹھا اٹھا کر جاتی ہے جو ایک مرتبہ وہاں ہو آیا، اس کو پھر جانے کی ہو سے ہے، یہ کیا بات ہے، یہ کھلی ہوئی دلیل ہے کہ اس میں ایک غیبی کشش ہے۔

غرض کہ جس شخص میں حقانیت ہوتی ہے وہ ظاہری بناؤ سنگھار سے مستغنی ہوتا ہے اور جس میں حقیقی رونق ہے اس کو ظاہری رونق کی ضرورت نہیں۔

جب حقانیت کی دولت آتی ہے دنیا سے نفرت ہو جاتی ہے حقانیت والوں کے پاس پہلے سے کیا مال و متعہ ہوتا کہ کوئی اس کی لائچ میں آتا، ان کے پاس کی یہ کیفیت تھی کہ جو اہل مال بھی وہاں آیا وہ مال سے تنفر ہو گیا، مال بے چارہ کیا اسلام کو کھینچتا بلکہ اسلام خود مال کو کھینچ کر نکال ڈالتا تھا۔

حکایت :-

ایک یہودی کا کچھ قرض حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر تھا، ایک روز وہ آکر مانگنے لگا اور کہا کہ آج تو میں بغیر لیے آپ کو کہیں جانے نہ دوں گا۔ بعض صحابہ برہم ہوئے، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے خاموش رہو، صاحب حق کو کہنے کا حق ہے، حضرت گھرنہ گئے، رات بھر مسجد میں ہی رہے، جب صبح ہوئی وہ یہودی سامنے آکر بینٹھ گیا اور کہا :-

”أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّداً رَسُولُ اللَّهِ“

اس کے بعد کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے آپ کا امتحان کیا تھا اس لیے کہ میں نے کتب سماوی میں دیکھا ہے کہ نبی آخر الزمان کی علامت یہ ہے کہ وہ بُراً کا بدلہ بھلانی سے دیں گے، اب میں مسلمان ہوتا ہوں، مسلمان ہوتے ہی اس کو مال و دولت سے ایسی نفرت ہو گئی کہ اپنا کل مال اللہ کی راہ میں دے دیا۔

اے اللہ آپ کو جو پہچانا پھر کسی چیز کی اس کے پاس
قدرنہیں، جان کیا چیز ہے۔

فرزند ہوں، کوئی عزیز قرابت دار ہو اور خاندان ہو
سب کی کچھ ہستی باقی نہیں رہتی۔

خوش رہ اے عشق تو رہے تو پھر کسی چیز کی ضرورت
نہیں، بہترین سرمایہ ہے تو۔

اے عشق تو طبیب ہے سارے بیماریوں کا تو علاج
کرتا ہے۔

ہمارے تکبر اور غرور کی اے عشق تو بہترین دوا ہے۔

اے عشق تو ہمارا افلاطون اور جالینوس ہے۔

جس کسی کو عشق کا لباس پہنایا جاتا ہے۔

وہ حرص سے اور تمام عیبوں سے پاک ہو جاتا ہے۔

آں را کہ ترا شاخت جاں را چہ کند
فرزند و عزیز خاں و ماں را چہ کند

شاد باش اے عشق حوش سودائے ما
وی طبیب جملہ علت ہائے ما

اے دوائے نخوت و ناموس ما

اے افلاطون و جالینوس ما

ہر کرا جامد ز عشقے چاک شد

اویز حرص و عیب کلی پاک شد

الغرض وہاں تو یہ تھا کہ مال و دولت حاصل کرنے کیلئے مسلمان نہیں ہوتے تھے بلکہ مسلمان ہو کر اپنے گھر میں جو کچھ ہے وہ سب اللہ کی راہ میں دے دیتے تھے۔

دکایت:-

حضرت ابو طلحہ رضی اللہ عنہ ایک باغ بڑے شوق سے لگائے تھے نماز میں ایک مرتبہ اس باغ کا خیال آگیا، حضور میں عرض کئے یا رسول اللہ میرا باغ میرے لئے فتنہ ہو گیا ہے، اس لئے میں اس باغ کو فقراء کے لئے وقف کرتا ہوں۔

حضرت غوث پاک قدس سرہ کی خدمت میں سجنگ پادشاہ ملک نیم روز نے عریضہ لکھا کہ حضور کی خانقاہ کے لئے دو چار گاؤں وقف کرتا ہوں۔

حضرت نے جواب میں تحریر فرمایا۔

سنجرا چتر جیسے سیاہ ہے ایسا میرا نصیبہ بھی سیاہ اور بدجنت ہوئے۔ اگر میرے دل میں سنجرا کے ملک کی کچھ ہوس ہو تو اس لئے میں سنجرا کا سارا ملک اگر مجھے مل جائے تو پسند نہیں کرتا ہوں دو چار گاؤں لیکر کیا کروں۔

جب سے کہ مجھے نیم شب کی بیداری میں جو مزہ ملتا ہے۔ اس کے مقابلہ میں ملک نیم روز کی ایک جو کے برابر قدر نہیں کرتا ہوں۔

چوں چتر سنجرا رخ نختم سیاہ باد در دل اگر بود ہوں ملک سنجرا

زانگہ کہ یافتمن خبر از ملک نیم شب من ملک نیم روز بیک جونی خرم

یہ ہے وہ دولت جوان حضرات کے پاس تھی اس کے مقابلہ میں دولت دنیا کی کوئی چیز ہے؟

حضور صلی اللہ علیہ وسلم مثل پیڑی ہیں، حضرت غوث پاک مثل ڈالی، اب حضرت غوث پاک کے مذکورہ واقعہ

پنور کیجئے۔

جو چیزیں پیڑ میں نہ ہوں وہ ڈالیوں میں کھاں سے آئے۔ اگر دولت مند پیغمبر بنائے جاتے تو حضرت پیران پیر جیسے پھول کیے کھلتے۔ اس لئے پیغمبر دولت مند نہیں بنایا گیا۔

فصل - ۳

دولتمند کو پیغمبر نہ بنائے جانے کے دلائل میں

آدمی کیوں پیغمبر ہوا، اگر ہونا بھی تھا تو کوئی دولتمند ہونا تھا۔ اس کے دو جواب۔ ایک حکیمانہ جس کا بیان پہلی فصل میں ہو چکا ہے دوسرا حکیمانہ جواب، وہ اب بیان کیا جاتا ہے۔

خداۓ تعالیٰ اپنی قدر تکالمہ سے ہر چیز میں ایک خاص طرح کا اثر پیدا کیا ہے۔ آگ میں روشن کرنا اور جلانا، پانی میں سرد کرنا اور بجھانا، ہوا میں خشک کرنا اور اڑانا، خاک میں پستی کی طرف گرنا اور کثیف ہونا۔ اس کے خلاف کبھی نہیں ہوتا۔ آگ کبھی سرد نہ کرے گی اور نہیں بجھائے گی۔ پانی روشن نہیں کرے گا اور نہیں جلانے گا۔

ان عناصر سے جو مرکب ہے ان کا بھی علحدہ علحدہ اثر ہے۔ سانپ کا منہ زہر کے لئے، زہر موت کے لئے سانپ کا منہ زہر مہرہ کے لئے، زہر مہرہ شفا کے لئے، ختن کی زمین ہرن کے لئے اور ہرن نافہ کے لئے اور نافہ مشک کے لئے۔ بد خشائی کے پہاڑ لعل کے لئے، چمن کی کالی زمین گلاب کے لئے، سمندر میں سیپ موتوں کے لئے مقناطیس کی کشش آہن (لوہے) کے لیے چراغ، ستارہ، چاند، سورج، روشنی کے لیے انسان میں دماغ عقل کے لیے، کائن سننے کے لیے، آنکھ دیکھنے کے لیے، ہاتھ پکڑنے اور نوالہ اٹھانے کے لیے، پیر چلنے کے لئے۔ ہر چیز میں جو اثر دیا گیا ہے وہ اثر اسی چیز میں تلاش کرنا چاہیے، ایک چیز کا اثر دوسری چیز میں تلاش کرنا عقل کے خلاف ہے۔

کسی کو یہ سوال کرنے کا حق نہیں کہ مقناطیس میں یہ کشش کیوں پیدا ہوئی، سونے، چاندی، میں کیوں نہ

ہوئی۔ مشکل ہرن کے پیشاب کی جگہ سے نزدیک کیوں پیدا ہوا، ہرن کے سر میں کیوں نہ ہوا، لعل سخت پھر میں کیوں، موتی سیپ میں کیوں، گلاب کے جھاڑ میں کانٹے کیوں۔

"لَا يُسْأَلُ عَمَّا يَفْعَلُ" (پ ۱۷ ع ۲ سورہ الانبیاء)

اللہ تعالیٰ کے کام میں ہم کو پوچھنے کا کوئی حق نہیں، جس طرح تمام چیزوں کے خواص خدائے تعالیٰ کے خواہ پر موقوف ہیں، ایسا انسان کے اخلاق اور صفاتِ خدائے تعالیٰ کی مرضی پر موقوف ہیں، کسی کی یہ مجال نہیں جو اس سے یہ پوچھئے فلاں شخص کو یہ خوبیاں کیوں دی گئیں، فلاں کو کیوں نہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو حسن کیوں دیا، ان کے بھائیوں کو کیوں نہ دیا۔ حضرت عمرؓ کی جوشان تھی وہ ابو جہل کو کیوں نہ دیا۔ سورج کو یہ روشنی دیا، کالی زمین کو کیوں نہ دیا۔ لعل وزمرد کو جو چمک دیا وہ پہاڑی پھروں کو کیوں نہ دیا۔

جس طرح ان مذکورہ چیزوں کے متعلق کوئی نہیں پوچھ سکتا، ایسا ہی یہ بھی کوئی نہیں پوچھ سکتا کہ آدمی کو پیغمبر کیوں بنایا، فرشتے کو کیوں نہ بنایا۔ مفلس کو پیغمبر کیوں بنایا، مالدار کو کیوں نہ بنایا۔

"أَهُمْ يَقُسِّمُونَ رَحْمَتَ رَبِّكَ" (پ ۲۵ ع ۳ سورہ الزخرف)

کیا یہ لوگ خدا کی رحمت کو بانٹنے بیٹھے ہیں۔

ان کو ہونا، ان کو نہیں، ان کو یہ ہونا، ان کو نہیں ہونا، تم کون پوچھنے والے اللہ تعالیٰ کا یہ بھی ارشاد ہے:-
کیا ہمارے افعال پر تعجب کرتے ہو؟

أَكَانَ لِلنَّاسِ عَجَباً أَنْ أَوْحَيْنَا إِلَى رَجُلٍ مِنْهُمْ أَنْ أَنْذِرِ النَّاسَ وَبَشِّرِ الظَّرِينَ

امُنُوا أَنَّ لَهُمْ قَدَمَ صِدْقٍ عِنْدَ رَبِّهِمْ (پ ۱۱ ع سورہ یونس)

(کیا لوگوں کو اس بات سے تعجب ہوا کہ ہم نے ان ہی میں سے ایک شخص کے پاس وہی بھیج دی کہ سب آدمیوں کو ذرا نے اور جو ایمان لے آئے ان کو یہ خوشخبری سنائے کہ ان کے پروردگار کے پاس ان کا سچا درجہ ہے۔ اس پر کیوں تعجب نہیں کرتے کہ سورج میں چمک کیوں ہے، کالی زمین میں کیوں نہیں، ایسا ہی اس پر بھی تعجب نہیں کرنا چاہیے کہ مفلس کو پیغمبر کیوں بنایا مالدار کو کیوں نہ بنایا۔

فصل - ۳

حضرور صلی اللہ علیہ وسلم سے منشاء رسالت کامل طور پر پورے ہونے کے بیان میں لوگو! پیغمبری کن کو ملنا چاہئے تھا اور کن کونہ ملنا چاہئے تھا یہ کیا فضول جھگڑوں میں پڑے ہو، سو نجھے اور غور کرنے کی بات تو یہ ہے کہ پیغمبروں کو بھیجنے کا منشاء کیا ہے اور غرض کیا ہے، وہ منشاء اس پیغمبر سے پورا ہوا یا نہیں، سننے ہر چیز کے دو حالت ہوتے ہیں :-

ایک ظاہری حالت ہوتی ہے جو سردست ان میں پائی جاتی ہے۔

اور ایک ان میں قابلیت ہوتی ہے جو پیدائش کے ساتھ ساتھ عطا ہوتی ہے اور وہ قابلیت بطور امانت کے محفوظ رہتی ہے کسی کامل کافیض پاجانے کے بعد وہ امانت ظاہر ہوتی ہے۔

جیسے چراغ کے روشن ہونے کے پہلے ایک صورت تھی، پھر روشن ہونے کے بعد دوسری صورت ہوئی۔ پہلی صورت ظاہری پیدائشی صورت تھی، روشن ہونے کے بعد قابلیت والی صورت ظاہر ہوئی مگر اس قابلیت کو ظاہر کرنے کے لئے آگ کی ضرورت تھی، آگ قریب آئی اسکے فیض سے وہ کالا چراغ روشن ہوا۔

پھر کامکڑا جو پائخانوں اور مکانوں میں لگایا جاتا ہے جب اس کو آفتاب کی صحبت ملی اس آفتاب کی شعاعوں کے فیض سے لعل اور الماس بن گیا، بادشاہوں کے تاج پر لگایا جاتا ہے، اس کو کوہ نور کا خطاب دیا جاتا ہے۔ غرض صحبت کے بغیر اندر وہی قابلیت ظاہر نہیں ہوتی۔

ایسا ہی ان لوگوں میں جن میں قابلیت ہے مگر وہ ظاہر نہیں ہو سکتی تو خدا نے تعالیٰ پیغمبروں کو بھیجا ہے ان کی صحبت سے وہ قابلیت ظاہر ہوتی ہے، یہ منشاء ہے پیغمبروں کے بھیجنے کا۔

اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ بات اس پیغمبر میں پائی جاتی ہے یا نہیں۔ مشاہدہ سے ثابت ہوتا ہے کہ جن حضرات میں یہ قابلیت تھی اور ظاہر نہیں ہو رہی تھی جب ان کو اس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت ملی تو فیض صحبت سے جو ادنیٰ سے ادنیٰ تھے وہ اعلیٰ درجہ کا عروج حاصل کیئے۔

آج دنیا کے کسی حصہ پر ان سے زیادہ باغدا عبادت گزار نہیں ہے۔ نہ ان سے زیادہ مہمان نواز ہے اور نہ ان سے زیادہ سخنی ہے۔ نہ بہادر وہ حضرات انسانی اخلاق سے گزر کر فرشتوں کے اخلاق تک پہنچے۔

پیغمبروں کے سمجھنے کا منشاء اس پیغمبر سے پورا ہو چکا، اس نے پیغمبر کو بھی نبی ماننا ضروری ہے بلکہ وہ منشاء بھی اس پیغمبر سے پورا ہوا کسی اور پیغمبر سے پورا نہ ہوا، اس کو سمجھنے کے لئے اولاً ایک تمثیل پر غور کیجئے۔

گندم (گیہوں) پہلے ایک شخص بتاتا ہے اور کھلا کرتا ہے، پھر کوئی پیتا ہے، پھر کوئی گوندھتا ہے، اس کے بعد ایک شخص اس کو چوہے پر توار کھ کر پکاتا ہے وہ روٹی اس آخری شخص کے ہاتھ پر تمام ہوتی ہے۔

ایسی ہی آدم علیہ السلام کے فیض صحبت سے دین کا گندم بوسایا گیا۔ اس کے بعد ہر ایک پیغمبر ایک ایک کام کرتے رہے۔

حضرت عیسیٰ علیہ السلام خمیر کئے۔

آخر پر حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عشق و محبت کا چولہا سلگائے اور دین کی تیکیل ہوئی۔

اَكْمَلْتُ لَكُمْ دِيْنَكُمْ وَأَتَمَّتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي (پ ۶ سورہ المائدہ)

میں نے تمہارا دین کامل کر دیا، میں اپنی نعمت پوری تم کو دیدیا۔

عیسیٰ علیہ السلام کے بعد پیغمبروں کا آنا بند ہو گیا تھا۔ پیغمبروں کے نہ آنے سے لوگ مثل قحط زده کے ہو گئے تھے، وہ قحط زده لوگ جان اور مال دیکر اس روٹی کو خرید لیئے۔

وَجَاهُدوَا بَأَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ (پ ۱۰ سورہ التوبہ)

ہزار ہائیں اس روٹی کے واسطے جان دیدے تھے۔

كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ (پ ۳ سورہ آل عمران)

(سب امتوں میں تم بہترین امت ہو)

تم کیسے خوش تقدیر ہو وہ کی پکائی روٹی تمہارے تقدیر کی تھی۔

تالیف حضرت ابو الحسن اسید عبداللہ شاہ قشیری
 ایں چہ جام است اینکہ اندر کام متار ریختی کیا کہیں یہ کیسا جام محبت تھا جسکو آپ مستول کے حلق میں ڈال دیئے۔
 بادہ عشق است کاں در ساغر جاں ریختی یہ عشق کی شراب تھی، جو جان کے پیالے میں ڈال دیئے۔

ایں نہ زاں بادہ است کا ندر ساغر و پیانہ است یہ وہ شراب نہیں ہے جو ساغر و پیانہ میں ہوتی ہے۔
 زاں شراب است ایں کہ در مویٰ و عمران ریختی یہ وہ عشق الہی کی شہرباب ہے جو مویٰ اور عمران کے ساغر میں ڈالی گئی
 زاں مئے وحدت کہ شاہاں رانہ دادی جرعہ یہ وحدت کی شراب ہے جو بادشاہوں کو ایک گھونٹ بھی نہیں دی گئی
 صد ہزاروں جام در کام گدا یاں ریختی ہزاروں جام فقیروں کے حلق میں ڈال دیئے گئے ہیں۔
 جب پیغمبروں کے بھیجنے کا منشاء اس پیغمبر سے سب سے زیادہ ظاہر ہوا ہے تو پھر تم کو تعجب کیوں ہے؟

آگان للنَّاسِ عَجَباً أَنْ أُوْحَيْنَا إِلَى رَجُلٍ مِّنْهُمْ أَنْ أَنذِرِ النَّاسَ وَبَشِّرِ الظَّاهِرَ أَمْنُوا
 أَنَّ لَهُمْ قَدْمَ حِصْدِقٍ عِنْدَ رَبِّهِمْ (پ ۱۱۴ سورہ یوسف)

(کیا لوگوں کو اس بات سے تعجب ہوا کہ ہم نے ان ہی میں سے ایک شخص کے پاس وہی بھیج دی کہ سب
 آدمیوں کو ڈرانے اور جو ایمان لے آئے ان کو یہ خوش خبری سنائے کہ ان کے پروردگار کے پاس ان کا سچا درجہ
 ہے۔) کہ پیغمبر انسان کو وہ بھی مفلس کو کیوں بنایا۔

حکایت :-

ایک عارف پر عرش کا کشف ہوا، جب وہ وہاں پہنچے تو عرض کئے کہ الہی روح محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو
 مجھے دکھا، ورنہ میں ان کے فرق میں جی نہ سکوں گا۔

اللہ تعالیٰ کا حکم ہوا کیا تم عیسیٰ علیہ السلام کو جانتے ہو؟ وہ عیسیٰ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے مبشر ہیں تو
 محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیسے ہوں گے، عیسیٰ علیہ السلام کو جب مخلوق پر ظاہر کیا گیا تو ان سے وہ وہ کام ہوئے جو کسی
 سے نہیں ہو سکتے۔

”وَأَبْرِئُ إِنَّمَا الْأَكْمَةَ وَالْأَبْرَصَ وَأَحْيَ الْمَوْتَى“ (پ ۳۴ سورہ آل عمران)

(ماں پیٹ کے اندر ھے کو بینا بنادیئے، کوڑی کو اچھا کر دیئے اور مردوں کو زندہ کئے)
عیسیٰ علیہ السلام کی یہ حالت دیکھ کر نصاریٰ نے ان کو "المَسِيْخُ ابْنُ اللَّهِ" (پ ۱۱۴ سورہ التوبہ)
(محی اللہ کے بیٹے ہیں) کہنے لگے۔

اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے روح مبارک کا جمال خلق کو دکھائیں، سارے مردے جی اٹھیں، جھاڑ پھاڑ
بولے لگیں، فلک کو مدار رہے نہ ملک کو قرار، سارا عالم شیدا ہو جائے گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم خدا پرست بنانے
آئے ہیں، سب کے سب محمد پرست ہو جائیں گے، اس لیے ان کو رجل (آدمی) ہی کے پردے میں رہنے دو۔

أَكَانَ لِلنَّاسِ عَجَباً أَنْ أَوْ حَيَّنَا إِلَى رَجُلٍ مِنْهُمْ أَنْ آنِذِ رِّ النَّاسَ وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا
أَنَّ لَهُمْ قَدَمَ صِدْقٍ عِنْدَ رَبِّهِمْ (پ ۱۱۴ سورہ یونس)

کیا لوگوں کو اس بات سے تعجب ہوا کہ ہم نے ان ہی میں سے ایک شخص کے پاس وحی بھیج دی کہ سب
آدمیوں کو ڈرائے اور جو ایمان لے آئے ان کو یہ خوشخبری سنائے کہ ان کے پور دگار کے پاس ان کا سچا درجہ ہے۔

کیا اب بھی تعجب رہے گا ایک رجل (مرد) کی طرف وحی کرنے سے جب کہ وہ اپنی پیغمبری کے فرائض کو
ادا کرے "أَنْ آنِذِ رِّ النَّاسَ" (پ ۱۱۴ سورہ یونس) لوگوں کو آنے والے عذاب سے ڈرائے۔ - وَبَشِّرِ
الَّذِينَ آمَنُوا (پ ۱۱۴ سورہ یونس) اور مسلمانوں کو خوشخبری سنائے۔ "أَنَّ لَهُمْ قَدَمَ صِدْقٍ عِنْدَ رَبِّهِمْ
(پ ۱۱۴ سورہ یونس) کہ ان کے پور دگار کے پاس ان کا سچا درجہ ہے)

اے امتیو! تمہارا نبی کی شفاعت تمہارے واسطے ہی ہے وہ نبی پہلے جنت میں جائیں گے اور تم ان کے
پیچے، بشرطیکہ تم یہاں یعنے دُنیا میں ان کے پیچے چلو اور ان کی پیروی کرو، پھر دیکھو دشوار گزار جنت کا راستہ کیسے
آسان ہو جاتا ہے۔

جنت کا راستہ اگرچہ دوسروں پر دشوار ہے۔

مگر یا رسول اللہ آپ اپنی امت پر کس قدر آسان
کر دیئے ہیں۔

اللہ تعالیٰ کے وصال کا گوہر دو جہاں دے کر لوگ
خریدتے ہیں۔

لیکن آپ اس کو اپنی امت کے لئے کس قدر ستا
کر دیئے ہیں۔

یا رسول اللہ بے حال عاصیاں کن یک نظر ڈالیئے
اس ایک نظر سے گنہگاروں کے کام بن جائیں گے۔

کچھ ڈرا کر، کچھ خوشخبری سنا کر خدا تک پہنچانے اور جنت میں لے جانے اور شفاعت کر کے عذاب سے
چھڑانے میں حضرت سب انبیاء سے مقدم ہیں، اسلئے آپ کو اللہ تعالیٰ قدم صدقی (پ ۱۱ سورہ یونس) فرمایا۔
قیامت کے روز خدائے تعالیٰ فرمائے گا میرے نبی یہ امتی تو ناکارہ اور دوزخ کے قابل ہے ان کے دلوں
کو دیکھو کیسے ہو گئے ہیں، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اپنے قلب مبارک کا اثر ڈال کر دلوں کو منور بنا کر عرض کریں گے
اللہی دیکھئے اب تو جنت کے قابل ہو گئے ہیں۔ یہی شفاعت کی حقیقت ہے۔

یا رسول اللہ آپ عاشقانِ الہی کے باغ کے پھول ہیں جو زاہد کہ
دنیا سے تعلق توڑے ہوئے سارے تعلقات سے آزاد ہیں ان
کے آپ قافلہ سالار ہیں۔

معرفتِ الہی حاصل نہ ہونے سے جو حیران و پریشان ہیں ان کو
آپ معرفتِ الہی کا راستہ دکھانے والے ہیں۔ اللہ تک پہنچ کا
دروازہ بند تھا آپ قفل کھول کر اللہ تک پہنچانے والے ہیں۔

راہ جنت گرچہ دشوار است پیش دیگر اس

بر طلبگار ان ایں امت چہ آسان ساختہ ای

گوہر و صلش بے نقد ہر دو عالم می خرند
لیکن از بہر گدایاں تو ارز اس ساختہ ای

یا رسول اللہ بے حال عاصیاں کن یک نظر
تا شودزاں یک نظر کار فقیر اس ساختہ ای

کچھ ڈرا کر، کچھ خوشخبری سننا کر خدا تک پہنچانے اور جنت میں لے جانے اور شفاعت کر کے عذاب سے
چھڑانے میں حضرت سب انبیاء سے مقدم ہیں، اسلئے آپ کو اللہ تعالیٰ قدم صدقی (پ ۱۱ سورہ یونس) فرمایا۔
قیامت کے روز خدائے تعالیٰ فرمائے گا میرے نبی یہ امتی تو ناکارہ اور دوزخ کے قابل ہے ان کے دلوں
کو دیکھو کیسے ہو گئے ہیں، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اپنے قلب مبارک کا اثر ڈال کر دلوں کو منور بنا کر عرض کریں گے
اللہی دیکھئے اب تو جنت کے قابل ہو گئے ہیں۔ یہی شفاعت کی حقیقت ہے۔

اے گل گزار ہمہ بملائیں
قافلہ سالار سبکِ محلائیں

راہ نمائے ہمہ سرگشتگاں
قفل کشاۓ ہمہ در بستگاں

ہم غفلت کے پرده میں ہیں، اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل نہیں کر سکتے
- یہ پرده اٹھا کر ہم کو مقرب الہی بنائیے۔ اس وجہ سے کہ ہمارا دل
اللہ کے دیدار کا اور اس کے مقرب ہونے کا مشتق ہے۔

آپ شفاعت کا ہاتھ آگے بڑھائیے۔ ہم جیسے سینکڑوں کو جو کچھ میں
پھنسے ہوئے ہیں مدفرما کر کچھ سے نکالیئے۔

اللہ سے مقرب ہونے کی عزت کا تاج ہمارے سر پر رکھئے۔
اے اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طفیل سے جو ہماری
مرادیں ہیں اس کو پوری کر۔

برلن آں پرده زر خسار دوست
ہاں کہ دلم عاشق دیدار اوست

دست شفاعت بہ میاں اندر آر
صد چو مر اپائے ازیں گل برار

تاج کرامت بہ سر ما بنہ
ہر چہ مراد است خدا یابدہ

فصل - ۳

اس سے پہلے رسالت کو کافی دلائل کے ساتھ ثابت کیا جا چکا ہے اور رسالت کا جو ہر ”نور ہدایت“ ہے
اں فضل میں نور ہدایت کے خصوصیات اور تاثرات کا بیان ہے۔

حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول بنانے سے جوبات حاصل ہوئی کسی پیغمبر کو رسول بنانے سے وہ بات
حاصل نہیں ہوئی، اس واسطے کہ سب پیغمبر ایک مرتبہ کے نہیں ہیں، سب کا فیضان ایک طرح کا نہیں ہے۔
چراغ، لالثین، گیس کے ہندے، بجلی کے قمقے، تارے، چاند، یہ سب انہیں دُور کرنے کے
لیے ہیں، مگر یہ سب ایک درجے کے نہیں ہیں، چراغ میں ایک درجہ کا نور ہے، جس سے انہیں دُور ہوتی
ہے تو لالثین میں کئی درجے زیادہ گیس کے ہندوں میں اس سے زیادہ، بجلی کے قمقموں میں اس سے بھی زیادہ،
تاروں اور چاند میں سب سے زیادہ۔ گوکہ سب میں ایک سے ایک بڑھ کر نور ہے مگر کسی سے سارا عالم منور نہ
ہو سکا۔ کوئی ایک کمرہ کو روشن کیا تو کسی نے گھر روشن کیا۔ سارا عالم روشن کرنے کے لیے سورج ہی ہے، اس
سے دُنیا کا کونہ کونہ منور ہو گیا۔

ایسا ہی تمام پیغمبر گمراہی کی انہیں دور کرنے کے لیے ہیں مگر سب ایک درجہ کے نہیں ہیں۔ کسی نے
ایک قوم کی ہدایت کی تو کسی نے ایک بستی کی۔

مگر سارے قوموں کو دنیا کی ساری بستیوں کو منور کرنے کے لیے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا کیا۔ آپ سے مثل سورج کے دنیا کا کونہ کونہ منور ہو گیا، اور مگر اسی دور ہوئی۔
اس لیے اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے :-

”وَلَقَدْ فَضَّلْنَا بَعْضَ النَّبِيِّنَ عَلَىٰ بَعْضٍ“ (پ ۱۰ سورہ نبی اسرائیل)

ہم نے ایک پیغمبر کو دوسرے پیغمبر پر فضیلت دی ہے (کسی کو ایک درجہ اور کسی کو دو درجہ) اسی طرح دوسری جگہ ارشاد فرماتا ہے :-

”وَرَفَعَ بَعْضَهُمْ دَرَجَاتٍ ط (پ ۲۳ سورہ البقرہ)

ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو سینکڑوں ہزاروں بے گنتی درجے دیئے ہیں، الغرض جب تک مدینہ کا چاند نہیں نکلا تھا، عالم تیرہ و تار تھا، کسی کو کچھ سو جھتا ہی نہیں تھا۔ شیطان چور کی خوب بن آئی تھی، عقائد لوٹ رہا تھا اور اعمال بھی، ایسے وقت خدائے تعالیٰ کی رحمت کو جوش ہوا۔ مدینہ شریف میں ایسا چراغ روشن ہوا جس سے سارا عالم چمک اٹھا۔

إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا ه وَدَاعِيًّا إِلَى اللَّهِ بِإِذْنِهِ وَسِرَاجًا مُّنِيرًا ه (پ ۲۲ سورہ الاحزاب)

(بے شک ہم نے بھیجا ہے آپ کو گواہی دینے والا اور خوش خبری دینے والا، اور ڈرانے والا اور اللہ تعالیٰ کی طرف بلانے والا، اور روشن چراغ بنانے والا۔

قَدْ جَاءَكُمْ مِنَ اللَّهِ نُورٌ وَكِتَابٌ مُبِينٌ ۝ ۵۔ (پ ۶ سورہ المائدۃ)

غرض کہ اللہ کی طرف سے تمہارے پاس نور (محمد صلی اللہ علیہ وسلم) اور قرآن آچکا ہے۔

اس آیت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ”نور اللہ“ اس لیے فرمایا کہ نور طالب اور مطلوب کے درمیان واسطہ دید ہوتا ہے۔ حضور بھی اللہ اور اللہ والوں کے درمیان واسطہ ہیں، اللہ تعالیٰ نے نورِ خدا اس لئے بھی کہا ہے کہ مظہراً تم حضور ہی ہیں۔

مظہر اتم (یعنی اللہ تعالیٰ کا نور) کامل طور پر حضور سے ظاہر ہونے کی تفصیل دوسرے پیغمبر بھی اللہ تعالیٰ کے نور سے منور تھے، مگر وہ پیغمبر اللہ تعالیٰ کے نور کے پورے مظہر نہیں تھے، یہی وجہ تھی کہ ان سے ہدایت بھی صرف خاص خاص قوموں اور خاص خاص ملک کو ہوتی ہے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے نور کے پورے مظہر تھے، اس لئے پوری ہدایت ہوتی، دنیا کے کونے کونے میں ہدایت پہنچ گئی، یہ آپ، نورِ خدا کے مظہر اتم ہونے کی بین دلیل ہے۔

مَثُلُ نُورٍ هُوَ كَمْشُكُوٰةٌ فِيهَا مَصْبَاحٌ "الْمِصْبَاحُ فِي رُّجَاجَةٍ۔" (پ ۱۸۴ سورہ نور)

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ ہمارے نور سے سارا آسمان اور ساری زمین منور ہیں مگر کوئی مظہر اتم اس نور کا نہ ہوا۔ ہمارے نور کے مظہر اتم اگر دیکھنا ہو تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھو، آپ کے سینہ مبارک میں ہمارا نور کامل طور پر جو ظہور کیا ہے اس کو ایک مثال سے اس طرح سمجھو کہ :-

ایک طاق میں چراغ ہے اور وہ چراغ قمیے میں رہنے سے بہت منور ہے اور اس چراغ کا تیل زیتون کا ہونے سے اس چراغ کے نور میں صفائی بھی پیدا ہو گئی ہے۔

اس مثال کے بعد حضور کے سینہ مبارک کے نور پر غور فرمائیے جس طرح چراغ کے طاق میں رہنے اور اس میں بہتر تیل کی وجہ سے کامل درجہ کا نور ظاہر ہوتا ہے، اسی طرح اللہ تعالیٰ کا نور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے سینہ مبارک میں ظاہر ہو کر کمال کے درجہ کو پہنچا۔ اسی کی وضاحت میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد :-

آلمَ نَشْرَحُ لَكَ صَدْرَكَ (پ ۳۰۴ سورہ الانشراح) ہے۔

ارشاد ہوتا ہے کہ ہم اپنا کامل اور پورا نور آپ کے سینہ میں ڈال دیئے جس کا نتیجہ ہے آپ کا سینہ کامل طور سے منور ہو کر شرح صدر ہو گیا۔

نور کو سایہ نہیں ہوتا چوں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ظاہر و باطن ہر طرح نور ہی نور تھے، اس لئے حضور کو بھی سایہ نہ تھا (دیکھو خصائص کبریٰ)

حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے نور مبارک سے صد ہاظاہر اور باطن روشن ہوئے باطنی طور پر تو قیامت تک اولیا، کبار اور علماء ابرار روشن ہوتے رہیں گے، ظاہر اجوینکڑوں چیزیں روشن ہوئیں ان کی چند مثالیں ملاحظہ فرمائیے۔

حدیث بخاری :-

دو صحابی نمازِ عشاء پڑھ کر حضرت کے پاس سے رخصت ہونے لگے، اس وقت اب تھا اور اندر ہیرا تھا۔ حضور نے ایک سمجھو رکڑی ایک صحابی کے ہاتھ میں دیئے وہ لکڑی چمکنے لگی، جس سے راہ نظر آتی تھی، جب وہ دونوں صحابی ایک دوسرے سے جدا ہونے لگے تو وہ اس لکڑی سے دوسرے صحابی اپنی لکڑی ملا لئے، وہ لکڑی بھی روشنی ہو گئی، اسی روشنی میں ہر ایک اپنے اپنے گھر پہنچ گئے۔

یہ تھا رسول اللہ ﷺ کے نور سے ظاہری چیزوں کا منور ہونا۔ اسی طرح یہی تھی کی حدیث میں مذکور ہے۔ بعض صحابہ فرماتے ہیں کہ ایک رات ہم حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے رخصت ہوئے وہ رات اندر ہیری تھی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے فیضان سے ہماری انگلیاں روشن ہو گئیں اور ہم اس روشنی میں آرام سے اپنے اپنے گھر پہنچ گئے۔

یہ ہے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے نور سے ظاہری چیز کا منور ہونا۔

اور ایک حدیث میں مذکور ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم دعوتِ اسلام کے لئے چند صحابہ کو بھیج تو وہ صحابہ درخواست کئے کہ اسلام سچا مذہب ہونے پر ہم کیا دلیل پیش کریں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے دونوں آنکھوں کے نیچے میں انگلی رکھ دیئے، جس سے ان کے دونوں آنکھوں کے نیچے سے نور چمکنے لگا۔ صحابہ اس نور سے اپنا کوڑا ملا لئے تو وہ کوڑا بھی اس نور سے چمکنے لگا۔

یہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نور جو ایک دوسرے کو منتقل ہو رہا تھا۔

نورِ آفتاًب سے زیادہ نورِ مبارک صلی اللہ علیہ وسلم کے فیض رسانی کی تفصیل
حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو آفتاًب نہ کہا اس لیئے کہ آفتاًب کا فیضان ضعیف ہوتا ہے، بخلافِ چراغ کے

کہ اس کا فیضان قوی ہوتا ہے اس سے صد ہا چراغ روشن ہو سکتے ہیں۔

سر کارِ صلی اللہ علیہ وسلم نور ہی نور تھے مگر چاند اور سورج کی طرح نہیں تھے۔ کیوں کہ چاند اور سورج کے نور ہے کوئی اور نور انی نہیں ہوتا ہے بلکہ آپ کا نور چراغ کے نور کی طرح فیض رسائی تھا کہ جیسے ایک چراغ سے دوسرا چراغ روشن ہوتا ہے، ایسا ہی آپ کے نور سے دوسری چیزیں منور ہو رہے تھے۔

پہلی وجہ، حضرت کے نور کو آفتاب کے نور سے تشبیہ نہ دینے کی یہ ہے کہ :-
آفتاب کا نور کھلی جگہ میں پہنچتا ہے، بند مقامات میں آفتاب کا نور نہیں پہنچ سکتا۔ ہاں! چراغ کا نور ہر جگہ پہنچ جاتا ہے، کھلا مقام ہو یا بند مقام۔ گھر کے ہر کمرہ میں چراغ کا نور پہنچ جاتا ہے۔

اسی طرح حضور کا نور بھی سب پر اور سب جگہ پہنچ جاتا ہے، اگر کوئی قبول نہ کرے تو یہ اس کی بد نیت ہے۔

دوسری وجہ، حضرت کے نور کو آفتاب کے نور سے تشبیہ نہ دینے کی یہ ہے کہ :-
آفتاب ڈوبنے کے بعد ظلمت اور تار کی پھیل جاتی ہے۔ اس کے دور کرنے کیلئے کسی اور نور انی چیز کی ضرورت پڑتی ہے بخلاف یہ چراغ کے کہ چراغ بجھ جانے کے بعد دن روشن ہو جاتا ہے، پھر اور کوئی نور انی چیز لگانے کی ضرورت نہیں۔

ایسا ہی حضور کے تشریف لے جانے کے بعد سے ایسی نورانیت پھیلی ہوئی ہے کہ پھر اور کسی نبی کو آکر ظلمت دور کرنے کی ضرورت باقی نہیں رہی (اسی لئے آپ کے نور کو چراغ کہا کہ آپ کے بعد کسی نور کی ضرورت نہیں) تیسرا وجہ، حضرت کے نور کو آفتاب کے نور سے تشبیہ نہ دینے کی یہ ہے کہ :-

آفتاب خود اپنے ذات سے منور ہے، بخلاف چراغ کے کہ وہ آگ اور تیل سے روشن ہوتا ہے۔

ایسا ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نور، اللہ تعالیٰ کے نور سے منور ہے اس لئے آپ کے نور کو چراغ کہا۔ اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہوتا ہے کہ :-

جب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم گھر سے نکل کر ہجرت فرمائے تھے کفار آپ کے گھر کو گھیرے ہوئے تھے، آپ ایک مٹھی کنکر لے کر پھینک دیئے، وہ کنکر ہر ایک کافر کے آنکھ میں پہنچا، وہ آنکھ ملتا ہی رہا۔ حضور سامنے ہجرت کے لئے تشریف لے گئے، کیا کسی کے ایک مٹھی کنکر میں یہ تاثیر ہے کہ ہر ایک کی آنکھ میں پہنچ جائے، یہ ہمارا ہی نور تھا جس سے آپ منور ہوئے ہیں۔ آپ کنکرنہیں پھینکے بلکہ ہم کنکر پھینکے ہیں، اس لئے ہماری قدرت کاظمیہ ہوا کہ ایک مٹھی کنکر ہر ایک کافر کی آنکھ میں پہنچ گیا۔

اس سے معلوم ہوا کہ جیسے چراغ آگ اور تیل سے روشن ہوا ہے، ایسا ہی حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نور اللہ تعالیٰ کے نور سے منور ہوا ہے۔

چوتھی وجہ، حضرت کے نور کو آفتاب کے نور سے تشبیہ نہ دینے کی یہ ہے کہ :-

آفتاب کا نور ایک حال پر رہتا ہے، اس میں کوئی درجہ نہیں، بخلاف چراغ کے نور کے کہ چراغ کے نور میں کئی درجہ ہوتے ہیں۔

ایسا ہی حضرت کے نور میں بھی کئی درجہ ہیں جن کو آپ ہمیشہ طے کرتے رہتے ہیں۔ اسی واسطے حضور صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے قرب کے بے انہباء مدارج ہیں، میں ان قرب الہی کے مدارج میں سے جس درجہ پر بھی رہوں اس درجہ سے ترقی کر کے اس سے بڑھ کر جو درجہ بھی ہو، اس پر پہنچ جاتا ہوں، ہمیشہ یہی ہوتا رہتا ہے کہ میں ایک درجہ پر پہنچا، پھر ترقی کیا اور اس سے بڑے درجے پر پہنچ گیا، وہ پچھلے درجے جن سے ترقی کیا ہوں مجھے ناپسند ہو جاتے ہیں، اور یہ خیال ہوتا ہے کہ اب تک جن نچلے درجوں میں رہا، بجائے اس کے اس سے بڑے درجوں میں رہنا چاہئے تھا، اس لئے ترقی سے پہلے رہے ہوئے نیچے کے درجوں پر دن میں ستر بار استغفار کرتا ہوں۔

پھر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے نور کو سونچوا چھی طرح سونچو، اور اس کلیہ پر بھی غور کرو کہ عام نور خود ظاہر ہوتا ہے اور دوسری شے کو دکھاتا ہے بعینہ یہی کلیہ حضرت کے نور پر بھی صادق آتا ہے کہ آپ کا نور مجرزات دکھانے سے خود روشن ہے اور یہ نور دوسروں کو بھی راہ ہدایت دکھاتا ہے۔ سچی بات تو یہ ہے کہ آپ ہی کا نور تھا جس کی روشنی میں ہم نے اللہ کو اللہ جانا۔

فصل - ۵

آنندہ پیروی و اتباع نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تفصیلات ہیں۔ اس سے پہلے یہ جان لینے کی ضروری ہے کہ پیروی کی ماہیت و اصلیت کیا ہے، غور کیجئے تو معلوم ہوگا کہ پیروی کی اصلیت جس کی پیروی کی جاری ہے اس سے جڑ جانا ہے۔ اس فصل میں اولاً عقلی طور پر یہ ثابت کیا جاتا ہے کہ کوئی چیز کسی چیز سے جڑ جاتی ہے، پسند ہو جاتی ہے تو اس جڑنے والی چیز کو کیا فائدہ حاصل ہوتا ہے، اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے جڑ کو پیوست ہو کر آپ سے محبت پیدا کرنے کی ترغیب کا بیان ہے۔

محبت کا اثر پذیر ہونے پر چند مثالیں :-

پیاز ایک بد بودار چیز ہے سوائے متعفن چھلکوں کے اس میں کچھ بھی نہیں جو کھانے کے بعد بھی اپنا ذاتی تعفن نہیں چھوڑتی، ہاتھوں کو بد بودار کرتی اور منہ کو بساند بناتی ہے، ڈکار آئے تو بد بو آتی ہے۔

وہی پیاز اگر ایک لخت گھی کے ساتھ آگ پر رہ جائے تو بجائے بد بو کے اپنی خوبصوری سے محلہ کو بساتی ہے چج ہے نیکوں کی صحبت نیک بناتی ہے۔

صحبت صالح کند
صحبت طالع کند

بروں کی صحبت تجھے برا بناتی ہے۔

کیلے اور ترش پھل والے درخت کی شاخ کو جب کسی شیریں خوش ذائقہ درخت کی شاخ سے پیوند کیا جاتا ہے تو وہ کیلے اور کھٹے پھل والا درخت بھی نہایت عمدہ اور شیریں پھل لاتا ہے۔

تل اپنی ذات میں کوئی خوبصورار چیز نہیں ہے مگر جب وہ ایک عرصہ تک چینیلی کے پھولوں میں بسائی جاتی ہے تو وہی تل کا تیل خوبصورار اور قیمت والا ہو جاتا ہے۔

حاصل یہ کہ اچھوں سے تعلق کا نتیجہ ہمیشہ وصال اور کامیابی ہی ہوتا ہے۔

تمام ریل گاڑیاں بے جان چیز ہیں از خود مطلقاً حرکت نہیں کر سکتیں، البتہ انہن چلنے والی چیز ہے مگر جب وہ مردہ گاڑیاں چلنے والے انہن سے مل جاتی ہیں تو نہایت تیز چلنے والی ہو جاتی ہیں، جس وقت انہن اٹیشیں پر پہنچتا

ہے اسی وقت گاڑیاں بھی پہنچ جاتی ہیں۔

پانی اپنی کثرت کے وجہ سے کم قیمت ہے، اگر اسی پانی کو ایک مدت تک گلاب کے پھول کی صحبت میسر ہو جائے تو وہ بیش قیمت عرق گلاب ہو جاتا ہے۔

دostو! پانی گلاب کے پھول کی صحبت سے عرق گلاب بنا، بدبودار پیاز گھی کی صحبت سے خوشبودار ہوئی کڑوے نکتے پھل شیریں درخت سے پیوند ہو کر شیریں و ذائقہ دار ہوئے، معمولی ٹل چنیلی کے فیض صحبت سے خوشبودار ہوئی۔ غرض کہ یہ سب کچھ دنیا میں ہورہا ہے، ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں۔ پھر یہ کس طرح ہو سکتا ہے کہ وہ انسان جو تمام مخلوقات میں بڑی استعداد رکھنے والا ہے، کسی کامل ولی یا نبی کی صحبت سے اعلیٰ درجہ کا نہ ہو۔ ہائے مردہ بے جان گاڑیاں ایک انجن سے تعلق پیدا کر کے سب کی سب بہت جلد اپنے منزل مقصود تک پہنچ جائیں۔

کیا انسان انبیاء کے ساتھ تعلق پیدا کر کے منزل مقصود تک نہیں پہنچ سکے گا؟

آپ کے دل میں یہ بات کھٹک رہی ہوگی کہ مشاہدہ اس کے خلاف ہے، بہت لوگ ایسے ہیں کہ بزرگوں کے پاس رہنے کے باوجود ان کی اصلی حالت نہیں بدلتی ڈور کیوں جائیں ابو جہل پر حضرت کا کیا اثر ہوا۔ عبد اللہ بن ابی مناف ایک زمانہ تک حضرت کے ساتھ رہا مگر اس کو کچھ فائدہ نہ ہوا۔

دوستو! آپ نے غور نہیں کیا، ورنہ نتیجہ صاف ہے اور بات کھلی ہوئی ہے۔ پیاز پر گھی کی صحبت کا اثر اس وقت تک نہیں ہو سکتا اور وہ اپنے بدبوئی چھوڑ کر خوشبوئی حاصل نہیں کر سکتی جب تک کہ گھی کے ساتھ اپنی جان نہ جلائے، پیاز کی ڈلی کو ایک سال تک گھی کے اندر ڈالے رکھئے، کبھی بھی اس کی بدبوئی نہ جائے گی۔

پیاز کو اپنا مقصد حاصل کرنے کے لیے کیا کرنا پڑے گا، پہلے تو کٹ کر ٹکڑے ہونا پڑے گا۔ اس کے بعد گھی میں جلنا پڑے گا، جب کہیں اپنی بدبوئی چھوڑ کر خوشبوئی حاصل کر سکے گی۔

اسی طرح اگر لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تابع داری میں ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں اور حضرت کی محبت کے گھی میں جل جائیں، تب کہیں پاک اور خوشبودار ہوں گے۔

صاحب! ایک ابو جہل کارو نامت روء، ہم کب حضرت کی تابع داری میں نکڑے نکڑے ہوئے ہیں اور حضور کی محبت میں کب جلے ہیں، پھر ہم اگر پاک ہوں گے تو کیسے پاک ہوں گے اور کیسے خوشبودار ہوں گے۔
کھنے درخت کی شاخ پر شیریں درخت کی شاخ کا پیوند لگاتے ہیں، اس وقت ترش شاخ کو تراشتے ہیں، اگر اس ترش شاخ کو نہ تراشا جائے گا تو کبھی پیوند درست نہ ہوگا۔

اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کا پیوند لگا کر اپنی مرضی و خواہش کو بالکل نہ ترک کیا جائے گا تو کبھی بھی نبی کے فیضان سے شیریں ہونا میسر نہ ہوگا اور کبھی بھی بُرے اخلاق کی ترشی زائل نہ ہوگی۔
ابو جہل نے کب پیوند درست کیا تھا اور اب ہم کب حضور سے پیوند درست کئے ہوئے ہیں۔

صاحب! ہماری حالت درست نہ ہونے کا اندر وہی سبب معلوم کرنے کے لیے ذیل کی مثال پر غور کرو۔
ریل گاڑی کے ڈبے انجن کے قریب کھڑے ہوئے ہیں، دیکھنے والوں کو دھوکا ہو رہا ہے کہ یہ ڈبے انجن سے لگ گئے ہیں، جب انجن چلا تو اب معلوم ہوا کہ جو ڈبے اپنی زنجیر اس انجن سے جوڑے ہوئے تھے وہ انجن کے ساتھ چلنے لگے اور اپنی منزل مقصود تک پہنچ گئے اور جو ڈبے ظاہری اتصال رکھتے تھے اپنی زنجیر اس انجن سے نہیں جوڑے تھے، وہ وہیں کے وہیں رہ گئے۔ دوستو! غور کرو ظاہری اتصال کیا کام آیا۔

کوئی ڈبہ پڑوی سے اتر جائے وہ گاڑی ٹوٹ جائے گی
یا جس ڈبہ کا پہیہ باندھ دیا جائے وہ چلنے سے رہ جائے گا
اسی طرح جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے حقیقی تعلق نہ جوڑے
یا حضرت کی ڈالی ہوئی شریعت کی پڑوی سے اتر جائے
یا گناہوں کے بوجھ سے پہیہ بند ہو جائے
وہ ساتھ چلنے سے رک جائے گا، منزل مقصود تک نہیں پہنچ سکے گا

کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ پانی صرف گلاب کی صحبت میں رہ کر عرق گلاب کھلاتا ہے، ہائے آپ نے اس پر نظر نہیں ڈالی کہ پانی کو قرآنیق میں بند ہو کر کس قدر جانا پڑا ہے، تب کہیں جا کر عرق گلاب کھلایا ہے۔

حضرت صلی اللہ علیہ وسلم یا حضرت امام حسین یا حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ عنہما کی محبت کا دعویٰ کرنے والو! مجھ کہو کہ بجز زبانی جمع و خرچ کے عملی طور پر کبھی تم نے محبت کا ثبوت دیا ہے؟ بتاؤ کیا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم یا حضرت امام حسین یا حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ عنہما بے نمازی اور بے روزہ دار تھے، کیا دنیا ملنے کے وقت یہ حضرات خدا اور رسول کے احکام بھول جاتے تھے؟ کیا خدا کے خوف سے بے ڈرت تھے؟

حضرت زین العابدین رحمۃ اللہ علیہ کے آنسو سے پرناہ بہہ رہا تھا، حضرت کے آنسوؤں کا وہ پانی کسی شخص کے جسم پر گرا، اس شخص نے پوچھا کہ پرناہ سے جو پانی گر رہا ہے ناپاک تو نہیں ہے، حضرت جواب دیئے بھائی دھوڑاں، یہ کنہگار کے آنکھ کا پانی ہے، محبت کے دعویدار و بتاؤ وہ گنہگار زیادہ تھے یا ہم ہیں۔

صاحبو! کیوں محبت کو بدنام کرتے ہو، یہ جو ہم کو اور آپ کو محبت کا دعویٰ ہے یہ فطری محبت ہے، انسان کی طبیعت کا تقاضہ ہے کہ جس کے اچھے اوصاف سنتا ہے اس سے خواہ مخواہ محبت ہو جاتی ہے، جیسے رستم کی بہادری کا ذکر سن کر اس سے محبت ہو جاتی ہے۔

ایسی محبت تو کافر سے بھی ہو جاتی ہے، جمن سے کچھ تو تعلق تھا اشائے جنگ میں ہر شخص کا دل اس کی طرف مائل تھا کیا بات تھی اس کے صفات سُن کر خود بخود محبت ہو گئی تھی، یہ محبت معتبر نہیں، ایسی محبت میں کیا کمال ہے۔

خدا اور رسول کی محبت میں مسلمانوں کی یہ حالت ہونا چاہیے۔

زندہ کنی عطا ہے تو اگر آپ زندہ کریں تو یہ آپ کی عطا ہے۔

در بہ کشی فدائے تو اور اگر مارڈا لیں تو ہماری جان آپ پر سے

دل شدہ بتلائے تو قربان ہے، دل آپ کا شیدا ہے۔

ہر چہ کنی رضاۓ تو جو آپ کریں اس پر ہم راضی ہیں۔

محبت ایسی ہونا چاہئے جیسی کہ اشعار میں بیان ہوئی ہے، آج کل یہ بات کہاں ہے۔

فصل ۔ ۷

اطاعت کرنے والے کو جس کی اطاعت کی جا رہی ہے ان سے محبت ہونا ضروری ہے مگر ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تابع داری اور آپ سے محبت کی زبانی دعویدار ہیں۔ اس فصل میں حقیقی محبت اور اس کے ثمرات و فوائد کا بیان ہے۔

اللہ مسلمانوں کے ساتھ کون سے مسلمانوں کے نام کے مسلمانوں کے ساتھ نہیں، ان مسلمانوں کے ساتھ ہے جن میں آئندہ بیان ہونے والی شرطیں پائی جائیں۔

جب تک وہ شرطیں پائی گئیں خدا بھی ان کے ساتھ تھا، ساری خدائی ان کے ساتھ تھی، فرشتے ان کی مدد کے لیے اترتے تھے، مسلمانوں کی خاطر بار بار ان کو حکم ہوتا تھا کہ فرشتوں! مسلمانوں کی ہمت بندھاؤ، ان کو ثابت قدم رکھو، اسی کا اثر تھا کہ سربز سلطنتیں بے سرو سامان مسلمانوں کے ہاتھ میں تھیں۔

جب مسلمانوں نے وہ شرطیں کھو دیں خدا کی نظر عنایت بھی مسلمانوں سے اٹھ گئی، اپنے پرانے ہو گئے۔ سلطنتیں گئیں، عزت گئی۔ اب بھی فرشتوں کو اللہ تعالیٰ بھیجتا ہے، کیوں کافروں سے یہ کہنے کے لئے کہ

يَا يَهَا الْكَفَرَةَ أُقْتُلُو الْفَجَرَةَ - (اے کافرو! قتل کرو فاجروں کو)

اب بھی وقت ہے سنبھلو سنبھلاتے ہیں، ان شرطوں کی پوری پوری پابندی کرو۔

پہلا شرط :-

يَا يَهَا الَّذِينَ أَمْنُوا آتِيْعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ (پ ۹ ع ۳ سورہ الانفال)

(مسلمانو! خدا کا اور رسول کا کہا مانو)

دوسرا شرط :-

وَلَا تَوَلُّوْا عَنْهُ (پ ۹ ع ۳ سورہ الانفال)

(خدا اور رسول کے ارشادات سے منھ مت پھیرو)

ہائے تم تو انسان ہو، جانور تک ان کا حکم مانتے اور بات سنتے تھے۔

حکایت :-

ایک صحابی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوئے اور عرض کئے یا رسول اللہ میرا ایک باغ ہے، میرے یوں بچوں کی گذرا سی پر ہے۔ باغ کے کام کے لئے دو اونٹ ہیں، انھیں سے موٹ چلاتا اور باغ کو پانی دیتا ہوں، خدا جانے کیا ہو گیا ہے کہ وہ دونوں اونٹ اپنے پاس نہیں آنے دے رہے ہیں جو بھی نزدیک جائے اس پر حملہ کرتے ہیں، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم یہ سنتے ہی اٹھے اور اس باغ تک تشریف لے گئے اور فرمائے باغ کا دروازہ کھول دو، ان صحابی نے عرض کیا یا رسول اللہ ﷺ اونٹ بہت بگڑے ہوئے ہیں، حضرت فرمائے مضائقہ نہیں تم دروازہ تو کھول دو، دروازہ کی کھڑکھڑا ہٹ سنتے ہی وہ دونوں اونٹ حملہ کے لیے لپکے۔ الغرض دروازہ کھول دیا گیا۔ سب سے پہلے حضرت ﷺ اندر تشریف لے گئے وہ دونوں اونٹوں کی نظر جب حضور ﷺ پر پڑی، فوراً سامنے آ کر بیٹھ گئے، اور وہ اونٹ سجدہ میں گرے، حضرت ﷺ ان کے سر پکڑے، خدا جانے کیا فرمائے اس کے بعد مالک کے حوالے کر دیئے اور فرمائے ان سے کام لو اور ان کی اچھی طرح خبر گیری کیا کرو۔ یہ جانوروں کی اطاعت رسول ﷺ تھی کہ سرکش اونٹ بالکل زم ہو گئے، جانوروں نے حضرت کی بات سنی، افسوس ہے کہ ہم انسان ہو کر حضرت کی خلاف ورزی کریں۔

ہائے افسوس! اس منھ پر ہم کو رسول اللہ ﷺ کی محبت کا دعویٰ ہے۔ ظاہر ہمیشہ باطن کے تابع ہوتا ہے، قلب میں اگر غصہ ہو تو اس کے آثار ظاہر نمایاں ہو جاتے ہیں، دل میں اگر خوشی ہے تو اس کے آثار بھی ظاہر ہوتے ہیں تو کیا ایک محبت ہی ہے کہ وہ دل میں ہو، اور اس کے آثار ظاہرنہ ہوں۔

دوستو! دلی محبت تو وہ چیز ہے کہ بغیر اعضاء سے ملکے رہ نہیں سکتی، ایک عضو سے نہیں بلکہ سر سے پیر تک ہر ایک عضو سے وہ دل کی محبت ظاہر ہونے لگتی ہے اور یہ ایک موٹی بات ہے، قلب افضل و اشرف ہے، سب اعضاء

اس کے تابع ہیں، جو کیفیت قلب میں ہو، اس کا اثر بال بال میں آنا ضروری ہے، دیکھئے بخار اس حرارت کا نام ہے جو قلب میں پیدا ہوتی ہے اس کا اثر بال بال میں ہوتا ہے یہ نہیں ہو سکتا کہ صرف قلب میں بخار ہو، اعضاء میں اس کا اثر نہ ہو۔

ای طرح یہ بھی ممکن نہیں کہ قلب میں محبت کی آگ ہو اور تمام بدن میں نہ بھڑک اٹھے۔ ہائے یہ کیسی محبت ہے کہ دل میں تو ہے مگر تمام اعضاء خلاف میں ڈوبے ہوئے ہیں، حضور ﷺ جن کی محبت کا دعویٰ ہے ان کے پاؤں نماز میں کھڑے کھڑے سو جھے گئے تھے، آپ کا سر گھنٹوں سجدہ میں رہتا تھا اور آپ کو آخر وقت چلانہیں جاتا تھا، کاندھوں پر ہاتھ دیئے پاؤں گھستیتے مسجد میں تشریف لاتے تھے جن کی محبت کا دعویٰ ہے ان کی حالت یہ تھی۔ ادھر ہمارا سر سجدہ میں نہیں جھلتا، پیر مسجد کی طرف نہیں چلتے پھر بھی محبت کا دعویٰ۔

ہائے ایک بازاری عورت سے محبت ہو جاتی ہے جو وہ کہنے کرنے تیار، چاہے عزت جائے، مال جائے، جائداد جائے مگر اس کی فرمائش پوری ہو، سارے خاندان کا خلاف ہو جائے تو پرواہ نہیں، مگر خلاف نہ ہو تو اس چیل کا جس سے دل لگا ہے، دوستو! یہ ہے دل کی محبت کا اثر۔

عشقِ مولیٰ گے کم از لیلی بود
گوئے گشتن بہر او اوی بود

اللہ کا عشق کیا لیلی کے عشق سے گیا گذر ہوا ہے۔ گیند پھینکنے والے کے لئے جیسا گیند تابع ہو جاتا ہے ایسا ہی جو اللہ کا حکم ہو، اس کے تابع ہو جانا چاہیے۔

اصل یہ ہے کہ محبت ہی کی کمی ہے ہائے اگر محبت ہوتی تو جان و مال سب قربان کرتا حضور جو فرماتے وہ سب کرتا۔ ہائے مسلمانو! حضرت سے محبت نہیں، ارے اپنے جانوں سے بھی محبت نہیں، حکیم اور ڈاکٹر کی بات جس طرح سنتے ہو اور فوراً عمل کرتے ہو، حضرت سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی اتنی بھی وقعت نہیں، وہ حکیم چار پتے کوٹ کر دیئے تو مان لیتے ہو، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو فرمائیں اس کو نہیں مانتے ہو۔

مسلمانو! تم سب کے سب **آسْفَلُ السَّافِلِينَ** میں گرے ہوئے ہو اگر انکی علیمین پر پہنچنا چاہتے ہو تو

ایک کام ضروری ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہے، کیسی محبت، جان سے، مال سے، اہل و عیال سے، سب سے بڑھ کر حضرت کی محبت ہو، ایسی محبت کا اثر یہ ہے کہ انسان آپ کے ہر ارشاد کو مان لیتا اور ہر بات میں آپ کی تابعداری کرتا ہے۔

افسوس مسلمانو! تمہاری حالت بہت خطرناک ہو گئی ہے گوتم منہ سے حضورؐ کی تابعداری سے انکار نہیں کرتے ہو، مگر عملاً تمہارے اطاعت نہ کرنے کی حالت یہ کہہ رہی ہے کہ خدا اور رسول نے یہ سب بکھیرے، نماز پڑھو، روزہ رکھو، زکوٰۃ دو، حج کرو، معاملات درست کرو، اخلاق اچھے کرو، فضول پھیلائے ہیں۔

پہلے زمانہ میں خدا اور رسول کی نافرمانی اس قدر نہیں ہوتی تھی، جس قدر اب ہو رہی ہے، اس وقت بھی عام لوگوں میں سب دین دار نہ تھے مگر اس وقت کے لوگوں میں اور اس وقت کے لوگوں میں فرق یہ ہے کہ اس وقت کے لوگ اپنے آپ کو گنہگار سمجھتے تھے اور اپنے افعال کو دین نہیں سمجھتے تھے۔

اس وقت کے لوگ گناہ کرتے ہیں پھر بھی دین دار کے دین دار اور خود دین کے احکام کے موافق نہیں ہوتے بلکہ اپنے افعال کو دین کے احکام کے موافق کرنے کی کوشش کرتے ہیں، کوئی سود کے حلال کرنے کی فکر میں ہے تو کوئی کہتا ہے نکاح فضول ہے تراضی طرفین کافی ہے ہاں جبرنا ہو۔

ایک اخبار میں چھپا تھا اسلام کی طرف سب جھکتے ہیں مگر اس میں نماز کی ایسی بخش ہے، اس کی وجہ سے لوگ رکتے ہیں، اگر علماء نماز کو اڑا دیں تو پھر بہت لوگ مشرف باسلام ہوتے ہیں۔

ایک صاحب بے وضوء نماز پڑھ لیا کرتے تھے کسی نے کہا کہ جناب بے وضوء، نماز نہیں ہوتی، وہ صاحب جواب دیئے یہ دینی مولویوں کے خیالات ہیں، یہ مولوی غور نہیں کرتے اور دین کی تہہ کو نہیں پہنچتے۔ عرب میں جب اسلام آیا افلas بہت تھا۔ محنت مزدوری سے پیٹ بھرتے تھے میلے کچلے رہتے تھے اس لیے حکم دیا گیا تھا کہ جب نماز پڑھو، منہ ہاتھ دھولیا کرو، اب وہ حال نہیں رہا، ہم روز صحیح کو صابون لگا کر غسل کرتے ہیں، ہم کو بار بار جسم دھونے کی ضرورت نہیں۔

ایسا ہی روزہ بھی، ملک عرب و حشی ملک تھا وہاں بہیمیت زیادہ تھی ان کی اصلاح کے لیے روزہ مقرر فرمایا

میا تھا، ہم کو تہذیب و اخلاق حاصل ہے ہم کو روزہ کی کیا ضرورت ہے۔
لکھنؤ میں مجلس ہوئی تھی مسلمانوں کے تزل کے اسہاب پر غور کیا گیا تھا آخر میں یہ بات معلوم ہوئی کہ
اسلام ہی تزل کا سبب ہے، یہاں تک نوبت پہنچ گئی ہے۔

یوں تو پہلے ہی سے نفس مشقت سے بھاگتا ہے، اس پر باہر سے مذہب پر حملہ ہو رہے ہیں، ادھر
نوجوانوں کی روشن خیالی ہے، ان سب باتوں سے اس قدر حالت بگزگئی ہے کہ اب سنجلنا بہت مشکل ہے، اسی لیے
اللہ تعالیٰ فرماتا ہے :-

أَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَا تَوَلُّوْا عَنْهُ وَإِنْتُمْ تَسْمَعُونَ

(خدا اور رسول کا کہنا مانو، ان کے حکم سے منہ مت پھیرو) (پ ۹ ع ۳ سورہ الانفال)

مسلمانو! تم میں اعتقاد ہے، ہر بات اعتقاد سے سنتے ہو، ایسے ہی اعتقاد کے موافق عمل بھی کرو۔

وَلَا تَكُونُو أَكَالَذِينَ قَالُوا إِسْمِعْنَا وَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ (پ ۹ ع ۳ سورہ الانفال)

نام کے مسلمانوں جیسے مت ہو جاؤ، جو کہتے ہیں کہ ہم سنتے ہیں، حالاں کہ خاک نہیں سنتے، اس لئے کہ
ان میں اعتقاد ہی نہیں جو جی میں آئے کہتے ہیں، بے اعتقاد اور اعتقاد سے سنتے والے دونوں برابر نہیں ہو سکتے۔

إِنَّ شَرَّ الدَّوَآتِ بِعِنْدَ اللَّهِ الْحُكْمُ الْبُكْمُ الْذِينَ لَا يَعْقِلُونَ

(پ ۹ ع ۳ سورہ الانفال)

خلق میں سے بدترین وہ ہیں جو کہ اعتقاد کی بات سنتے نہیں، اور اعتقاد کی کہتے نہیں، حق بات سمجھتے نہیں،
یہ بدترین ہیں، جو اعتقاد کر کر اعتقاد سے سنتے ہیں، اور عمل نہیں کرتے۔ وہ بد سے بدتر ہیں۔

وَلَوْ عِلْمَ اللَّهُ فِيهِمْ خَيْرًا الَا سَمَعَهُمْ (پ ۹ ع ۳ سورہ الانفال)

یہ بے اعتقادوں میں ایک بڑی خوبی کی کمی ہے وہ طلب حق ہے اگر ان میں طلب حق کی خوبی ہوتی تو اللہ
تعالیٰ ان کو حق بات سننے اور سمجھنے کی توفیق دیتا۔

وَلَوْ أَسْمَعْهُمْ لَتَوَلُّوْ أَوْهُمْ مُّعْرِضُونَ (پ ۹ ع ۳ سورۃ الانفال)

جن کو طلب حق نہیں ہے انکو ہم سُوا بھی دیں تو بے کار ہیں، ان کی وہی ہٹ رہے گی اور وہی اعتراض رہے گا۔

مسلمانو! ان لوگوں کو چھوڑو تم کو تو اعتماد ہے، تم اعتماد سے سنتے ہو، جو کچھ سنتے ہو، اس پر عمل بھی کرو، تم کو اطاعت کا جو حکم دیا جا رہا ہے اس میں تمہارا ہی فائدہ ہے تم کو ہمیشہ کی زندگی دینے کے لیے بلا یا جا رہا ہے۔

يَا يٰهَا الَّذِينَ آمَنُوا اسْتَجِبُوْ إِلٰهٖ وَلِلَّرٍ سُولٌ إِذَا دَعَاكُمْ لِمَا يُحِيِّكُمْ ه

(پ ۹ ع ۳ سورۃ الانفال)

مسلمانو! اللہ اور رسول کی بات سنو، ان کا کہنا مانو، وہ تم کو ہمیشہ کی زندگی دینے بلاتے ہیں، سونپو تو اس میں تمہارا فائدہ ہے یا اللہ اور رسول کا۔

حدیث :-

حضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے کچھ لوگ جنگل میں بیٹھے ہوئے تھے، جہاں پانی اور آبادی منزلوں دور تھی، تو شہ ختم ہو گیا تھا، سواریاں مرگئی تھیں، سب کو یقین ہو گیا تھا کہ اب ہم مر جاتے ہیں، ایسے میں ایک شخص پیدا ہوا، اور کہا لوگو کیا حال ہے، ان لوگ نے کہا کیا پوچھتے ہو، مر نے کے قریب ہیں، نہ سواری ہے نہ تو شہ، اس شخص نے کہا آؤ میں تم کو ایک سربراہ مقام کی طرف لے چلتا ہوں جہاں پانی ہے اور طرح طرح کی نعمتیں ہیں، مگر اس شرط سے لے چلتا ہوں عہد واثق کرو کہ میری کسی بات میں نافرمانی نہ کرو گے، وہ تمام لوگ عہد کر لئے وہ شخص ان کو لے کر شاداب مقام میں پہنچا، وہ سب لوگ بہت خوش ہوئے اور وہاں اتر کر نعمتوں کا لطف لینے لگے۔

پھر اس شخص نے کہا لوگو چلو کوچ کرو، سب نے کہا کہاں، اس شخص نے کہا ایسے مقام کی طرف جہاں کے پانی کو وہاں کے پانی سے، وہاں کے باغ کو وہاں کے باغ سے کچھ مناسبت نہیں، وہاں کی ہر چیز وہاں کی ہر چیز سے اعلیٰ ہے وہاں تو چند روز رہنا ہے وہاں ہمیشہ رہو گے، ان میں سے اکثر کہنے لگے ہمارے خیال میں تو نہیں آتا

کہ اس سے کوئی اچھی جگہ بھی ہوگی۔ چند لوگوں نے کہا اس شخص سے نافرمانی نہ کرنے کا عہد کر چکے ہو، اور یہ شخص اپنے پہلی بات میں سچا نکلا ہے اس لئے اس کی یہ دوسری بات بھی مان لو، اس کے ساتھ چلو، کچھ لوگ اس شخص کے ساتھ ہو لئے ہمیشہ کی زندگی اور ہمیشہ کے نعمتوں میں پہنچ گئے اور جو لوگ خلاف کئے وہیں رہ پڑے ان کو دشمن لوٹ لئے اور قتل ہوئے اور قید کئے گئے۔

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تشریف لانے سے پہلے جو انسانوں کی حالت تھی، وہ بد سے بدتر ہو گئی تھی، عقائد خراب، معاملات خراب، عبادتوں کا نام نہیں، سب تباہ ہو کر دوزخ کے قریب پہنچ گئے تھے اور محتاج اور مغلص تھے، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے، انسان جو تباہ ہو رہا تھا اس کو بچانے کے لیے نصیحت فرمائے کہ تم یہ خدا کی نافرمانی کی وجہ سے تباہ ہو رہے ہو، آؤ میری بات سنو، میرے کہنے کے موافق عمل کرو، پھر دُنیا تمہاری ہے، سارا ملک تمہارا ہے تو حضرت کے کہنے کے موافق عمل کئے۔ وہ وہ فتوحات ہوئے، ساری دُنیا ان کے زیر نگیں ہو گئی جس کی تاریخ شاہد ہے، جب دُنیا میں پھنس کر پھر تباہ ہونے کے قریب ہو گئے تھے، حضور نے فرمایا دُنیا میں پھنسے مت رہو، اور دُنیا کے ساتھ آخرت کی بھی تیاری کرو، اب میں تم کو اس سے بہتر باغ بہار میں اور نعمتوں میں لے چتا ہوں، جس کو جنت کہتے ہیں وہ دلاتا ہوں کچھ تو حضور کی بات سن کر آپ کے حکم کے موافق عمل کر کے جنت اور اس کی نعمتوں کو حاصل کئے۔ کچھ حضور کی بات نہ سن کر دُنیا ہی میں پھنسے رہے، شیطان کو موقع مل گیا۔ وہ طرح طرح کے نافرمانیاں کرایا تو یہ دوزخ کے مستحق ہو گئے۔

اتباع کرنے والے لوگوں کو جو حیاتِ جاودہ میں اس کے اثرات دُنیا ہی میں ظاہر ہونے لگے مثلاً:-

حکایت :-

حضرت زید رحمۃ اللہ علیہ ایک خچر کرایہ پر لئے، خچر کا مالک بد ویہ شرط کیا کہ جہاں جہاں مجھے کام ہوگا وہاں ٹھیک رہا چلوں گا۔ حضرت زید اس شرط کو منظور کر لئے، وہ بد و تھوڑی دور چل کر راستہ چھوڑا، اور ایک ویران گلگھ لے جا کر کھڑا کر دیا اور کہا یہاں اترو، آپ وہاں اترے، اس مقام پر ہزاروں لاشیں پڑی ہوئی تھیں، وہ لاشیں ان کی تھیں جن کو اس بد و نے اسی دھوکے سے لا کر قتل کیا تھا اور مال چھین لیا تھا۔ الغرض وہ بد و جب حضرت

زید کے قتل کے لئے بھی پہنچا۔ حضرت زید فرمائے اتنی مہلت دے کہ دور کعت نماز پڑھ لوں، اس بدو نے کہا رب ایسی ہی نماز پڑھے لیکن کسی کی بھی جان نہ پنجی، حضرت زید ”نیت کئے اور نماز شروع کر دیئے، آپ سجدہ میں تھے وہ بدو قتل کے لئے دوڑا، آپ فرمائے ”يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ“ یا کا یک دور سے آواز آئی خبردار قتل نہ کرنا بدوبیہ آوازن کر ادھر ادھر دیکھا کوئی نظر نہ آیا، پھر آپ يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ فرمائے پھر وہی آواز آئی وہ بدو پھر رکا۔ تیسرے مرتبہ ایسا ہی ہوا یا کا یک ایک سوار بر چھالئے پہنچا، آتے ہی اس بدو کو قتل کر دیا، حضرت زید فرماتے ہیں کہ وہ سوار میرے پاس آیا اور کہا آپ پہلی بار جب يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ کہے تو میں ساتویں آسمان پر تھا، دوسری دفعہ جب آپ يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ کہے آسمان دُنیا طے کر چکا تھا۔ تیسری دفعہ آپ کے کہنے کے ساتھ ہی دُشمن تک پہنچا، اب آپ جائیے ارحم الراحمین نے آپ کی جان بچا دی ہے۔ یہ ہے غبی تائید جو نیکوں اور خدا اور رسول کے حکم ماننے والوں کو پہنچتی ہے۔

”وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَحُولُّ بَيْنَ الْمَرْءِ وَقَلْبِهِ (پ ۹ ع ۳ سورہ الانفال)
اللہ تعالیٰ آدمی اور اس کے دل کے درمیان حائل ہے۔

اللہ تعالیٰ کا قاعدہ ہے جس میں طاعت ہے، اس میں کفر اور معا�ی نہیں آنے دیتا اور جس میں مخالفت ہے تو اس میں ایمان اور نیکیاں نہیں آنے دیتا۔

حکایت :-

بنی اسرائیل میں ایک بڑے عابد تھے، ایک عبادت خانے میں ہمیشہ يادِ الہی میں رہتے تھے، قاعدہ ہے جب بندہ خدا کا ہو جاتا ہے تو خدا بھی اس کا ہو جاتا ہے، خدائے تعالیٰ نے ان عابد کے لئے ایک انگور کی بیل اگاہ دی تھی، اور پانی کا چشمہ پاس ہی نکل آیا۔ انگور کھاتے اور پانی پیتے، خدا کی ياد میں رہتے، مخلوق کی کچھ پرواہ نہ رکھتے۔ ایک عورت نہایت حسین و جمیل ایک روز وہاں آئی اور بہت عاجزی سے کہی بستی دور ہے اگر اجازت ہو تو رات کی رات یہاں پڑی رہوں، عابد اجازت دیئے، وہ عورت رات کے وقت عابد سے جماع کی خواہش

کی تھی کہ نگنی ہو کر سامنے آئی، ہر طرح عابد کو اپنی طرف مائل کرنا چاہی مگر اس خدا کے دوست نے کسی بات کی طرف خیال نہ دوڑایا۔

آنَ اللَّهُ يَحُولُّ بَيْنَ الْمَرْءِ وَقَلْبِهِ (پ ۹ ع ۳ سورہ الا انفال)

(خدا بندہ کے اور اس کے دل کے بینج میں ہے)

عابد کو طاعت کی دھن تھی، اس لئے اللہ تعالیٰ معصیت کو قلب عابد تک نہ آنے دیا۔

پھر عابد اپنے نفس کو سمجھا تارہا، اے نفس تجھ کو زانی کی سزا معلوم ہے، اس کی پیشانی پر لکھا جاتا ہے۔

"آنَهُ عَائِسٌ" مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ " (زانی خدا کی رحمت سے مایوس و نا امید ہوتا ہے)

پھر عابد اپنے نفس کو دوزخ کے المناک عذاب سے ڈرا تارہا اور آخری عملی تدبیر یہ کئے کہ چراغ میں تیل ڈال کر موٹی بتنی لگائے، جب چراغ بھڑ کا اس پر انگلی رکھ دیئے اور کہہ اے نفس ستر پانی سے دھوئی ہوئی یہ آگ ہے اس کی برداشت نہیں ہو سکتی، دوزخ کے آگ کی برداشت کیسے کر سکے گا۔

ادھر داروغہ آگ کو اللہ تعالیٰ کا حکم ہوا، آگ لپکی، عابد کے ہاتھ کو جلا کر خاک کر دی، یہ واقعہ دیکھ کر عورت جنمی اور جان دے دی، صبح کو عابد دفن و کفن کی فکر میں تھے شیطان نے تمام شہر میں مشہور کر دیا کہ فلاں عابد عورت سے زنا کیا، اور افشاء کے خوف سے قتل کر ڈالا۔ بادشاہ خود آیا، عورت مری پڑی ہوئی دیکھ کر اس کو قتل کا یقین ہو گیا۔ بادشاہ نے عابد کے سر پر آرھ رکھ کر چیرنے کا حکم دے دیا۔ جب آرہ چلنے لگا، عابد کے منھ سے آہ نکلی، جب تک علیہ السلام کو حکم ہوا کہ ہمارے بندہ عابد سے کہو کہ تو نے اپنی اس دردناک آہ سے حاملان عرش اور آسمانوں پر کے رہنے والوں کو رلا دیا۔ میری عزت کی قسم! اگر تو دوسرے دفعہ آہ کیا تو آسمان کو زمین پر پٹک دوں گا، عابد سمجھے رضاۓ الہی ایسی ہی ہے صبر کئے اور راضی برضاۓ الہی رہے، جب عابد چیر دیئے گئے، اس مردہ عورت نے سارا قصر سنایا۔ سکھوں نے بہت پچھتا یا، مگر اب پچھتنا نے سے کیا ہوتا ہے۔ عابد اور اس عورت کے لئے ایک ہی قبر کھو دی گئی، اس میں مشک کی بونکل رہی تھی، الغرض جب ان کو دفن کرنا چاہے تو آسمان سے آواز آئی ٹھیروتا کہ ہمارے نیک بندہ پر فرشتے نماز پڑھ لیں۔

فصل سے

اللہ تعالیٰ نے اپنی مرضی کے موافق چلنے کے لئے انسان کو اس کی عقل پر نہیں چھوڑا بلکہ واضح احکام دیا اور ان احکام پر عمل کرنے نمونہ بھی دیا۔

حضرور صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لئے نمونہ ہیں۔ اس فصل میں حضور کے نمونہ ہونے کا تفصیلی بیان ہے۔

لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ "مِنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ" عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ "عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَّحِيمٌ" . فَإِنْ تَوَلُّوْ افْقُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَهُوَ رَبُّ رَءُوفٍ

(لوگ) تمہارے پاس تم ہی میں سے ایک پنیبرا آئے ہیں، تمہاری تکلیف ان کو گراں معلوم ہوتی ہے تمہاری بھلانی کے بہت خواہش مند ہیں اور مومنوں پر نہایت شفقت کرنے والے (اور) مہربان ہیں، پھر اگر یہ لوگ پھر جائیں (اور نہ مانیں) تو کہد و کہ خدا مجھے کفایت کرتا ہے اس کے سوا کوئی معبد نہیں، اسی پر میرا بھروسہ ہے اور وہی عرش عظیم کا مالک ہے۔)

اللہ تعالیٰ کو اپنے بندوں پر کس درجہ رحمت ہے اور کتنی محبت ہے کہ ہماری تربیت کے لئے وہ انداز، وہ طریقہ اختیار فرمایا جیسا شفیق باپ اپنے بچہ کے ساتھ کرتا ہے۔

ہمارے فائدہ کے لئے ہم کو اپنی راہ پر لگانے کیلئے ایسا بہلاتا ہے جیسے کوئی بچوں کو کام لینے کے لئے بہلاتا ہے۔

اولیاء اللہ بھی ایسے ہی تدبیروں سے اصلاح کرتے ہیں۔

دکایت :-

حضرت شیخ فرید شکر گنج رحمۃ اللہ علیہ کے ایک مرید کو حضرت کی ایک باندی کے ساتھ محبت ہو گئی، حضرت شیخ فریدؒ کو اس کی جب خبر ہوئی تو حضرت نے ان کونہ ملامت کی اور نہ خفا ہوئے بلکہ تدبیر یہ کئے کہ اس باندی کو مسہل کی دوا پلا دیئے، اور جو دست آئے وہ سب ایک طشت میں جمع کرادیئے۔ دست آنے سے اس باندی کا رنگ دروغن جاتا رہا۔ اس کے بعد اس باندی کے ہاتھ اس مرید کے پاس کھانا بھیجے، اس مرید کو اس باندی سے نفرت ہو گئی، اس کی طرف توجہ تک نہ کئے، پھر حضرت نے مہتر سے کہا کہ وہ نجاست لائے، وہ نجاست لائی گئی، حضرت اس مرید سے فرمائے، باندی تو وہی ہے، اس میں سے صرف نجاست کم ہو گئی ہے، اب تم کو اس باندی سے محبت نہ رہی، معلوم ہوا کہ تمہارا محبوب باندی نہیں تھی یہ نجاست تھی، کیسے افسوس کی بات ہے کہ تم محبوب حقیقی کو چھوڑ کر اس نجاست سے دل لگائے تھے وہ مرید ایک چیخ مارے اور توبہ کئے۔

ایسے ہی تدبیروں سے خدا نے تعالیٰ بھی اپنے بندوں کو اپنی طرف بلاتا ہے۔

صاحب! آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تابع دار بنانا اللہ تعالیٰ کو منظور ہے، تابع داری بارہوہی ہے، اس لئے ایسے ذہب سے آپ کو حضرت کے تابع داری کرنے کا حکم دیتا ہے کہ تابع داری بار نہ ہو۔

اس کی ایسی مثال ہے کہ کوئی مہمان آرہا ہو، اور قرینہ سے یہ معلوم ہو کہ اس مہمان کا آنا میزبان کو گراں اور بار ہے تو کہتے ہیں تم کو خبر بھی ہے کہ تمہارے پاس کون آرہا ہے؟ تمہارے یہاں وہ شخص آرہا ہے جو تم کو ہمیشہ روپیہ بھیجا تھا، اور وہ بڑی شان والا ہے، تمہارے تقدیر اچھے جو وہ آرہا ہے ورنہ وہ کیا آتا، اور تم اس پر عاشق بھی تو ہو، اس سے سننے والوں کو بے اختیار محبت اور تابع داری کا شوق پیدا ہوتا ہے۔

ایسا ہی اللہ تعالیٰ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے تشریف لانے کی خوش خبری دیتا ہے، اور حضرت کے ایسے اوصاف بیان فرماتا ہے جس سے بے اختیار آپ کو حضرت سے محبت پیدا ہو جائے اور آپ حضرت کے تابع دار بین۔ خدا نے تعالیٰ کو اس کا حق حاصل تھا کہ آپ کو آپ کی رائے پر اور عقل پر چھوڑ دیتے اور پھر غلطیوں پر موافذہ فرماتے۔

آپ کا اور ہمارا یہ مشاہدہ ہے کہ دنیا میں نوکروں سے کہا جاتا ہے کہ ہمارے اشاروں پر چلو، اگر کبھی نوکروں سے اس کے خلاف ہو جاتا ہے تو باز پرس کرتے ہیں کہ تم نے ہمارے اشاروں کو کیوں نہیں سمجھا۔ باوجود ایک قلیل معاوضہ کے جب ہم کو یہ حق ہے تو کیا خدائے تعالیٰ کو یہ حق نہ تھا کہ ہم کو ہمارے عقل پر چھوڑ دیتے اور گناہوں پر موافذہ کرتے۔

اگر ایسا کرتے تو کیسی سخت مصیبت ہوتی، اس لئے ہماری عقل خدائے تعالیٰ کے مرضیات و نامرضیات کو معلوم کرنے کے لئے کافی نہیں ہے۔

اللہ تعالیٰ کا کتنا بڑا احسان ہے کہ بجائے عقل پر چھوڑنے کے تمام احکام صاف صاف بیان فرمایا۔ ایک وقت نہیں دو دو تین تین مرتبہ بیان فرمایا۔ بیان بھی اس طور سے نہیں فرمایا کہ کوئی پرچہ بھیج دیتے کہ اس کے پڑھنے اور سمجھنے اور عمل کرنے میں وقت ہوتی، بلکہ عجیب فطرت کے موافق طریقہ اختیار کیا۔

اپنی مرضی کے باقی معلوم کرنے ایک ذات مقدس کو نمونہ بنائے بھیجا۔ خدائے تعالیٰ کو ہم سے کس قدر محبت ہے کہ اس نمونہ کو رحمتِ عالم بنائے بھیجا۔ اے پیروی کرنے والو! بغیر اس واسطہ کے تم سینکڑوں ٹھوکریں کھاتے، اب آنکھ مونچ کر اس نمونہ کے موافق چلو، اور خدا تک پہنچ جاؤ۔

انسانی طبیعت کا کہاں تک لحاظ کیا گیا ہے کہ انسان بغیر نمونہ کے کمال حاصل نہیں کر سکتا۔ انسان اور جانور میں یہی فرق ہے کہ جانور کو کمال حاصل کرنے کے لئے نمونہ کی ضرورت نہیں، یہی وجہ ہے کہ مجھلی کا بچہ پیدا ہوتے ہی تیرنے لگتا ہے۔ بخلاف اس کے ایک بڑے سے بڑے تیراک کا بچہ تیراک نہ ہو گا جب تک نہ سکھایا جائے اور نمونہ نہ دکھایا جائے۔ یہی وجہ ہے کہ کتابوں کی تعلیم سے اتنا نفع نہیں ہوتا جتنا کسی کامل کی صحبت سے ہوتا ہے۔

اسی واسطے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نمونہ بنائے بھیجا گیا۔ بعضوں نے حضرت کو اپنی آنکھوں سے دیکھا اور بعضوں نے حضرت کی سیرت کو دیکھا۔ سیرت کا دیکھنا بھی یعنی حضرت کو دیکھنا ہے۔

اس نمونہ کی موجودگی میں اب ہم کس آسانی کے ساتھ خدائے تعالیٰ کے مرضیات پر چل سکتے ہیں، غور سمجھئے کہ ہم پر خدائے تعالیٰ کی کیا عنایت اور کیا محبت ہے۔

باوجود اس آسانی کے پھر بھی اگر کوئی کم نصیب تابع داری نہ کرے تو کس قدر سخت باز پرس ہوگی۔ حکم ہوگا ارے ظالم ہماری اتنی آسانی کی تو کچھ قدر نہ کیا اور اس نمونہ کے موافق بن کر نہ آیا۔

اس کی مثال ایسی ہے جیسے کہ ہم کسی درزی کو شیر و انی کا کپڑا دیں اور نمونہ کے لئے اپنے جسم کی شیر و انی بھی دیں اور کہیں کہ اس نمونہ کے موافق کاٹ اور سلامی رہے، شیر و انی تیار ہو جانے کے بعد نمونہ کے موافق نہ رہے، اس میں فرق ہو جائے تو آپ درزی پر کس قدر خفا ہوں گے، آپ کی خفگی پر اگر درزی کہے کہ شیر و انی میں بکچھ تو برابر ہے، صرف چھاتا ذرا ڈھیلا ہو گیا ہے اور آستین چھوٹے ہو گئے ہیں، آپ کہیں گے کہ ارے کم جنت تو نے تو میرا پورا کپڑا خراب کر دیا۔

غرض کہ جو برتاوا آپ درزی سے کریں گے وہی برتاوا خدائے تعالیٰ سے پانے کے لئے تیار ہو جائے، اس منظر کو پیش نظر رکھئے کہ جب آپ خدائے تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہوں گے اور نمونہ نبوی کے موافق نہ اتریں گے۔ خیال کیجئے کہ اس وقت خدائے تعالیٰ کس قدر غضیناً ک ہوگا۔
اسی لئے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے :-

لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ (پ ۲۱ ع ۳ سورہ الحزاب)
(بالکل اس نمونہ کے جیسے بن جاؤ)

نماز ایسی ہی ہو جیسی حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تھی۔

روزہ بھی ویسا ہی ہو جیسا کہ حضرت کا تھا۔

الغرض ہر چیز اسی طرز کی ہو جیسی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرز تھی۔

قبر میں حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یا حضرت کی تصویر کو اس لئے دکھایا جاتا ہے کہ دیکھو یہ نمونہ ہے، ذرا اپنے آپ کو اس نمونہ سے ملا کر انصاف کرو کہ کیا تم اس نمونہ کے موافق ہو، بس اس پر قبر کا تصفیہ ہے اگر نمونہ کے موافق ہیں تو آرام و چین ہے اگر نمونہ کے موافق نہ اترے تو عذاب ہی عذاب ہے۔

صحابہ رضی اللہ عنہم نے نمونہ کے موافق ہو کر دکھایا، ایک مرتبہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کثورے میں سے کدو

کے نکڑے تلاش کر کے تناول فرمائے تھے، ایک صحابی جب حضرت کے اس عمل کو دیکھئے تو اس کے بعد سے خود بھی کنورے سے کدو کے نکڑے تلاش کر کے کھانے لگے، وہی صحابی فرماتے ہیں اس واقعہ کے بعد سے مجھے کدو سے محبت ہو گئی۔

لوگو تمہارا کدھر خیال ہے۔

لَقَدْ جَاءَ كُمْ (پ ۱۶ سورہ التوبہ) (نمونہ تمہارے پاس آگیا)

یہ وہی نمونہ ہے اور یہ وہی نور ہے جو سب کائنات سے پہلے پیدا ہوا تھا۔ عالم ارواح میں اس نور کی تربیت ہو رہی تھی، آخر زمانہ میں اس امت کی خوش نصیبی سے جسم عضری میں جلوہ گر ہو کر تمام عالم کو منور کرنے کے لئے **لَقَدْ جَاءَ كُمْ** رسول بن کرآ گیا۔ صاحبو! اس رسول کی اتباع کرو۔

اس ہادی کی تابع داری آسان ہوتی ہے جس کے ہم پر احسان ہوں، اور اس سے محبت ہو، اور وہ عظمت اور شانِ والا ہو، اس لیے اللہ تعالیٰ اب حضور کی ایسی صفتیں بیان فرماتا ہے جس سے یہ تینوں باتیں ثابت ہوں۔

فصل - ۸

اس فصل میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان و عظمت بیان کی جاتی ہے اور یہ بھی ظاہر کیا جاتا ہے کہ دیگر انبیاء علیہم السلام اور حضور کی شان و عظمت میں کیا فرق ہے، تاکہ حضور کی اطاعت کرنے والے پر آقائے نامدار صلی اللہ علیہ وسلم کی قدر و منزلت ظاہر ہو، اور اتباع کا شوق بڑھے۔

لَقَدْ جَاءَ كم رَسُولٌ (پ ۱۶ سورہ التوبہ)

عربی قاعدہ کے لحاظ سے "الرسُولُ" لفظ رسول کو الف-ل- کے ساتھ کہنا چاہیے تھا۔ بجائے اس کے صرف رَسُولُ" بغیر الف-ل- کے ارشاد ہو رہا ہے، عربی کا یہ بھی ایک قاعدہ ہے کہ جس کلمہ پر الف-ل- نہ ہو تو اس کلمہ پر تنوین آتی ہے اور اس تنوین کے معنے عظمت کے ہوتے ہیں۔

اللہ تعالیٰ لفظ رَسُولٌ پر الف۔ لام نہ لا کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت ظاہر کرتا ہے۔

”لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ“ ”لوگو! تم کو کچھ خبر ہے کہ ایک عظیم الشان رسول آگیا جس کا وجود، افضل الموجودات، جس کی روح، تمام پاک ارواح سے مطہر جس کا قبیلہ و خاندان افضل القبائل، جس کی زبان تمام زبانوں میں بہترین زبان یعنی عربی، جس کی کتاب تمام الہی کتابوں میں بہترین کتاب یعنی قرآن مجید جس کی آل بہترین آل انبیاء، جس کے اصحاب بہترین اصحاب انبیاء، جس کا زمانہ سب زمانوں سے بہتر، جس کا روضہ منور بـ مکانوں سے بہتر، حتیٰ کہ عرش سے افضل، ایک وقت سفر میں صحابہ کو ضرورت تھی تو آپ کی انگلیوں سے پانی بہا، وہ انگلیوں کا پانی افضل سب پانیوں سے حتیٰ کہ زم زم سے بھی

حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور دیگر انبیاء کی عظمت کا تقابل :-

حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہ عظیم الشان نبی ہیں کہ تمام پیغمبر دنیا سے جانے کے بعد ان کے آثار ختم ہو جاتے ہیں، اور ہمارے نبی کے آثارِ قیامت تک باقی رہیں گے، تمام انبیاء طالبِ رضا حق ہیں۔

وَعَجِلْتُ إِلَيْكَ رَبِّ لِتَرْضِي ۝ (پ ۱۶ ع ۳ سورہ طہ)

موئی علیہ السلام اپنی امت کے منتخب لوگوں کو لے کر کوہ طور کی طرف چلے، سب لوگوں کو پیچھے آتے ہوئے چھوڑ کر آپ جلد کوہ طور پر پہنچ گئے، اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہوا۔ اے موئی سب کے ساتھ کیوں نہیں آئے، جلدی آئے کیا وجہ ہے، موئی علیہ السلام عرض کئے۔ اے اللہ میں جلدی اس لئے آیا ہوں تاکہ آپ میرے سے راضی ہو جائیں، اس سے معلوم ہوا کہ پیغمبر چاہتے تھے کہ اللہ تعالیٰ کو اپنے سے راضی کریں بخلاف ہمارے نبی کے کہ اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ یہ نبی اللہ تعالیٰ سے راضی ہو جائے۔ اس لئے فرماتا ہے :-

وَلَسَوْفَ يُعْطِيْكَ رَبُّكَ فَتَرْضِي ۝ (پ ۳۰ ع ۱ سورہ لطفی)

اے نبی ہم آپ کو وہ وہ چیزیں دیں گے کہ آپ ہمارے سے راضی ہو جائیں۔ تمام انبیاء خدا کی قسم کھاتے تھے، ہمارے نبی کی خدا خود قسم کھاتا ہے۔

لَعْمُرُكَ (اے بنی آپ کے عمر کی قسم)

نبی تو کیا اللہ تعالیٰ ہمارے نبی کے متعلقات کی بھی قسم کھاتا ہے کیوں کہ پیارے کی ہر چیز پیاری ہوتی ہے۔ مثلاً:

وَالْعَصْرِ (پ ۳۰ ع ۱ سورہ العصر)

(جس زمانہ میں آپ ہیں اس زمانہ کی قسم)

لَا أَقْسِمُ بِهَذَا الْيَلِدِ وَأَنْتَ حَلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ (پ ۳۰ ع ۱ سورہ البلد)

میں اس شہر مکہ کی قسم کھاتا ہوں، جس میں آپ تشریف رکھتے ہیں۔

موئی وہارون علیہما السلام جیسے اواعزم پیغمبروں کو حکم ہوتا ہے۔

فَقُولَا لَهُ قَوْلًا لِّيَنَا (پ ۱۶ ع ۲ سورہ طہ)

موئی وہارون، جب تم فرعون کے پاس جائیں تو فرعون کو بہت نرمی سے سمجھانا اور یہ نبی کے کچھ ایسے اخلاق ہیں کہ:-

إِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ (پ ۲۹ ع ۱ سورہ القلم)

اے بنی آپ بہت وسیع اخلاق کے ہیں فرمایا

وَأَغْلُظُ عَلَيْهِمْ (پ ۱۰ ع ۱۰ سورہ التوبہ)

اے نبی! اس قدر نرمی بھی کیا، کفار و منافقین پر کچھ تو سختی سمجھے کا حکم دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ تمام پیغمبروں کو ان کے نام سے پکار رہے ہیں جیسے:-

يَا مُوسَىٰ يَا عِيسَىٰ (اے موسیٰ، اے عیسیٰ)

ہمارے عظیم الشان پیغمبر کو کوئی نہ کوئی صفت سے پکار رہا ہے، جیسے:

يَا يَهَا الْمُرْءِمُ (پ ۲۹ ع ۱ سورہ المزمل)

(اے نبی وہ جو کمبل اوڑھے ہوئے ہیں)

يَا يَهَا الْمُدَثِّرُ (پ ۲۹ سورہ المدثر)

(اے وہ نبی جو قادر اور ہے ہوئے ہیں)

يَا يَهَا النَّبِيُّ (پ ۲۱ ع ۴ سورہ الاحرار)

(اے وہ نبی)

اگر کبھی نام لیا بھی ہے تو اس سے ایک عظمت پیکتی ہے :-

مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ (پ ۳۰ ع ۴ سورہ الفتح)

(محمد اللہ کے رسول ہیں)

تمام پیغمبروں کو ان کی امت جب مُرا بھلا کہتی تھی تو وہ خود ہی جواب دیتے تھے جیسے قومِ نوح کہتی ہے:-

إِنَّالنَّرَئِكَ فِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ ۝ (پ ۸ ع ۸ سورہ الاعراف)

(اے نوح تم کھلی گمراہی میں ہو)

نوح علیہ السلام فرماتے ہیں :-

يَقَوْمٌ لَيْسَ بِيْ ضَلَالَةٍ (پ ۸ ع ۸ سورہ الاعراف)

(اے میری قوم میں گراہ نہیں ہوں)

قومِ حود کہتی ہے :-

إِنَّالنَّرَئِكَ فِي سَفَاهَةٍ (پ ۸ ع ۹ سورہ الاعراف)

(اے حود ہم سمجھتے ہیں تم بیوقوف ہو)

حود علیہ السلام جواب دیتے ہیں :-

يَقَوْمٌ لَيْسَ بِيْ سَفَاهَةٍ (پ ۸ ع ۹ سورہ الاعراف)

(اے میری قوم میں بیوقوف نہیں ہوں)

فرعون موسیٰ علیہ السلام کو کہتا ہے :

إِنَّى لَا ظُنْكَ يَمُوْ سِيْ مَسْحُورًا (پ ۱۰ ع ۱۲ سورہ بنی اسرائیل)
 (اے موسیٰ معلوم ہوتا ہے کہ تم پر کسی نے جادو کیا ہے، جب ہی تم ایسی باتیں کرتے ہو)
 موسیٰ جواب دیتے ہیں :

وَأَنَّى لَا ظُنْكَ يَفْرَعُونُ مَثْبُورًا (پ ۱۵ ع ۱۲ سورہ بنی اسرائیل)
 (اے فرعون نہیں نہیں، میں سمجھتا ہوں تو ہلاک ہونے والا ہے جب ہی تجھ کو یہ سوجھ رہا ہے)
 ہمارے عظیم الشان بنی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب کفار بے سمجھی سے کہتے ہیں :-

مَا أَظْنَكَ إِلَّا ضَالًا

(یا محمد ہم سمجھتے ہیں کہ تم گمراہی میں ہو)

حضرور اس کا کچھ جواب نہیں دیتے بلکہ دوسری جگہ اللہ تعالیٰ وہ بھی قسم کھا کر فرماتا ہے :-
وَالنَّجْمٌ إِذَا هُوَى ۝ مَا أَضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَى (پ ۲۷ ع ۳ سورہ النجم)
 (قسم ہے تارے کی جب وہ گرتا ہے، کافروں تھارے پاس جو نبی آئے ہیں وہ گمراہ ہیں نہ بھکے ہوئے ہیں)
 ایک خالم حضرت کو مجنون کہا۔ اس کے جواب میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے۔

نَ وَالْقَلْمَ وَ مَا يَسْطُرُونَ مَا أَنْتَ بِنِعْمَةِ رَبِّكَ بِمَجْنُونٌ (پ ۲۹ ع ۱ سورہ القلم)
 (نوں اور قلم کی قسم اور جو لکھا جاتا ہے اس کی قسم، کفار کیا بولیں گے آپ ہرگز مجنون نہیں ہیں)
 کسی کافرنے حضرت کو شاعر و کاہن کہا تھا، حضرت کچھ نہیں کہے، حضرت کی طرف سے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے
وَمَا هُوَ بِقَوْلِ شَاعِرٍ وَلَا بِقَوْلِ كَاهِنٍ (پ ۲۹ ع ۲ سورہ الحاقة)
 (کافروں خوب سوچو، یہ شاعر کا قول نہیں ہے، کاہن کا قول نہیں ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا قول ہے جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے ظاہر ہو رہا ہے)

ایک کافر نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں ساحر کہا :-

إِنْ هَذَا إِلَّا سِحْرٌ يُؤْثِرُ (پ ۲۹ ع ۱ سورہ المدثر)

(یہ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا جادو ہے)

اللہ تعالیٰ اس کافر کو اس کی دس بُری صفتوں سے جو اس میں تھے اظہار کر کے فرماتا ہے :-

كُلَّ حَلَافٍ مَهِينٍ هَمَازٍ مَسِاءٍ بِنَمِيمٍ هَمَاعٍ لِلْخَيْرِ مُعْتَدِّ أَثِيمٍ هَعْتَلٍ

بَعْدَ ذَلِكَ رَنِيمٍ - (پ ۲۹ ع ۱ سورہ القلم)

بہت فسیس کھانے والا، بے وقعت، طعنہ دینے والا، چغلیاں لگاتا پھرنے والا، لوگوں پر آوازیں کرنے والا، نیک کام سے روکنے والا، حد سے گذرنے والا، گناہوں کا کرنے والا، سخت مزاج اس کے علاوہ حرام زادہ۔

ایک ظالم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو گستاخی سے جب آپ کے صاحبزادے کا انتقال ہو گیا تو "آبتر" (یعنی مقطوع النسل یعنی کوئی ان کے بعد نام لیوانہ رہے گا) کہا تھا تو اللہ تعالیٰ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دیتے ہوئے دشمن کو آبتر اس طرح کہتا ہے۔

إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الَا بُتَرُ ه (پ ۳۰ ع ۱ سورہ الكوثر)

(اے نبی آپ کے نام لیوا تو کروڑوں قیامت تک رہیں گے آپ کا دشمن مقطوع النسل ہے اس کا نام لیوانہ رہے گا۔)

اللہ تعالیٰ تمام پیغمبروں کو جو کچھ دیا دعا کے بعد عطا فرمایا، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو بغیر دعاء کے اچھی اچھی چیزوں جن چن کر دیا، ان اچھی اچھی چیزوں کی تفصیل یہ ہے :-

(۱) جہت میں کعبہ.....فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ (پ ۲ ع ۱ سورہ البقرہ)

(نماز میں اپنا منہ مسجد حرام کی طرف کر لیا کرو)

- (۲) اپنی صفات میں سے صفت عطا..... یُعْطِنِ عَطَاءً لَا يَخْفَى الْفَاقَةَ
 (حضر اس کثرت سے خیرات اور عطا میں دیتے ہیں کہ خود کے لیے فاقہ اور محتاجی کا کوئی خوف
 نہیں رکھتے ہیں)
- (۳) عبادت میں جہاد..... جَاهَدَ الْكُفَّارَ (پ ۱۰ ع ۱ سورہ التوبہ)
 (جہاد کرو کافروں سے)
- (۴) مقامات میں سے مقام محمود..... عَسَىٰ أَنْ يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مُقَاماً مَحْمُودًا
 (پ ۱۵ ع ۹ سورہ بنی اسرائیل) (قیامت کے دن ضرور آپ کو آپ کا رب مقام محمود عطا کرے گا)
 جہاں آپ کھڑے رہ کر اللہ تعالیٰ کی ایسی تعریف کریں گے نہ کوئی انسان کیا اور نہ آپ کبھی کئے، جس
 کے صدر میں آپ کو شفاعت کبریٰ کی اجازت دی جائے گی۔
- (۵) ناموں میں سے نام محمد وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ (پ ۷ ع ۱۵ سورہ آل عمران)
- (۶) احوال میں سے حالتِ عشق..... يُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّونَهُ (پ ۶ ع ۸ سورہ المائدہ)
 (اللہ ان سے محبت کرتا ہے تو وہ اللہ سے محبت کرتے ہیں)
- (۷) دنوں میں سے جمعہ کا دن
- (۸) شب میں سے شبِ قدر
- (۹) بلد (شہروں) میں سے مکہ مکرمہ
- (۱۰) مہینوں میں سے ماہِ رمضان
- (۱۱) از پیراں بوڑھے جان شاروں میں حضرت ابو بکر گودیا۔
- (۱۲) از کہوں ادھیڑ جان شاروں میں سے حضرت عمر۔
- (۱۳) از اغنيةاء غنی جان شاروں میں سے حضرت عثمان کو دیا۔

- (۱۳) افزٹی جان شار جوانوں میں سے حضرت علیؑ کو دیا۔
- (۱۴) از بنا ت صاحبزادوں میں حضرت فاطمہؓ جیسی صاحبزادی دیا
- (۱۵) از ذریات ذریات میں سے حضرت امام حسنؑ و حضرت امام حسینؑ جیسی پاک ذریت دیا۔
- (۱۶) کتاب کتابوں میں سے قرآن دیا جو آسمانی کتابوں میں اس کی نظیر نہیں۔
- (۱۷) از ملیل دینوں میں سے جو بہتر ہے دینِ اسلام وہ دیا
- (۱۸) از کوہ پہاڑوں میں سے معظم و محترم صفا و مروہ دیا۔
- (۱۹) از مکانہ مکانوں میں سے مسجدیں دیا جو نہایت متبرک ہیں۔
- (۲۰) از صفات انسان کی بہت سی صفتیں ہیں۔ سب صفتیں میں سے چن کر تقویٰ کی صفت دیا۔
- (۲۱) از گلستان باغوں میں سے بہترین باغ جو جنت ہے دیا۔
- (۲۲) علویات علویات میں سے قابِ قوسین دیا۔
- (۲۳) سفلیات سفلیات میں سے حرم دیا۔
- (۲۴) از نساء عورتوں میں سے بہترین عورتیں حضرت عائشہؓ اور حضرت خدیجہؓ دیا جن کی کوئی نظیر نہیں۔
- (۲۵) از اخوان یوں تو سب کے دوست ہوتے ہیں بہترین دوست صحابہ آپ کو دیا۔
- (۲۶) از غذا غذاوں میں سے بہترین غذاء دودھ دیا۔
- (۲۷) از خواب خواب تو سب کو پڑتے ہیں آپ کو رویائے صالحہ دیا۔
- (۲۸) از آنہار (نہریں) نہروں میں سے جنت کی نہریں دیا۔
- (۲۹) از اعمال اعمال میں سے بہترین عمل نماز دیا۔
- (۳۰) از ذکر خدا کا ذکر کئی طرح سے ہوتا ہے، سب ذکروں میں بہترین زکر لا الہ الا اللہ دیا۔
- (۳۱) از بنی آدم بہت سی امتیں ہوئیں یہ خیر الامم بہترین امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا۔
- (۳۲) اللہ تعالیٰ نے حضرت کو سب اچھی اچھی چیزیں چن کر دیا تو تعجب نہیں، کیوں کہ پیارے کو دیا ہی کرتے

ہیں، سب اچھی چیزیں حضرت کو دے کر حضرت جیسے اللہ کے محبوب نبی ہم جیسوں کو دیا جو اس نعمت کے قابل نہ تھے تجھے تو اس کا ہے۔

لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا لَا مِنْ أَنفُسِهِمْ ۝
(پ ۲۷ سورہ ال عمران)

(اللہ کا بڑا احسان ہوا مسلمانوں پر کہ ہمارے ہی میں سے ایک حضرت کو رسول بناؤ کر ہمارے پاس بھیجے
لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ " (وہ عظیم الشان نبی آگیا)
ان کی عظمت کیا بیان کروں۔

ایک روز چند صحابہ جمع تھے آپس میں کہنے لگے اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم کو صفائی بنایا، حضرت ابراہیم کو ظلیل،
حضرت موسیٰ کو کلیم، حضرت عیسیٰ کو کلمہ اور روح اللہ۔

حضرت صلی اللہ علیہ وسلم مکان سے باہر تشریف لائے اور فرمائے، بے شک آدم صفائی اللہ اور ابراہیم ظلیل
اللہ ہیں، موسیٰ کلیم اللہ ہیں، عیسیٰ روح اللہ ہیں اور میں جبیب اللہ ہوں ”وَلَا فَخْرٌ“ یہ کوئی فخر کی بات نہیں، نہ فخر
سے کہہ رہا ہوں ایک واقعی بات ہے جس کو سنارہا ہوں۔

صفی اللہ کے ساتھ ”عَصَى اَدَمُ“ (آدم نافرمانی کئے) کا بھی ذکر فرمایا اور حضرت ابراہیم کی خلت کے
ساتھ ”وَالَّذِي اطْمَعَ اَنْ يَغْفِرَ لَيِ“ (پ ۱۹ ع ۵ سورہ الشعراء)

میں امید کرتا ہوں کہ خدا میری مغفرت فرمائے) بھی ہے، موسیٰ کے کلیم اللہ ہونے کے ساتھ یہ معدودت ”
رَبِّ اِنِّي ظَلَمْتُ نَفْسِي فَاغْفِرْ لِي“ (پ ۲۰ ع ۲ سورہ القصص) (اے میرے رب میں گناہ کر کے
اپنے نفس پر ظلم کیا آپ میری مغفرت فرمائیے) بھی ہے، حضرت عیسیٰ کے روح اللہ ہونے کے ساتھ یہ بھی تو ہے
کہ قیامت میں ان سے پوچھا جائے گا ”أَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اتَّخِذُو نِيَٰ وَأَمَّى إِلَهِيْنِ مِنْ دُوْنِ
اللَّهِ“ (پ ۷ ع ۱۶ سورہ المائدۃ) (کیوں عیسیٰ کیا تم اپنی امت کو یہ کہہ ہو کہ اللہ کو چھوڑ کر اپنے کو اپنی ماں کو

معبود بناؤ) حضرت عیسیٰ کا نپ جائیں گے، عرض کریں گے اے میرے معبود اگر میں کہا ہوں تو آپ خوب جانتے ہیں اور میں ایسا کیسے کہہ سکتا ہوں، آپ خوب جانتے ہیں میری اندر ونی حالت کو میں آپ کی اندر ونی حالت کو نہیں جان سکتا، یہ آپ کے بندے ہیں اگر آپ ان کو بخش دیں تو آپ کی مہربانی ہے، اگر آپ عذاب دیں تو یہ مستحق ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہو گا یہ سب بتیں رہنے دو، یہ قیامت کا دن ہے جو سچے ہیں آج سچائی ان کو نفع دینے والی ہے۔

بخلاف ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے کہ آپ کے ساتھ اللہ تعالیٰ کو جو محبت ہے اس کے اظہار کے لئے حبیب اللہ آپ کو فرمائے اور مراتب دینے کا وعدہ فرماتے ہیں۔ عَسَىٰ أَنْ يَبْعَثَكَ رَبُّكُ مَقَاماً مَحْمُوداً (پ ۱۶۴، سورہ بنی اسرائیل) مقا محمود دیں گے جو کسی پیغمبر کو نہیں دیئے۔

لوگو! ایسا عظیم الشان پیغمبر تمہارے پاس آگیا، کیسا عظیم الشان رسول ہے۔ سلیمان علیہ السلام فرماتے ہیں ”رَبِّ اغْفِرْ لِي وَهَبْ لِي مُلْكًا لَا يَنْبَغِي لِأَحَدٍ مِنْ بَعْدِي“ (اے اللہ مجھے ایسی سلطنت دے کہ میرے بعد کسی کو ولیسی سلطنت نہ دے)

حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے دو جہاں پیش کی جاتی ہے۔ مَا زَاغَ الْبَصَرُ وَمَا طَغَى (پ ۲۷۳ سورہ النجم) مگر آپ اس کی طرف نظر اٹھا کر بھی نہیں دیکھتے، اس کے صدر میں لَقَدْ رَأَى مِنْ أَيْتِ رَبِّهِ الْكُبْرَى (پ ۲۷۴ سورہ النجم) فرمائے اس کے سفر فراز فرمایا۔

ایسا عظیم الشان رسول آگیا کہ:

رسوان جن کے امت کے باغوں کا دار و غہ ہے۔ دوزخ جن کے دشمنوں کا قید خانہ ہے، حضرت عیسیٰ ان کے آنے کی خوشخبری سنانے کیلئے یا اتی من بعدي اسمه احمد (۲۸ سورہ القص) میرے بعد ایک پیغمبر آنے والے ہیں جن کا نام احمد ہے، کا اعلان کرنے والے ہیں، جب تک انکے قاصدہ میکائیں ان کا چار جامہ اٹھانے والے، قلم ان کی مدح لکھنے والا، عرش ان کا مہماں خانہ ہے۔

اس رسول کی عظمت کا اندازہ کرنے کیلئے ذرا ہر ایک پیغمبر کی معراج پر نظر ڈالیئے۔
کسی رسول کی معراج عناصر اربعہ سے آگے نہ بڑھ سکی، مثلاً کسی پیغمبر کی معراج مٹی کی طرف ہوئی تو کسی
کی ہوا کی طرف، کسی کی پانی کی طرف ہوئی، کسی کی آگ کی طرف۔

حضرت آدم اور حضرت موسیٰ علیہما السلام کی معراج مٹی یعنی زمین کی طرف ہوئی۔ حضرت نوح اور حضرت
یونس علیہما السلام کی معراج پانی کی طرف، حضرت سلیمان اور حضرت عیسیٰ علیہما السلام کی معراج ہوا کی طرف، حضرت
ابراهیم علیہ السلام کی معراج آگ کی طرف ہوئی۔

ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی معراج عالم فلک اور ملکوت سے گزر کر عرش سے اوپر لامکاں پر ہوئی

یا محمدؐ نہیں کوئی میں ثانی تیرا ۔ تو جو ایسا ہے تو خالق تیرا کیسا ہوگا
وہ تو موسیٰ ہوئے دیدار کو جس نے چاہا ۔ جس نے دیکھا اسے بتلاؤ وہ کیسا ہوگا

او جمال جہاں آرائی کے طالبو! او وصالی احمدی کے طلب کرنے والو! تم کیا جانو عظمت کو، حضرت صلی
اللہ علیہ وسلم کے ذرا جریئل سے پوچھو، ذرا میکائیل سے دریافت کرو، شمع محمدی کے وہ کیسے پروا نے تھے۔

ایک روز جریئل علیہ السلام عاشقانہ طرز پر کبھی ہاتھ چوتھے اور کبھی چادر مبارک پر منہ ملتے، حضرت صلی
اللہ علیہ وسلم پوچھے جریئل! یہ کیا حالت ہے۔ جریئل عرض کئے حضور علیہ السلام میکائیل سے پوچھیئے۔ میکائیل علیہ
السلام عرض کئے یا رسول اللہ! اگر کبھی آپ کے پاس آنے کے لئے کوئی حکم نہیں ملتا ہے، ہم بے تاب ہو جاتے ہیں
آج ہزار ہا بار دعا کرتے گزری، ہماری اس عاجزانہ دعا پر فرشتے حیرت سے پوچھتے تھے کہ جریئل و میکائیل! اتنی
بے قراری کیوں ہے، ہم جواب دیئے جمال محمدی دیکھے بغیر چیز نہیں آتا کیا کریں، چونکہ بہت دعاؤں کے بعد آپ
کا دیدار نصیب ہوا ہے۔ اس لئے یہ حالت ہے۔

صاحبہ! ہم کو تعلق اس عظیم الشان رسول سے بے مانگے ہو گیا ہے اس لئے ہم کو کچھ قدر نہیں ہے، اگر کچھ رقم خرچ کرنی پڑتی، یا کم سے کم مذل پاس کرنا پڑتا، یا مولوی ہونے کی شرط ہوتی تو جب قدر ہوتی، اب تو مفت میں لا الہ الا اللہ پڑھ لئے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے آنکھ میں پہنچ گئے جو چیزستی ملتی ہے، اس کی یہی حالت ہوتی ہے۔

ہر کہ ارزائ خرد ارزائ دہد	جو ستا خریدتا ہے وہ ستا دیتا ہے
گوہرے طفلے بقرص نان دہد	جو اہرات کو بچہ ایک روٹی کے بد لے دیدیتا ہے۔

آپ اگر کہیں کہ ہمارے دل میں تو حضور ﷺ کی عظمت ہے میں پوچھتا ہوں پھر آپ میں عظمت کے آثار کیوں نہیں، حاکموں کی عظمت ہے اس لئے ان کے قانون کی قدر ہے، اگر حضرت کی عظمت ہے تو حضرت کے احکام کی کیوں بے قدری ہے۔

کل اگر خدا تعالیٰ پوچھے ہم نے تم کو اتنی بڑی دولت مفت دی تھی مگر تم نے اس کی قدر نہ کی ہائے ہم اس کا کیا جواب دیں گے۔

ہائے ہم کس عظیم الشان رسول کے زمانہ میں پیدا ہوئے ہیں، آپ کو تو معلوم ہے کہ ابلیس کیسا عابد تھا، ایسا نورانی اور فرشتہ کے جیسا ابلیس حضرت آدم علیہ السلام کے زمانہ میں دیو ظلمانی ہو گیا آبی وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنْ الْكُفَّارِينَ (پ ۱۴ سورہ البقرۃ) (سجدہ کرنے سے انکار کیا اور تکبر کیا، اس لئے کافروں میں سے ہو گیا) ہمارے حضرت کے زمانے میں دیو ظلمانی فرشتہ نورانی بن گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں۔ **أَسْلَمَا**

شَيْطَانِي عَلَى يَدِي (میرا شیطان میرے ہاتھ پر مسلمان ہو گیا) کیسا عظیم الشان نبی ہے۔ آدم علیہ السلام کے وقت میں قالب خاکی، قلب پر غالب تھا، اسلئے **إِهْبِطُوا مِنْهَا** (پ ۱۴ سورہ البقرۃ) (اترا جنت سے) حکم ہوا، حضرت آدم عالم پاک سے ملک خاک میں آئے۔

ہمارے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں قلب، قالب پر غالب تھا اس لئے آپ معراج میں عالم خاک سے عالم پاک کی طرف تشریف لئے گئے ”**ذَنَا فَتَدَلَّى**۔ **فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ آذَنِي**“ (پ ۲۷ سورہ

سورہ النجم) قریب ہوئے بالکل قریب ہوئے دو کمان کے مقدار فاصلہ رہ گیا۔

حضرت ابراہیم علیہ السلام کی معراج جو آگ میں ہو رہی تھی اور آپ آگ کی طرف گرائے جا رہے تھے اس وقت جبریل علیہ السلام ابراہیم علیہ السلام کے اطراف پھر رہے تھے اور کہہ رہے تھے۔ هل لک حاجہ کیا آپ کو مجھ سے مدد لینا ہے تو فرمائیے میں مدد کرتا ہوں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جبریل علیہ السلام کو جواب دیئے جبریل میرے اللہ کو میری سب خبر ہے۔ وہ چاہے گا تو مجھ کو بچالے گا، تم سے مدد لینے کی ضرورت نہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی معراج میں حضرت جبریل سدرۃ المنتہی تک تو ساتھ تھے، جب صلی اللہ علیہ وسلم سدرۃ المنتہی سے آگے تشریف لے جانے لگے تو اس وقت جبریل علیہ السلام عرض کیئے یا رسول اللہ اب آپ آگے جائیے قرب کے مقامات طئے کجھے میں یہاں سے ایک انگل آگے نہیں بڑھ سکتا۔

ولو دَنُوتْ أَنْمَلَةً لَا خَتَرَ قُتُّ

(اگر میں ایک انگل برابر آگے بڑھوں تو تجلیاتِ الہی مجھ کو جلا دیں گے)

اے نبی یا آپ ہی کا حق ہے، آپ آگے تشریف لے جائیے۔

اگر یک سر موئے برتر پرم	اگر ایک بال برابر بھی میں آگے اڑوں
فروع تجلی بسو ز د پرم	تو تجلیات میرے پر کو جلا دیں گے۔

ابراہیم علیہ السلام دعا کرتے ہیں:-

وَلَا تَخْذِنِي يَوْمَ يُبَعَثُونَ (پ ۱۹ ع ۵ سورہ الشراء)

(اے اللہ جب قیامت میں سب کو اٹھائیں گے آپ وہاں مجھ کو رسوانہ کرنا) بے ما نگے اللہ تعالیٰ حضرت کو فرماتا ہے:

لَا يَخْزِنِي اللَّهُ النَّبِيُّ (پ ۲۸ ع ۲ سورہ الحريم)

(اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کبھی رسوانہ نہیں کرے گا)

ابراہیم علیہ السلام کہتے ہیں۔

إِنَّى ذَاهِبٌ إِلَى رَبِّيْ (پ ۲۳ سورہ الصفت)

(جب ابراہیم کے والد نے ابراہیم سے کہا کہ تو بتوں کو بہت برابوتا ہے، میرے پاس سے چلا جا) تو حضرت ابراہیم فرماتے ہیں اچھا میں میرے اللہ کی طرف جاتا ہوں، وہی مجھے ہدایت پر رکھے گا اور موی علیہ السلام فرماتے ہیں:

وَلَمَّا جَاءَ مُوسَى لِمِيقَاتِنَا (پ ۹ سورہ الاعراف)

(جب موسیٰ ہماری میقات کی طرف آئے ان دو آیتوں میں ان دونوں پیغمبروں کا اللہ کی طرف آنا معلوم ہوتا ہے۔

بخلاف ہمارے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے کہ ارشاد ہوتا ہے۔

سُبْحَانَ الَّذِي أَسْرَى بِعَبْدِهِ (پ ۱۵ سورہ بنی اسرائیل)

(پاک ہے وہ اللہ جو اپنے بندے کو معراج کے لئے لے گیا) اس سے حضور کو اللہ تعالیٰ کا خود لے جانا معلوم ہوتا ہے۔

ان آیتوں پر آپ غور کیجئے۔ موسیٰ علیہ السلام کا نام لے کر فرمایا گیا "وَلَمَّا جَاءَ مُوسَى لِمِيقَاتِنَا اور بخلاف ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ بجائے نام لینے کے عزت کے ساتھ آپ کی صفت "بِعَبْدِهِ" کہہ کر اللہ تعالیٰ ارشاد فرمایا کہ ہم اپنے بندے کو معراج کے لئے لے گئے۔

حضرت ابراہیم علیہ السلام فرماتے ہے:

وَاجْعَلْ لِي لِسَانَ صِدِّيقٍ (پ ۱۹ سورہ الشراء)

(اللہی اپنے بندوں کو ایسا بنا کہ وہ میری تعریف کریں)

حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ خود فرماتا ہے۔

وَرَفَعَنَا لَكَ ذِكْرُك (پ ۳۰ سورہ الانشراح)

حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے کہنے کے بغیر اللہ تعالیٰ آپ کی تعریف ہر جگہ کروار ہے ہیں۔

حضرت ابراہیم علیہ السلام سارے جہاں میں سے اللہ تعالیٰ کو چن لئے۔

فَإِنَّهُمْ عَدُولَى إِلَّا رَبُّ الْعَالَمِينَ (پ ۱۹ سورہ الشراء)

سارے الہ میرے دشمن ہیں سوائے رب العالمین کے کہ وہ میرا دوست ہے)
دو جہاں میں سے اللہ تعالیٰ نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو چن لیا۔

لَوْلَاكَ لَمَا خَلَقْتُ الْكَوْنَيْنِ

(اے نبی آپ نہ ہوتے تو میں دو جہاں پیدا نہ کرتا)

مویٰ علیہ السلام کو کوہ طور پر معراج ہو رہا ہے تو چالیس دن روزہ رکھا کر روٹی پانی چھڑا کر بلا تے ہیں اور
ہمارے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو جو معراج ہوا ہے تو حضور پھونے پر آرام فرمادی ہے تھے، حضرت جبریلؑ آکر
جگا کر سوتے پھونے سے معراج کے لئے جاتے ہیں۔

حضرت مویٰ علیہ السلام ”رَبِّ أَرْضِي“ (پ ۹ سورہ الاعراف) (اے میرے رب مجھے آپ دکھ
جائیے میں آپ کو دیکھنا چاہتا ہوں) فرماتے ہیں تو جواب ملتا ہے ”لَنْ تَرَانِي“ (پ ۹ سورہ الاعراف)
(مویٰ تم مجھ کو ہرگز نہ دیکھ سکو گے)

ہمارے حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم معراج میں تشریف لے گئے تو ”مَازَاغَ الْبَصَرُ وَمَا طَغَى“
(پ ۷ سورہ النجم) جب کسی چیز کی طرف نظر اٹھا کر بھی نہیں دیکھے تو حکم ہوتا ہے:-

الَّمْ تَرَ إِلَى رَبِّكَ (کیا آپ اپنے پروردگار کو دیکھتے نہیں)

لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ (ایسا عظمت والا نبی آپ کے پاس آگیا)

ایک چھوٹی سی بات مگر بہت سوچنے اور غور کرنے کے قابل ہے۔ آدم علیہ السلام جنت سے کیسے نکلے
گیہوں کھائے، جنت چھوٹی، باہر آئے۔

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُرْزِكُهُمْ (پ ۱۱ سورہ التوبہ)

(یا نبی! مسلمانوں کے مال سے فطرہ دیجئے اس سے انکا، مال پاک ہو گا اور سترہ ہو گا) صدقہ فطرے

گیہوں کوئی کھاتا ہے اور کوئی کھلاتا ہے، باوجود اس کے پاک و صاف ہو کر جنت میں جاتے ہیں۔

وہی گیہوں آدم کے وقت جنت سے نکلا تھا وہی گیہوں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت جنت میں لے

جاتا ہے۔

اللہ رے شان محمدی صلی اللہ علیہ وسلم، وہاں ابلیس کا واسطہ ہے یہاں حضور کی برکت ہے وہاں خود کھاتے ہیں جنت سے نکالے جاتے ہیں یہاں چونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کھلاتے ہیں اس لئے کھاپی کر جنت میں جاتے ہیں، کیوں نہ ہو آدم جنت سے نکلے ہیں اور جنت حضور کے نور سے نکلی ہے۔

دوستو! جس کو جنابت کی حاجت ہو وہ مسجد میں نہیں آ سکتا، ساری دنیا نجس ہوئی تھی اس لئے بیت المعمور کو یہاں سے اٹھا لیا گیا، حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے میں ساری دنیا کو غسل دیا گیا، پھر بھی زمین پاک نہیں ہوئی، عیسیٰ علیہ السلام تک مسجدوں کے سوا زمین کے کسی حصہ میں نماز نہیں ہو سکتی تھی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمین پر قدم رکھتے ہی ساری زمین پاک ہو گئی۔

جَعَلْتُ لِيَ الْأَرْضَ مَسْجِدًا

(ساری زمین ہمارے لئے مسجد بنادی گئی جہاں چاہونماز پڑھو)

حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم مبارک جہاں سب سے پہلے گرے وہ حصہ زمین سارے عالم کا قبلہ بن گیا، تمام زمین کے پاک ہونے کی کچھ حد بھی ہے خود زمین پاک ہی نہیں ہوئی بلکہ پانی کی طرح پاک کرنے والی بھی تو ہوئی۔

فَلَمْ تَجِدُوا مَاءَ فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيْبًا (پ ۲۶ سورہ المائدہ)

(پانی نہ ملے تو منی سے تمیم کرو)

یہی تارے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانہ میں چور اور راہزن تھے۔

فَلَمَّا جَنَّ عَلَيْهِ اللَّيلُ رَأَى كَوْكَباً، قَالُ هَذَا رَبِّي (پ ۷۶ سورہ الانعام)

(جب رات اندر ہیری ہو گئی تو حضرت ابراہیم تارے کو دیکھئے اور کہے یہ نورانی مخلوق میرا رب یہی ہے۔ جب تارا

ڈوب گیا تو فرمائے رب کو بھی کہیں زوال ہوتا ہے؟ یہ میرا رب نہیں ہے۔
وہی تارے حضور کے وقت پاسبان ہو گئے۔

فَوَجَدُ نَا هَا مُلْئَثٌ حَرَسًا شَدِيدًا وَشُهْبَاتًا (پ ۲۹ ع سورۃ الحجۃ)
(پایا ہم نے تاروں کو نگہبانی کرنے والے) اور راستہ دکھانے والے بھی ہو گئے۔

وَبِالنَّجْمِ هُمْ يَهْتَدُونَ (پ ۱۳ ع سورۃ النحل)

(تاروں سے لوگ راستہ دیکھتے ہیں) پاسبان ہی نہ ہوئے بلکہ خادم بنے ہوئے عبادت کرار ہے ہیں،
حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک خادم حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کے لئے آفتاب طلوع سے رک گیا تاکہ ثواب
جماعت فوت نہ ہو۔

ایک دوسرے خادم حضرت سیدنا علی رضی اللہ عنہ کی نماز عصر وقت پر ادا ہونے کے لئے غروب ہو کر پھر
نکل آیا تاکہ نماز عصر ادا کر لیں۔

لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ، (یہ شان والا نبی آگیا)

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے لوگو! ہم نے ایسی مبارک ذات کو جو ایسا عظیم الشان ہے رسول بنا کر بھیجا، اب تم کو
ان کی اطاعت بار نہیں ہونا چاہیئے۔ اب تو ایسے نبی کی تابعیت سهل ہونا چاہیئے۔

فصل - ۹

اتباع اور پیروی کے لئے یہ ضروری ہے کہ ہم جنس ہو، جن اور فرشتہ کو انسان کے غیر جنس
ہونے کی وجہ سے پیغمبر نہ بنانا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمارے ہم جنس ہونے کی وجہ پیغمبر بنانے اور
اس کے فوائد کی تفصیلی بحث اس فصل میں کی جا رہی ہے۔

خداۓ تعالیٰ کی رحمت پر رحمت اور نعمت پر نعمت تو دیکھئے کہ اپنے مرضیات پر چلنے کے لئے ایک دستور

اعمل یعنی قرآن شریف دیا۔ اس کے پڑھنے اور سمجھنے اور عمل کرنے میں وقت ہوتی تی۔ اس لئے قرآن کی زندہ تصویر، اپنے مرضیات کا نمونہ بنا کر ایک عظیم الشان رسول کو بھیجا، آنکھ مونچ کر اس نمونے کے موافق چلو۔

اگر چلو گے تو قرآن پر بھی عمل ہوتا ہے اور خدا کے حسب مرضی بھی ہو جاتے ہیں، وہ نمونہ کوئی معمولی نمونہ نہیں ہے بلکہ اللہ تعالیٰ نے ایک عظیم الشان ذات مقدس کو رسول بنا کر بھیجا ہے تاکہ اس رسول کی اطاعت آسان ہو جائے۔

اب رہایہ کہ بجائے انسان کو رسول نمونہ بنانے کے کسی فرشتہ یا جن کو نمونہ بنا کر کیوں نہ بھیجا۔ اچھا فرشتہ اور جن کوئی لے لیجئے اور سوچئے کہ اگر فرشتہ یا جن نمونہ بن کر آتا تو زیادہ فائدہ تھا، یا اب انسان نمونہ بن کر آنے سے زیادہ فائدہ ہو رہا ہے۔

قاعدہ یہ ہے کہ آدمی کو انت اس چیز سے زیادہ ہوتی ہے جس چیز سے کچھ مناسبت ہو، جس چیز سے مناسبت زیادہ ہوگی، اس سے انت بھی زیادہ ہوگی اور جس قدر مناسبت کم ہوگی اسی قدر اس سے وحشت بڑھے گی۔

اسی واسطے غیر جنس تو کیا بلکہ اپنی جنس میں بچوں کو بڑوں سے اور جوانوں کو بڑھوں سے اور مالداروں کو غریبوں سے نہ مناسبت ہوتی ہے اور نہ میلان ہوتا ہے، انسان سے انسان کو جتنا میلان ہوتا ہے، جانوروں سے نہیں ہوتا۔

آپ ہی بتائیے اگر رسول کوئی جن یا فرشتہ بن کر آتا تو مناسبت تو درکجا و حشمت ہوتی، پھر ہم اس سے کیے فائدہ اٹھاسکتے تھے، اللہ تعالیٰ نے ایسے انسان کو رسول بنا کر بھیجا تاکہ ہم کو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے انت و محبت ہوا، اور ہم حضرت سے فائدہ حاصل کر سکیں۔

ہم کو حضرت سے ذرہ برابر بھی وحشت نہ ہونے کے لئے حضرت کی کوئی حالت معمول کے خلاف نہیں بنایا۔ اگر کسی حالت میں ذرا بھی خلاف ہوتا تو مناسبت کم ہوتی، مناسبت کم ہونے سے انت بھی کم ہوتی۔ چنانچہ آپ کی پیدائش کوئی نئی طرز سے نہیں ہوتی۔ آپ کو یہوی بچے تھے اور کھانا پینا اور سونا غرض آپ کے تمام احوال

ہمارے جیسے تھے تاکہ آپ میں اور ہم میں پوری مناسبت رہے۔

خداۓ تعالیٰ کا ہم پر یہ کتنا بڑا احسان ہوا۔ اس لئے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے۔

لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ انسانوں میں سے ایک انسان کو رسول بنایا کر بھیجا تاکہ تم کو ان سے انت و مناسبت رہے اور محبت پیدا ہو اور تابع داری کرنا آسان ہو۔

اگر کوئی فرشتہ رسول بن کر آتا تو وہ ہمارے لئے نمونہ نہیں بن سکتا تھا کیونکہ فرشتہ کو نہ کھانے کی ضرورت نہ پہنچنے کی حاجت اور نہ اس کو بیوی بچوں سے زندگی کرنا ہے۔ ان چیزوں کے احکام میں وہ یہ کرتا کہ ہم کو پڑھ کر سنا دیتا۔ یہ کام تو صرف کتاب بھیجنے سے بھی نکل سکتا تھا کہ ایک کتاب ہمارے پاس آ جاتی، اس میں سب احکام لکھے ہوتے اس کو ہم پڑھ لیتے اور اس پر عمل کر لیتے، فرشتہ نبی بننے سے اسی سے زیادہ کوئی بات نہ پیدا ہوتی جو کتاب سے ہو سکتی تھی۔

اللہ تعالیٰ نے ایسا نہیں کیا بلکہ **مِنْ أَنفُسِكُمْ** تمہارے ہی جنس میں سے پیغمبر بنایا کر بھیجا۔

وہ پیغمبر ایسے ہیں کہ ہماری طرح کھاتے اور پیتے ہیں، بیویاں اور دوسرے تعلقات بھی رکھتے ہیں اور تمدن و معاشرت کی عادت رکھتے ہیں، ان کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے کتاب بھیجا کہ وہ خود اپنے ذات سے معاشرت کے ہر مسئلہ پر عمل کر کے دکھائیں تاکہ ہم کو عمل کرنے میں سہولت اور آسانی ہو، اس لئے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے۔

وَمَا أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ مِنَ الْمُرْسَلِينَ إِلَّا إِنَّهُمْ لِيَأْكُلُونَ الطَّعَامَ وَيَمْشُونَ فِي الْأَسْوَاقِ (پ ۲۱۸، سورہ الفرقان) آپ کے پہلے پیغمبروں کو جو ہم بھیجے وہ بھی کھانا کھاتے تھے، اور بازاروں میں چلتے پھرتے تھے۔

فرشتہ کیا کرتا، ہمارے حضرت کے کمالات فرشتوں سے کئی درجہ بڑھ کر ہیں جریئل اور میرکائیل جیسے فرشتے قرب الہی میں پیچھے رہ جائیں، ہمارے حضرت وہاں پہنچ جائیں جہاں کوئی فرشتہ نہ جاسکے۔

فرشوں میں کیا رکھا ہے ایسے مقدس ذات کو انسان میں اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا جو تمام افعال انسانی کا نمونہ بن سکتے ہیں، خداۓ تعالیٰ کا یہ کتنا بڑا احسان ہے اس لئے فرماتا ہے **مِنْ أَنفُسِكُمْ** تمہارے ہی جنس میں سے پیغمبر بنایا کر بھیجا۔

و کیجھ لیجھے دنیوی تعلقات کی جتنی باتیں انسان کو پیش آتی ہیں، وہ سب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پیش آئیں، حضرت نے خود بیویاں رکھیں۔ اپنی اولاد کا نکاح کیا اور حضرت کے پاس غم کے واقعات بھی ہوئے کہ صاحبزادوں کا انتقال ہوا، آپ کی چیتی بیوی حضرت خدیجہ انتقال کر گئیں، نکست ہوئی، فتح ہوئی، شادی ہوئی، اولاد کی شادی کیئے۔ غرض جو حالات ہم کو پیش آتے ہیں وہ سب حضرت کو بھی پیش آئے، فرشتہ بے چارہ کو ان حالات کی کیا خبر ہوتی وہ کیسے نمونہ بنتا۔ اس لئے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ”مِنْ أَنْفُسِكُمْ“ (تمہارے ہی جنس میں پنیبر بناؤ کر بھیجا) ایک مثال پر غور کیجھے کہ ایک شخص بھوک سے مر رہا ہے فرشتہ کو کیا معلوم کہ بھوک کیا بلا ہے اور بھوک میں کیا تکلیف ہوتی ہے انسان کو بھوک کی حقیقت معلوم ہے۔ وہ بھوک کی تکلیف کا اندازہ کر سکتا ہے۔

اس لئے بھوک سے مرنے والے کی نسبت، انسان رسول نے کہا مجھ کو معلوم ہے کہ بھوک کیا چیز ہے اور اس کی تکلیف کیسی ہوتی ہے۔ اس سخت تکلیف کے پیش اجلذت دیتا ہوں کہ ایسے وقت مردار کھالیا کرو۔

سفر کی حالت کا اندازہ فرشتہ کیا کر سکتا ہے، اس کو کیا معلوم کہ سفر میں کیا کیا مشقتیں ہوتی ہیں اور کیسا وقت کم ملتا ہے یہ انسان ہی کو معلوم ہے اس لئے حکم دیتے ہیں کہ بھائی کسی حال میں خدا کو بھولنا تو اچھا نہیں، سفر میں چار رکعت کے بجائے دو ہی پڑھ لو۔ سنت اور نفل کے لئے اگر موقع نہ ملے تو نہ سہی نہ پڑھو کیا آپ پر ایسی آسانی فرشتہ کر سکتا تھا۔ اس لئے اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ انسان رسول کو بھیجننا ہمارا احسان ہے ”مِنْ أَنْفُسِكُمْ“ (تمہارے ہی جنس میں سے ہے) جو تمہارے سارے ضرورتوں کو پورا کرتے ہیں۔

آپ کوشبہ ہو رہا ہو گا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم جنوں کے کیسے رسول ہو سکتے ہیں اور ان کی کیسی ہدایت کر سکتے ہیں۔

اس کو یوں سمجھئے کہ جن میں جو باتیں ہیں وہ سب باتیں انسان میں ہیں، اور انسان میں جو باتیں ہیں وہ جن میں نہیں، اس لئے انسان تو جن کی ہدایت کر سکتا ہے البتہ جن انسان کی ہدایت نہیں کر سکتا، کھانے پینے عورت اور بچے وغیرہ میں جن انسان کے ساتھ شریک ہیں لیکن انسان سے جن کو وحشت نہیں، جن سے انساں کو وحشت ہے، قوی ہیکل، ڈراؤنی صورت، سامنے کھڑے ہو جائے تو کدھر کا فائدہ کہاں کے دریافت مسائل، ہوش ہی کس کے

ٹھکانے رہتے۔ فرشتہ یا جن سے اگر مجرمات صادر ہوتے تو آپ یہ کہتے کہ یہ تو ان کا کام ہی ہے جو کئے ہیں وہ نہیں بات کیا ہوئی اس لحاظ سے مجرمے بیکار تھے۔

ہاں انسان اگر مجرمہ دکھائے تو ماننا ہی پڑتا ہے۔ اسئلے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے من افسکم (تمہارے ہی جنس میں سے پیغمبر بنانا کر بھیجا)

فرشتہ اگر نبی بن کر آتے تو تم کتنی ہی عبادت کرتے مگر وہ عبادت ان کی نگاہ میں بھرتی ہی نہ تھی، انسان نبی بن کر آنے سے یہ فائدہ ہوا کہ تم ذراحد سے زیادہ عبادت کرتے ہو تو وہ نبی بے چین ہو جاتے ہیں، جیسے ماں سے اپنے بچے کی مشقت دیکھی نہیں جاتی، ایسا ہی اس نبی مکرم سے تمہاری مشقت دیکھی نہیں جاتی، تمہارے مصلحت سے روزے کا حکم دیتے ہیں، مگر یہ خیال کر کے میرے امتی تمام دن بھوکے اور پیاسے رہیں گے اس لئے یہ بھی حکم دیتے ہیں کہ میرے امتوں، آخری وقت سحر کیا کرو اور جلدی افطار کرلو۔

بعض صحابہ جن میں حضرت ابو بکر اور حضرت علی رضی اللہ عنہما شامل تھے، یہ ارادہ کئے کہ گوشت چھوڑ دیں، عورتوں سے علحدہ ہو جائیں یا خصی ہو جائیں اور جنگل میں نکل جائیں، تمام رات جا گیں اور ہر دن روزہ رکھا رکھا کریں غرض اسی قسم کے منصوبوں کی مجلس ہوئی، اس کی خبر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ملی، حضور بڑی بے چینی سے مقام مجلس پر تشریف لائے یہ انتظار نہیں کئے کہ وہ مجلس والے جب میرے پاس آ جائیں گے میں ان کو سمجھادوں گا بلکہ خود مجلس میں پہنچ گئے، یہاں غور کرنے کی بات یہ ہے کہ اگر کوئی فرشتہ نبی ہوتا تو خوش ہوتا کہ میری تعلیم نے اڑ کیا، میرے جیسے فرشتے بننا چاہتے ہیں۔ اس فرشتے کو انسانی جذبات کیا معلوم، یہ انسان رسول ہے اسئلے بیتاب ہو کر مجلس میں چلا آتا ہے۔

جب آپ اہل مجلس سے ملتے ہیں تو فرماتا ہے لوگو! میں نمونہ بن کر آیا ہوں، تم یہ کیا خیال کر لئے ہو، مجھ کو دیکھو میں کھاتا بھی ہوں، سوتا بھی ہوں، بیوی ہیں اور بچے بھی ہیں آنکھ کا اور بیوی کا اور تمہارے نفس کا تم پر حق ہے کھاؤ بھی اور روزہ بھی رکھو سوہ بھی اور جا گو بھی، کیا فرشتہ آپ کو ایسی تعلیم دے سکتا تھا۔ اس لئے کہ فرشتہ کو کیا معلوم کہ نفس کیا بلہ ہے، انسان کے پیغمبر سمجھ سکتے ہیں کہ نفس ایسا ہے، اس کی ضرورتیں پوری کرنا ضروری ہے، اسی

لئے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے مِنْ أَنْفُسِكُمْ (تمہارے ہی جنس میں سے پیغمبر بنانے کر بھیجا) اگر تم گناہ کرتے تو فرشتوں سے وہ گناہ دیکھانہ جاتا وہ تمہارا کوئی عذر نہ سنتے خدا جانے کیا سے کیا کر دیتے۔ یہ انسان نبی ہی ہے کہ گناہ سے متعلق سن کر کس مدیر سے گناہ ترک کراتا ہے۔

حکایت:-

ایک نوجوان آکر پوچھتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرا جی حرام کرنا چاہتا ہے، فرشتہ کوتا بند ہوتی، جن تو آگ کی مخلوق ان کے غصہ کی کچھ حد نہ رہتی، ہائے یہ انسان نبی ہے، نزدیک بلا کر محبت سے پوچھتے ہیں اے میرے پیارے امتی! اگر کوئی تیری ماں سے حرام کرے تو تجھ پر کیا گزرے گی تو اس نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بہت برا معلوم ہو گا پھر ارشاد ہوا اگر کوئی تیری بہن یا تیری بیٹی یا تیری بیوی سے زنا کرے تو تجھ پر کیا گزرے گی۔ اس جو ان نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بہت برا معلوم ہو گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمائے ایسا ہی تو جس سے بھی زنا کرے گا وہ بھی تو کسی کی بیٹی کسی کی بہن، کسی کی ماں، کسی کی جورو ہو گی، وہ نوجوان زنا کے خیال سے تائب ہو گیا۔

اب آپ ہی بتائیے یہ مشقت فرشتہ کر سکتا ہے یا جن۔ اس لئے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے مِنْ أَنْفُسِكُمْ (تمہارے ہی جنس میں سے پیغمبر بنانے کر بھیجا)

انسان نبی کی شفقت کے مضمون کی دلیل کے لئے اوپر جو مختصرًا زنا سے توبہ کرانے کا مضمون مجملًا آیا ہے اب اس مضمون کو ایک صحابیؓ کے حکایت کے ضمن میں تفصیل سے ملاحظہ فرمائیے۔

حکایت:-

ایسا ہی ماعز کا قصہ ہے کہ وہ زنا کرنے کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آکر اقرار کرنے حضرت کو تو انسانی جذبات کا حال معلوم ہی ہے اس خیال سے کہ اگر آئندہ کے لئے توبہ کر لیں تو اللہ تعالیٰ معاف کر دیگا منہ پھیر لیئے وہ دوسری طرف آئے اسی طرح چار مرتبہ ہوا کہ حضور منہ پھیر لیئے اور اس طرف آجائے جب انہوں نے اپنے گناہ کے اقرار پر اصرار کر لیا تو بالآخر انہیں سزا دی گئی۔ انکا خون کسی صحابی پر گرا وہ صحابی ماعز کو برا کہئے،

حضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے ان کو برانہ کہو وہ ایسی توبہ کئے ہیں کہ اگر ان کی توبہ تمام شہر کے لوگوں پر بانٹ دی جائے تو سب کی مغفرت ہو جائے گی۔

رج کہو صاحبو! گنہگار کو ایسا دلاسا کوئی جن یا فرشتہ دے سکتا تھا۔ اسلئے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے من انفسکم (تمہارے ہی جنس میں سے پیغمبر بنانا کر بھیجا)

ایک شخص صغیرہ گناہ کر کے آیا اور عرض کیا کیا کروں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں گناہ کیا ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہے اس کے بعد ہی نماز شروع ہوئی وہ شخص نماز میں حضور کے ساتھ شریک ہو گیا۔ ارشاد ہوا کہاں ہے وہ شخص سن لے۔

إِنَّ الْحَسَنَةَ يُذْهِنُ الْسَّيِّئَاتِ (پ ۱۲ سورہ حود)

(نیکیاں گناہوں کو مٹا دیتی ہیں)

کیا ہے کوئی فرشتہ یا جن ایسا دل بڑھا کر کام لینے والا، اسی لئے اللہ تعالیٰ نے فرمایا مِنْ أَنفُسِكُمْ (تمہارے ہی جنس میں سے پیغمبر بنانا کر بھیجا)

خداۓ تعالیٰ کے پاس کا یہ قاعدہ ہے جو قرآن میں مذکور ہے کہ ہم فرشتے اتارتے ہیں جب ان کا خلاف کیا جاتا ہے فوراً عذاب آ جاتا ہے اگر فرشتہ رسول بن کر آتا اور اس کا خلاف کیا جاتا فوراً عذاب آ جاتا عذاب بھی ایسا کہ ایک دونہیں کل بر باد ہو جاتے، اس لئے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے من انفسکم (تمہارے ہی جنس میں سے پیغمبر بنانا کر بھیجا)

اس انسان نبی نے سیدھا راستہ بتایا۔ سب کو آگ لگ گئی۔ سب نفرت کرنے لگے، ہر ایک جوان اپنی تکوار پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کرنے کے لئے باڑھ رکھنے لگا۔ ہر ایک زبان آپ کو گالیاں دینے لگی، ہر ایک دماغ آپ کو ہلاک کرنے کے تدابیر سوچنے لگا۔ ہر ایک ہاتھ آپ کو مارنے کے لئے زمین سے پھرا اٹھانے لگا ہر ایک آنکھ غصہ سے حضرت کو دیکھنے لگی۔ ہر ایک مجمع میں آپ کے دفع کرنے کا مشورہ ہونے لگے۔ غرض ایک جان لاکھوں قاتل۔ ایک تکلیف نہیں ہزاروں طرح کی اذیتیں اور تکلیفیں دی جا رہی ہیں ان حالات میں خداۓ تعالیٰ

حضرور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پھاؤں کے فرشتہ کو بھیجا کہ اگر حکم ہو تو دونوں پھاؤں مل جائیں تاکہ یہ سب کچل دیئے جائیں وہ انسان رسول کہتا ہے۔

اللَّهُمَّ إِهْدِ قَوْمِي فَإِنْهُمْ لَا يَعْلَمُونَ .

(اے میرے اللہ! ان کو ہدایت دئے یہ میرا مرتبہ نہیں جانتے)

اگر یہ لوگ راہ راست پر نہ آئیں ان کی اولاد تو راہ راست پر آئے گی۔

ہائے کیا فرشتہ یا جن ایسا کہتا اس لئے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے من انفسکم (تمہارے ہی جنس میں سے غیر بنا کر بھیجا)

اب دیکھنا یہ ہے کہ ہم اس نمونے کی کیا قدر کئے، ذرا درزی کی مثال کو یاد رکھئے ایک باشت کپڑا کم کر دینے سے شیر و انبی منھ پر مار دی جاتی ہے اگر درزی کے بجائے سینے کے کپڑے کی دھجیاں کر کے مالک کے سامنے رکھ دے تو وہ کس سزا کا لائق ہے جبکہ مالک سزا دینے پر قادر بھی ہو۔

واللہ ہمارے اعمال کی حالت یہی ہو گئی ہے۔ جو طریقہ بھی بتلا یا جائے اس پر عمل سے کوسوں دور بلکہ ان اعمال کو تباہ کر کے اور دھجیاں اڑا کر ہم اللہ تعالیٰ کے سامنے رکھ دیتے ہیں۔ سارے اعمال میں کاث چھانٹ کر کے جیسا چاہے دیسا بنالیتے ہیں ان اعمال میں تنگی نہ ہونے اور کافی وسعت ہونے کے باوجود ان کی کچھ قدر نہ کی گئی۔

اگر کسی نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہے اور اب ہم کو دیکھے ہرگز نہ پہچان سکے کہ ہم اس نمونہ کے موافق ہیں کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم غیبت کیا کرتے تھے، کیا آپ کا لباس ایسا ہی تھا کیا آپ کے وقت میں بھی یہی کھیل، تاش، گنجھے تھے، کیا حضرت ایسے ہی بے نمازی تھے، کیا حضرت رمضان المبارک کی ہنسی کرتے تھے، کیا حضرت زکوٰۃ کو جرمانہ سمجھتے تھے۔ نعوذ باللہ کیا آپ ایسا ہی ظلم کرتے تھے کہ جس کی چاہی زمین دبائی جس کا چاہا روپیہ مار لیا تو کیا آپ کو کوئی سلام کرے تو ناخوش ہو کر آداب بندگی کرنے کیلئے کہتے تھے۔ حضرت کے صاحزوں کا انقال ہوا تو حضور کے ہشم مبارک سے آنسو گرے، کیا ہمارے جیسا زمین و آسمان ایک کئے تھے، کیا حضرت ایسا ہی معاملہ کیئے تھے جیسا ہم کرتے ہیں کیا حضرت رشتہ لیتے تھے کیا حضرت سود کھاتے تھے۔

غرض ہماری تمام حالت بگڑی ہوئی ہے جو پوچھئے تو یہ کہنے کو دل چاہتا ہے:

ای برا پردا یثرب بہ خواب
خیز کہ شد مشرق و مغرب خراب

ابی حضور! ذرا خواب راحت سے اٹھئے تو سہی دیکھئے آپ کی امت کس بلا میں گرفتار ہے نمونہ کا کیا حال
کر دی ہے اور مِنْ آنفُسِکُمْ کی کچھ قدر نہیں کی ہے۔

جس کی پیروی کی جا رہی ہے وہ اشرف و اعلیٰ ہو تو پیروی میں عار نہیں معلوم ہوتا۔ اس لئے حضور کے تمام
انسانوں میں اشرف و اعلیٰ ہونے کا مختصر مضمون ہے۔

نور محمدی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت آدم علیہ السلام سے پاکوں میں رہتے ہوئے دنیا میں قدم رکھا ہے۔

حضور ہیں تو تمہیں انسانوں میں کے ایک انسان مگر سب سے اشرف و اعلیٰ نسب میں، حسب میں، ہر چیز
میں اس کی ایسی مثال ہے کہ یاقوت والماں ہی پھرلوں میں کا ایک پھر ہے مگر پھر تو ٹھوکروں میں رہتا ہے اور
یاقوت والماں بادشاہوں کے سر کا تاج ہوتا ہے۔

ایسا ہی حضور ہیں تو انسان مگر انسانوں اور کل مخلوق کے سرتاج

شمع افرود ز شب خاکیاں : خاک کی بنی ہوئی مخلوق کی رات کو روشن کرنے والی شمع

شمع سراپردا افلاؤکیاں : فلک پر رہنے والوں کے مقامات کے چراغ ہیں

لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ (فَلَوْزَبر)

ہر حیثیت سے تم میں کا سب سے زیادہ نفیس افضل و اشرف رسول آگیا)

قاعدہ کی بات ہے کہ افضل و اشرف کی اطاعت بار نہیں ہوتی اب تو تم کو اس رسول کی اطاعت بار
نہیں ہونا چاہیئے۔

فصل - ۱۰

قاعدہ ہے کہ کوئی شخص دوسروں کے لئے تکلیف اٹھائے تو جس کے لئے تکلیف اٹھائی جا رہی ہے وہ اس کوئن جانتا ہے اور اس محض کا تابعدار ہو جاتا ہے اس فصل میں حضور امت کے واسطے جو جو تکلیف اٹھائے ہیں ان کا بیان ہے تاکہ حضرت کے اس احسان کی وجہ سے حضور کی تابعداری کا شوق بڑھے۔

ہے وہ رسول جو تم میں سے ہے، تم سب سے اشرف و افضل ہے اور جس کے پیغہ کے قطروں سے تم بنے ہو اس لئے تم سے اس رسول کو کچھ ایسا تعلق ہے عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّم (پ ۱۶ سورۃ التوبہ) تمہاری مشقت ان پر شاق ہے اور جو چیز تم کو رنج میں ڈالے وہ ان پر گراں گزرتی ہے وہ اس دھن میں رہتے ہیں کہ تم کو کوئی ضرر نہ پہنچ خود تکلیف اٹھاتے ہیں مگر تم کو آرام پہنچاتے ہیں۔

صاحب! یاد ہے کہ عموماً وحی اترتے وقت اور خاص کر قرآن کی وحی اترتے وقت اونٹ کھڑا نہیں رہ سکتا تھا، چہہ مبارک پیغہ پیغہ ہو جاتا تھا۔ سانس چڑھنے لگتا تھا۔ اس طرف کا ہوش نہیں رہتا تھا۔ سب اپنے پر سہہ لے گر آپ کے لئے قرآن چھوڑے ہیں کہ کس آسانی سے پڑھ سکتے ہو۔

ہے! حضور کئی کئی دن بھوکے رہتے، پیٹ پر پھر باندھتے تھے۔ صاحبو! کیا حضرت محتاج تھے، آپ اگر چاہتے تو اتنے مالدار رہتے کہ دنیا میں کوئی آپ کے برابر نہ ہوتا۔

حدیث:-

ایک روز جبریل علیہ السلام عرض کئے اگر آپ پسند فرمائیں تو اللہ تعالیٰ جبل احمد کو سونے کا بنا دیگا اور وہ آپ کے ساتھ ساتھ چلا کرے گا۔

جبل احمد پہاڑ کے چلنے پر اعتراض کا جواب:
اگر کوئی نئے فیشن والے اعتراض کریں کہ جبل احمد کیا چلتا؟

صاحب! زمین متحرک ہے یا نہیں جب زمین حرکت کر سکتی ہے تو جبل احمد کے حرکت کرنے میں کیا محال لازم آتا ہے۔ اگر آپ یہ کہیں کہ زمین کشش آفتاب کی وجہ سے چلتی ہے تو میں کہوں گا کہ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم مبارک میں اگر کشش ہو تو کیا قباحت ہے کشش کے لئے جسم کا بڑا ہونا ضروری نہیں۔ کشش تو محض آپ کی خاطر مان لی گئی ہے ورنہ کشش کیا چیز ہے۔

جو شخص خدا کو مانتا ہے اس کو کشش کے ماننے کی ضرورت نہیں ہے خدا کے حکم سے اگر جبل احمد حضور کے ساتھ چلے تو کیا عجب ہے۔

غرض جبریل علیہ السلام حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کئے اگر آپ پسند فرمائیں تو اللہ تعالیٰ جبل احمد کو سونے کا بناتا ہے اور وہ آپ کے ساتھ ساتھ چلا کرے گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جبریل میں تو یہ چاہتا ہوں کہ ایک روز پیٹ بھر کر کھاؤں اور ایک دن بھوکار ہوں، جب پیٹ بھر کھاؤں تو اللہ کا شکر ادا کروں اور جب بھوکار ہوں تو صبر کر کے صبر کا اجر حاصل کروں۔

آپ ہی بتائیے یہ اپنے ہاتھوں سے کیوں اس تکلیف کو گوارا فرمائے اگر غور کیجئے گا تو معلوم ہوگا، بات یہ ہے کہ حضرت جانتے تھے کہ اگر میں دنیا لوں گا تو تمام امت تحصیل دنیا کو سنت سمجھ کر دنیا پر گرے گی، ہلاک ہو جائے گی۔ جیسے ایک کوسانپ کا منتر یاد ہے اس کو اپنے ضرر کا بالکل خوف نہیں ہے مگر پھر بھی وہ سانپ نہیں پکڑتا تاکہ کہیں بچہ بھی دیکھ کر سانپ کے منه میں انگلی نہ دیدے عزیز "عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ" تمہاری مشقت ان پر شاق ہے اور جو چیز تم کو رنج دے وہ ان پر گراں گزرتی ہے، اس لئے ہمارے خیال سے بھوکے رہے، پھر پیٹ پر باندھے مگر دنیانہ لیئے۔

عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ ہم نکلے امتوں کے واسطے کیسے کیسے مشقتیں برداشت کئے راتوں کو کھڑے کھڑے قدم مبارک درم کر گئے امت کیلئے دعا فرمار ہے ہیں۔ ایک بار ایک یہ آیت

إِنْ تُعَذِّبُهُمْ فَإِنَّهُمْ عِبَادُكَ جَ وَإِنْ تَغْفِرْ لَهُمْ فَإِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ (پ ۷۶ سورہ المائدہ)

اگر آپ عذاب کریں تو یہ آپ کے بندے ہیں اور اگر آپ ان کے گناہوں کو معاف کر دیں تو آپ

غالب اور حکمت والے ہیں۔
میں پوری رات گزار دیئے۔

یہ مشقت تمام امت کیلئے تھی جن میں سے موجود بہت کم تھے زیادہ وہ تھے جو بھی تک پیدا بھی نہ ہوئے تھے جیسے کوئی اپنے پوتوں پر پوتوں کے کئے جائیداد پیدا کرے۔

ہماری مشقت آپ کو مشقت میں ڈال دیتی تھی۔ اس قدر دلسوzi و ہمدردی تھی کہ خدا نے تعالیٰ کو ازراہ رحمت آپ کو روکنا پڑا۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے:

لَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ إِلَّا يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ (پ ۱۹ سورہ الشراء) **فَأَعْرَضْ عَنْهُمْ** (پ ۲۱ سورہ بقرہ) **وَلَا تَسْئُلْ عَنْ أَصْحَابِ الْجَحِيْمِ** (پ ۱۳ سورہ بقرہ)

کیا ان کے پیچھے آپ جان دیں گے وہ ایمان کیوں نہیں لائے۔ بس چھوڑ دیئے ان کو دوزخیوں کی حالت کچھ نہ پوچھیئے۔

کچھ تو غرض حضرت کو تھی نہیں صرف خیر خواہی تھی دوزخ سے بچانا مقصود تھا خود کونہ سہی بھلا اولاد کیلئے یہ کوشش تھی وہ بھی نہیں۔

حدیث:-

چیزیں لا ذلی بیٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا جب وہ آتیں حضرت بے چین ہو کر ان کے واسطے کھڑے ہو جاتے، جب حضرت سفر کو تشریف لے جاتے، سب سے آخر ان سے ملتے اور حضور جب سفر سے واپس آتے تو سب سے اول ان سے ملتے، ایسی بیٹی کام سے تھک کر ایک باندی حضور سے مانگتی ہیں تو آپ ان کے گھر تشریف لے جا کر فرماتے ہیں۔

بیٹا باندی لیتے ہو، یا باندی سے بہتر کوئی چیز، بیٹی بھی کیسی باپ کو چاہنے والی اور مطیع، عرض کئے باندی سے اچھی چیز دیجئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے سوتے وقت (۳۳) بار سجادہ اللہ (۳۳) بار الحمد للہ (۳۳) بار اللہ اکبر پڑھ لیا کرو، یہ باندی سے بہتر ہے۔

حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ لوگوں کی زکواۃ جو آئی تھی اس زکواۃ میں سے ایک کھجور منہ میں ڈال لیئے تھے، حضور ان کے منہ میں انگلی ڈال کر نکال دیئے۔ ایسے پیغمبر پر کسی کو غرض کا شبہ ہو سکتا ہے۔

محض امت کی خیرخواہی و شفقت تھی حضور کی اس لئے عزیز علیہ ما عنتم تمہاری مشقت ان پر شاق ہے اور جو چیز تم کو رنج دے وہ ان پر گراں گزرتی ہے۔ کیوں نہ ہوا یک سفیر ہوتا ہے جیسے خط پہنچانے والا اور ایک آقا سردار ہوتا ہے جیسے استاد جو حاکم و مرتبی بھی ہو۔

حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی مثال سفیر خطوط رسان کی نہیں تھی بلکہ آقا و سردار و استاد و مرتبی کی تھی، اس لئے جو شخص بھی آپ کا خلاف کرتا تھا اس پر آپ افسوس کرتے تھے کہ ہائے یہ شخص کیوں بگذر رہا ہے، اگر آپ سفیر ہوتے تو آپ افسوس ہی کیوں کرتے، آپ اپنی سفارت پوری کر دیئے بری ہو گئے سفیر کا کام صرف اتنا ہی ہے خواہ کوئی جنت میں جائے یادو زخمیں۔ مگر آپ ایسا نہیں کئے اس لئے کہ آپ آقا و سردار اور استاد و شفیق تھے۔

ایسی شفقت تھی حضرت کو امت پر کہ کبھی کسی کام کو کرنے سے اس وجہ سے روکتے تھے کہ کہیں وہ کام امت پر فرض نہ ہو جائے۔

مسواک سے آپ کو بڑی رغبت تھی، ہر نماز کے ساتھ آپ مسواک کرنا چاہتے تھے مگر خوف تھا کہ کہیں مسواک کرنا فرض نہ ہو جائے اس لئے کبھی ترک کرتے تھے۔

آپ کی دلی خواہش تھی کہ عشاء بہت دیر کر کے پڑھیں، مگر اس خیال سے آپ نہیں پڑھتے تھے کہ عشاء دیر کر کے پڑھنا امت پر فرض نہ ہو جائے۔

صوم وصال یعنی کہ کئی کئی دن تک رات اور دن روزہ رہنا، نہ رات کو کچھ کھانا نہ دن کو خود اس طرح کا روزہ آپ رہا کرتے تھے مگر امت کو منع فرمادیئے کہ تم ایسا روزہ نہ رہنا۔

آپ کا ارشاد تھا کہ کوئی اگر غائبانہ مجھ کو برا کہے تو اسکا ذکر میرے سامنے نہ کرنا تاکہ میرا دل اس سے ہمیشہ صاف رہے۔

ایک صحابی کی عادت تھی کہ روز وعظ نہیں کیا کرتے تھے حالانکہ سب کی خواہش تھی کہ وہ روز وعظ کریں، اس

کی وجہ یہ بیان کئے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم موقع دیکھ کر وعظ کرتے تھے تاکہ لوگ مول نہ ہوں اور اکتا نہ جائیں، اس لئے میں ہر روز وعظ نہیں کرتا ہوں، ورنہ تمہاری خواہش پوری کرتا۔

اس لئے عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّم تہاری مشقت ان پر شاق ہے اور جو چیز تم کو رنج دے وہ ان پر گراں گزرتی ہے۔

اسی واسطے قیامت میں حضور امت کو ایسا ڈھونڈیں گے جیسے کوئی ماں اپنے کھوئے ہوئے بچہ کو ڈھونڈتی ہے قبر شریف میں جب ہفتہ میں دو بار امت کے اعمال پیش ہوتے ہیں تو آپ نیکیوں سے خوش اور گناہوں سے رنج فرماتے ہیں، یہ سب اسی واسطے کہ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّم تہاری مشقت ان پر شاق ہے اور جو چیز تم کو رنج دے وہ ان پر گراں گزرتی ہے۔

ہائے! جس نبی کی یہ شفقت کہ ہماری ذرا سی مشقت بھی بار ہو، ہم ان کو بعد انتقال کے بھی ان کو راحت نہ پہنچائیں اور جو عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّم ہو، ہفتہ میں دو بار ہمارے برے اعمال دیکھ کر حصور کا کیا حال ہوتا ہوگا۔

ہائے! ہم ایسے ناپکار ہوئے کہ درود شریف پڑھ کر خوش کیا کرتے بجائے اس کے رنج پہنچاتے ہیں۔

فصل - ۱۱

فطرت کا اقتداء ہے کہ مردی اور شفیق کے ساتھ محبت ہو جاتی ہے جس پر شفقت کی جاری ہی ہے وہ اس مشق کا غلام ہو جاتا ہے۔ آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام بنے اور کامل طور پر حضرت کی پیروی کرنے کے لئے اس فصل میں مشق اعظم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا اور آخرت کی شفقوں کا بیان ہے۔

مسلمانو! تمہارے پاس ایک عظیم الشان رسول آگیا جو تم میں کا ہے اور تم سب سے افضل و اشرف ہے

اس نبی کو تم سے کچھ ایسا تعلق ہے عَزِیْزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّم نہیں چاہتا ہے کہ تم کو کوئی ضرر پہنچے تم کو ذرا سی ایزا دینے والی چیز اس نبی کو بے چین کر دیتی ہے۔ وَحَرِیْصُ عَلَیْکُم (پ ۱۶ سورہ التوبہ) وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تمہاری نجات اور ہدایت پر حریص ہیں۔ وہ اسی دھن میں رہتے ہیں کہ کسی طرح تمہاری نجات ہو جائے اور تم ہدایت یافتہ ہو جاؤ۔
ایک واقعہ سے آپ کو اندازہ ہو گا کہ حضرت کو ہمارے ہدایت کی کس قدر حرص تھی۔

حدیث:-

حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں رکانہ میں ایک پہلوان تھا۔ یہ مشہور تھا کہ رکانہ میں ایک ہزار مرد کے مقابلہ کی قوت ہے، غرض وہ بہت بڑا اور نامور پہلوان تھا، اس نے حضرت سے کہا کہ اگر آپ مجھ کو پچھاڑ دیں تو میں آپ پر ایمان لاتا ہوں، کوئی پوچھئے کہ کیا نبوت کیلئے پہلوانی بھی لازم ہے؟ مگر حضرت کو لوگوں کے ہدایت کی کچھ ایسی حرص تھی کہ آپ منظور فرمائیئے اور کشتی لڑنے کیلئے تیار ہو گئے اور میدان میں کھڑے ہو گئے۔ رکانہ سے کشتی ہونے لگی، حضرت نے اس کو اٹھا کر پھینک دیا اس نے کہا اس مرتبہ تو ایسا ہو گیا دوبارہ گرداب تھے تو جانوں، آپ پھر تیار ہو گئے، دوبارہ کشتی ہوئی دوبارہ اس کو آپ پھینک دیئے وہ ایمان لے آیا۔
اللہ اکبر لوگوں کے ہدایت پانے کی آپ کو کس قدر حرص تھی۔
کیسا ہم کو نجات دلانے کے درپے تھے چھوٹی چھوٹی باتیں تک ہم کو سکھا دیئے۔

حدیث:-

یہاں تک ہم کو بتلادیئے کہ ایک پاؤں میں جوتا پہن کر مت چلو۔ اس لئے اس طرح چلنے سے احتمال گرجانے کا ہے اور بدنمائی بھی ہے اور امراض کے پیدا ہونے کا بھی خیال ہے۔
یہ شفقت یہ خیرخواہی تو حضرت کو ہر ایک انسان کے ساتھ تھی۔

بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفُ رَجِيمٌ (پ ۱۶ سورہ التوبہ)

مگر خاص کر مسلمانوں پر نہایت شفیق، بکمال مہربان ہیں، کیاٹھکانا ہے آپ کی شفقت کا ہم تو تمام رات آرام سے سوئیں اور حضرت ہمارے لئے تمام تمام رات کھڑے ہو کر گزار دیں، وہ بھی صرف دعا کرتے ہی نہیں بلکہ ہماری مغفرت کیلئے روتے روتے، ایک رات فرمائے تھے الہی! ابراہیم علیہ السلام فرماتے ہیں۔

(اللہی جو میری اتباع کرے وہ میرا ہے) اور عیسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں ”إِنْ تُعَذِّبْهُمْ فَإِنَّهُمْ

عَبَادُكَ (پ ۷۶ سورۃ مائدہ)

فَمَنْ تَبَعَنِی فَإِنَّهُ مِنِّی ج (پ ۱۳ سورہ ابراہیم)

(اللہی اگر آپ ان پر عذاب کریں یہ آپ کے بندے ہیں)

میں کس منہ سے کہوں کہ گنہگاروں کو تو جان آخر وہ بھی میری امت ہیں، یہ کہتے جاتے تھے اور روتے جاتے تھے۔

اور یہ بھی فرماتے ’اللَّهُمَّ أَمْتِنِي مَعْمُولِي سَيِّدِي‘ کی اہانت سرکاری اہانت ہے۔

کس کی امت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت مجھ سے نہیں دیکھا جائے گا کہ میرا امتی دوزخ میں جائے۔ حکم ہوا۔ جبریل ذرا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تو جاؤ پوچھو آج آپ کیوں رو رہے ہیں، جبریل آکر پوچھتے ہیں حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میرے اللہ کو خوب معلوم ہے کہ میں کیوں رو رہا ہوں۔

حکم ہوا کہ جبریل جاؤ بولو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو

إِنَّا سَنُرُضِيْكَ فِيْ أَمْتِكَ وَلَا نَسُؤْكَ

(ہم آپ کی امت کو اس قدر مراتب اور نعمتیں دیں گے کہ آپ راضی ہو جائیں گے۔ آپ کو مایوس نہ ہونا چاہیئے)۔ آپ کو رنجیدہ نہیں ہونے دینے گے۔

معراج میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا۔ السَّلَامُ عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ اس

وقت بھی حضرت کو ہمارا خیال آیا السَّلَامُ عَلَيْنَا وَعَلَى عِبَادِ اللَّهِ الصَّالِحِينَ

کہہ کر صالحین کو سلام میں شامل فرمائے مگر گنہگاروں کو ویسے موقع پر بھی نہ بھولے اس لئے گنہگاروں کو اپنے ساتھ ملا کر **السلام علیئنا صیغہ جمع** سے فرمائ کر اپنے ساتھ سلام میں شامل کرنے۔

ہے! کیا امت کا خیال تھا۔ کیا امت پر شفقت تھی، معراج میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے تین برتن پیش کئے گئے۔ ایک شہد کا، ایک شراب کا، ایک دودھ کا، تو حضرت نے دودھ کو اختیار فرمایا۔

وہ شراب، دنیا کی شراب نہ تھی، جنت کی شراب تھی، حلال اور پاکیزہ تھی، کچھ آپ کو ضرر نہ تھا، نہ آپ کو کچھ گناہ ہوتا، اسی طرح شہد لیتے۔

مگر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم شراب اور شہد نہ لئے۔ اس لئے کہ اگر حضرت ذرا بھی اس وقت لذات کی طرف مائل ہو جاتے تو خوف تھا کہ امت لذات میں پڑ جاتی، حضور نے دودھ کو اختیار فرمایا۔

عالم برزخ میں دودھ کی صورت دین کی ہے اس لئے اگر خواب میں کوئی دودھ پیتے ہوئے یا پلاتے ہوئے دیکھے تو اس کی تعبیر دیندار ہونے کی دی جاتی ہے۔

حضرت کے دودھ اختیار کرنے کی وجہ حضرت جبریل علیہ السلام خوش ہو کر فرمائے۔

إِخْرَتُ الْفِطْرَةَ وَلَوْ خَرَتُ الْخَمْرَ لَغَوَتْ أُمَّتُكَ.

آپ دودھ کو کیا اختیار کیئے فطرت اسلام کو اختیار کیئے اور اگر آپ شراب لیتے تو آپ کی امت گمراہ ہو جاتی حضور کے دودھ اختیار کرنے کی برکت ہے کہ امت محمدیہ کو دین کا بہت خیال ہے، کاملین کے سامنے ناقصین چاہے کیسے ہی معلوم ہوں مگر مجموعی طور پر امت محمدیہ کو دوسرے یہود و نصاری کے مقابلہ میں دینداری کا خیال کامل ہے۔

حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کی کیا کیا رعایتیں اور کیا کیا عنایات فرمائے ہیں، عورتیں نماز کے لئے مسجد میں آیا کرتی تھیں اور ان کے ساتھ ان کے بچے بھی ہوتے تھے فرماتے ہیں کہ میں نماز کو طول کرنا چاہتا ہوں مگر جب بچہ کے رونے کی آواز سنتا ہوں تو نماز کو مختصر کر دیتا ہوں۔ تاکہ کہیں بچہ کی ماں پر یثان نہ

ہو جائے کیونکہ ابتداء اسلام میں عورتیں بھی نماز جماعت سے ادا کرنے کے لئے مسجد میں آیا کرتے تھے اور ان کے ساتھ بچے بھی ہوتے تھے۔

آخرت میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے جو جو شفقتیں ہوں گے وہ کچھ نہ پوچھو۔

حکایت :-

کسی نے ایک شخص کو تخفہ دیا اور کہا کہ مدرسہ میں جاؤ اور جو بچہ سب سے زیادہ خوبصورت و مقبول نظر آئے یہ ہدیہ اس کو دو۔ وہ شخص مدرسہ میں آیا اور اپنے بیٹے کو وہ ہدیہ دیا، لوگوں نے پوچھا اسے سب کو چھوڑ کر اپنے بچہ ہی کو کیوں دیا تو اس نے کہا مجھے سب سے زیادہ اچھا میرا بچہ معلوم ہوا، اسلئے اس کو دیا۔

ایسا ہی کل قیامت میں اللہ تعالیٰ فرمائے گا قیامت کے مدرسہ میں جائیے۔ میری رحمت کا تخفہ اپنے شفاعت کے ہاتھ سے عمل کے اعتبار سے جو سب سے زیادہ اچھے ہوں ان کو دیجئے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم وہ رحمت کا تخفہ اپنی امت کے گنہگاروں کو دیں گے اور فرمائیں گے، سب سے زیادہ میرے دل کا تعلق ان ہی سے ہے۔

حکایت :-

ایک شخص کو دعوت دی گئی وہ صاحبِ دعوت میں آئے، کھانا دستِ خوان پر رکھا گیا مگر وہ صاحب کھانے کی طرف ہاتھ نہ بڑھائے میز بان نے پوچھا میرے مخدوم، میرے حضرت! کھانا حلال مال سے تیار ہوا ہے پھر کیوں آپ رک رہے ہیں، وہ فرمائے کیا کہوں میرا جگر گوشہ کونہ میں بھوکا پڑا ہے میرا ہاتھ کھانے کی طرف کیسے اٹھے گا۔

ایسا ہی جنت کی نعمتیں سامنے ہیں مگر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ نہیں بڑھتا۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا میرے پیارے نبی! ان جنت کی نعمتوں سے لطف اٹھاؤ حضرت فرمائیں گے میری امت کے گنہگار، میرے جگر گوشہ تکلیف میں ہوں، اور میں نعمت میں، یہ مجھ سے کیسے ہو سکے گا الہی! یا تو مجھ کو ان کے ساتھ دوزخ میں بھیج یا انکو میرے ساتھ جنت میں بھیج دے، حکم ہوگا میرے پیارے نبی آپ کو تو دوزخ میں نہیں بھیجا جا سکتا۔ امت کو ہی آپ نکے ساتھ جنت میں بھیجتا ہوں تاکہ ان کو ہماری رحمت اور آپ کی عزت کی قدر ہو۔

از پئے آمرزش یک مشت خاک ۔ ہم گنہگاروں کی مغفرت کے لئے آپ دعا کا ہاتھ اٹھائے
کف بکشا تا بہ تو بخشد پاک ۔ تاکہ سب کی بالکل مغفرت ہو جائے۔

چو بکشائی نظر مرحمت ۔ آپ جب رحم کی نظر ہم پر ڈالیں، ہمارے دلوں کا زخم
بستہ شود ریش دل از مرحمت ۔ آپ کی نظر رحم سے ایسا چنگا ہو جائے گا جیسا مر ہم سے ہوتا ہے۔

کف بکشا و ہمہ را شاد کن ۔ آپ رحم کیلئے ہاتھ بڑھا لیئے، سب کو خوش کر دیجئے۔

بندہ خود خواں پس از آزاد کن ۔ اپنا غلام کہہ کر پھر ہم کو دوزخ سے آزاد کر دیجئے۔

چوں نہ تو ٹھیک کہ شفاعت کند ۔ آپ جیسے شفع جب ہماری شفاعت کریں اللہ تعالیٰ

حق چہ کند جز کہ اطاعت کند ۔ ضرور آپ کی شفاعت ہمارے لئے قبول فرمائیں گے

از کرمش حاجت چندیں گدائے ۔ ہم فقیروں کی حاجت اللہ تعالیٰ سے مانگئے پھر کیا

ہم تو طلب تا بہ تو بخشد خدائے ۔ ہے اللہ تعالیٰ ضرور ہماری مغفرت فرمائیں گے

دوستو! پانی اور آگ مہلک چیزیں ہیں مگر پانی مچھلی کو نہیں ڈبو سکتا، آگ سمندر (آگ میں پیدا ہونے والا جانور) کو نہیں جلا سکتی، یہ تو آنکھوں سے دھکتی ہوئی بات ہے۔

اسی طرح سونچو دنیا کی مثال اللہ تعالیٰ نے پانی سے دی ہے۔

إِنَّمَا مَثَلُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا كَمَاءٌ أَنْزَلْنَاهُ مِنَ السَّمَاءِ (پ ۱۱۴ سورہ یونس)

(دنیا کی زندگی کی مثال پانی کے جیسی ہے جو پانی ہم آسمان سے اتارے ہیں)

کتنا ہی دنیا میں حوادث و بلاؤں اور آفتوں کا تلاطم ہو، اور مصیبت کے امواج اٹھ رہے ہوں، امت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم ڈوبنے کی نہیں مثل مچھلی کے یہاں چھوڑا گیا ہے، دوسرے کنارہ پر نمودار ہوتی ہے۔

دمشق کا دارالسلطنت بر باد ہوا تو بغداد آباد ہوا، بغداد کو زوال آیا، مصر میں خلافت قائم ہوئی، مصر ڈوبا، قسطنطینیہ ابھرا۔ آج قسطنطینیہ فنا ہونے کو تھا انگورہ چکا۔

کل دوزخ کی آگ میں محبت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم جن کے دلوں میں ہے کہیں گے، سمندر (آگ کے

جانور) کی طرح ہم کیا جلیں گے بلکہ دوزخ یہ کہے گی۔

جُرْ يَامَّؤْمِنْ فَإِنْ نُورَكَ أَطْفَاءُ لَهُبِّيْ

(اے مسلمان جلد تو مجھ پر سے گزر جا، تیرے دل کا نور میرے شعلوں کو بچا رہا ہے)

حکایت:-

ایک فاسق و فاجر مر گیا، لوگ اس کو کھینچ کر ایک گھوڑ پر ڈال دیئے۔ جبریل علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کا حکم ہوا کہ موسیٰ علیہ السلام کے پاس جاؤ اور کہو موسیٰ ہمارا ایک دوست مر گیا اس کو لوگ گھوڑ پر ڈال دیئے ہیں، اس کی نماز پڑھو اور اس کا کفن کرو، اسکی برکت سے ہم سب کی مغفرت کرتے ہیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام جب گھوڑ پر آ کر دیکھتے ہیں تو وہی فاجر ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حیرت ہوئی، پوچھے الہی! یہ کیا راز ہے حکم ہوا موسیٰ بیٹک یہ گنہگار ہے مگر یہ شخص ایک روز توریت شریف کھولا، اس میں محمد نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف لکھی ہوئی دیکھا اور اس کے دل میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت پیدا ہو گئی۔ نام محمد پر منہ رگڑ رہا تھا اور اپنے گناہوں کی مغفرت مانگ رہا تھا۔ نام محمد کی برکت اور حضرت کی محبت سے اس کے گناہ معاف کردیئے گئے اس کی کسی کو خبر نہ ہوئی وہ مر گیا، لوگ اس کو گنہگار سمجھے ہوئے ہیں مگر اس کی مغفرت ہو چکی ہے۔ جیسے اس حکایت میں ہمیشہ کا گنہگار نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے اور آپ کی محبت کے طفیل سے دوزخ سے نجات پا گیا، جنتی ہو گیا۔

ایسا ہی آپ کی امت جو دوزخ پر سے گزرے گی تو نام محمد ﷺ کی برکت سے اور آپ کی محبت کی وجہ سے دوزخ نہ جلائے گی، جلد اپنے پر سے گزر جانے کو کہے گی۔

جب حضرت یعقوب علیہ السلام کی جدائی کا زمانہ ختم ہوا، حضرت یعقوبؑ اپنے سب اہل و عیال کو لے کر مصر کی طرف چلے، ادھر حضرت یوسف علیہ السلام کو آراستہ کئے دو طرف فوج قطار باندھے کھڑی تھی، فوج پہلے گزری، پھر یوسف علیہ السلام کی سواری آئی جب حضرت یوسفؑ اور حضرت یعقوبؑ دونوں کی نظریں ملیں، یعقوبؑ بے ہوش ہو کر زمین پر گر پڑے، ملاء اعلیٰ کے فرشتے یہ نظارہ دیکھ رہے تھے، جنات بھی ان دو مشتاقوں کی بے چینی سے حیران تھے، جبریل علیہ السلام ستر ہزار فرشتوں کے ساتھ رحمت کے طبق شارکر رہے تھے، حوریں بھی جنت کے

کھڑ کیوں سے تماشا دیکھ رہی تھیں۔ رضوان بھی انگشت بدنداں تھے، سب مل کر عرض کئے الہی! جیسی محبت حضرت یعقوبؑ کو حضرت یوسفؑ سے ہے کیا ایسی محبت اور کسی کو کسی سے ہے۔

اللہ تعالیٰ کا حکم ہوا جیسی محبت یعقوبؑ کو یوسفؑ سے ہے اس سے ستر حصہ زیادہ محبت مجھے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت سے ہے۔

دوستو! یہ سب کیوں یہ صدقہ ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا آپ کے محظوظ اور محسن ہونے میں کیا شک رہا۔ یہ محبت یہ عنایت دیکھ کر تو ہم کو حضرت کا عاشق و جان شار ہونا چاہیئے تھا اور یوں کہنا چاہیئے تھا۔

گر بر سر و چشم من نشینی : یار رسول اللہ اگر ہمارے سر اور آنکھوں پر آپ بیٹھیں، میں آپ کا نازت بہ کشم کہ ناز نہیں : سب نماز اٹھاؤں گا۔ اس وجہ سے کہ آپ اسی قابل ہیں۔

حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم سے محبت سمجھی ہے مگر ہماری محبت حضرت سے صرف زبانی ہے، کتنی شرم کی بات ہے، ہائے محبت کا دعویٰ اور برے اعمال کر کے آپ کو ایذا پہنچا رہے ہیں کیا محبت اسی کا نام ہے۔

ذیل میں جو واقعہ درج ہو رہا ہے اس کو سب اچھی طرح جانتے ہیں مگر دلیلاً مکرر درج ہو رہا ہے۔

حکایت:-

ایک شاعر تھے دل ان کا رتیق تھا ان کے کلام میں سوز و گداز تھا ایک شخص ان کے فارسی اشعار دیکھ کر ان کو صوفی سمجھ کر ایران سے چلا اور ہندوستان میں ان کے گھر پر ایسے وقت آیا کہ وہ جامات بنارہ ہے تھے جام استرے سے داڑھی صاف کر رہا تھا وہ آنے والا جھلا کر کہا آغا ریش می تراشی (کیوں صاحب داڑھی منڈھوار ہے ہو) شاعر صاحب نے کہا بلے ریش می تراشم مگر دل کس نبی خراشم یعنی داڑھی ترشاواتا ہوں مگر کسی کا دل نہیں دکھاتا ہوں، بڑا گناہ دکھانے کا ہے اس آنے والے نے بے ساختہ جواب دیا، آرے دل رسول اللہ می خراشی، مطلب یہ ہے کہ حضرت کو جب اطلاع ہوگی کہ فلاں شخص میرا خلاف کر رہا ہے تو حضرت کو کیسی ایذا ہوگی، یہ سن کر شاعر صاحب کے آنکھیں کھلیں کہنے لگے۔

جزاک اللہ کہ چشم م باز کر دی

جزاک اللہ کہ میری آنکھ آپ نے کھول دی۔

مرا با جان ہمراز کر دی

جان جاناں کے ساتھ مجھ کو ہمراز کر دیئے۔

شاعر صاحب کہے اتنے روز سے میں اندھا تھا آج معلوم ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایذا ہو رہی ہے۔

غرض کہ یہ محبت کیسی ہے کہ حضرت کے دل کو ایذا پہنچ رہی ہے، حضرت کا وہ حال اور ہمارا یہ حال، کیا

الصف اسی کا نام ہے۔

میرے دوستو! خدائے تعالیٰ کے بہت سے نام ہیں مخلصہ ان کے رووف اور رحیم بھی اللہ تعالیٰ کے نام ہیں، خدائے تعالیٰ کی رحمت و شفقت جو ہم پر ہے اسکو کیا بیان کروں، آپ اگر کوئی چیز اپنے ہاتھ سے بنائیں اس سے آپ کو کس قدر محبت ہوتی ہے اور کتنا تعلق ہوتا ہے، بنے ہوئے اجزاء کو جوڑ کر ایک چیز بنادیتے ہیں تو اتنی محبت ہے، اجزاء کو بھی اور آپ کو بھی خدا نے بنایا ہے تو کتنی محبت ہوگی۔ ہائے اگر کوئی عہد یدار کسی کو بناتا ہے تو اس کو خیال رہتا ہے کہ یہ ہمارا بنایا ہوا ہے اسی پر سوچئے کہ خدا کو ہمارا کس قدر خیال ہوگا۔

اسی واسطے توریت میں ہے کہ اگر چہ ابرار میری ملاقات کے مشتاق ہیں لیکن میرا اشتیاق ان سے ملنے کا ان سے بڑھ کر ہے جس طرح ماں اپنے پیارے بچوں کی خبر گیری کیا کرتی ہے، اسی طرح میں اپنے بندوں کی خبر گیری کرتا ہوں۔

اے داؤد! اگر یہ بد بخت لوگ مجھ سے دور پڑے ہوئے ہیں دل کھول کر گناہ کرتے جا رہے ہیں جان لیں کہ میں کیسا ان کا منتظر ہوں اور کیسا ان پر مہربان ہوں اور مجھ کو کیسا شوق ہے کہ کسی طرح وہ گناہوں کو چھوڑ دیں اور میری طرف چلیں تو ضرور وہ لوگ مر جائیں اور میرے اشتیاق اور محبت کو جان کران کے اعضاء شوق و محبت میں نکڑے نکڑے ہو جائیں۔

اے داؤد! جب میرا حال ان بد بختوں کے ساتھ جو میری راہ پر نہیں چلتے یہ ہے تو کیا حال میرا ان لوگوں کیسا تھا ہوگا جو کہ میرے شوق میں ڈوبے ہوئے عشق میں بھرے ہوئے دنیا کو چھوڑے ہوئے اپنے آپ کو بھولے ہوئے دل و جان سے میری طرف دوڑتے چلے آتے ہیں، جب میری محبت کسی سے زیادہ ہو جاتی ہے تو اس کو

مرنے سے پہلے توبہ کی توفیق دیتا ہوں، وہ توبہ کر لیتا ہے میں اس کے پچھلے گناہوں کو مٹانے کے واسطے بلااؤں اور مصیبتوں میں ڈال کر پاک کرتا ہوں۔ میری محبت کی علامت یہ ہے کہ جس سے زیادہ محبت کرتا ہوں ان کو توفیق دیتا ہوں کہ اپنے نفس کے عیبوں سے واقف ہونے لگتا ہے، غرض خدائے تعالیٰ کو اپنے بندوں سے بے حد محبت ہے۔

حکایت:-

حضرت غوث اعظم رضی اللہ عنہ چالیس برس تک اللہ تعالیٰ کی رحمت کا بیان کرتے رہے، ایک روز اللہ تعالیٰ کے قہر کا بیان کئے تو کئی آدمی مر گئے، الہام ہوا کہ اے عبد القادر! کیا ہماری اتنی ہی رحمت تھی کہ چالیس برس میں ان کا بیان ہو گیا۔

صاحب! خدا کی ایسی رحمت ہے، اسی رحمت کو رواف و رحیم کے ذریعہ بیان فرمایا ہے۔

حکایت:-

جب یعقوب علیہ السلام مصر میں آئے تو یوسف علیہ السلام تمام مخلوق کو مصر کی جامع مسجد میں جمع کئے منبر رکھا گیا یوسف علیہ السلام بلیغ خطبہ پڑھے۔ پھر پوچھے مصر والو! تم کون ہو؟ سب کہے ہم آپ کے بندے ہیں، یوسف علیہ السلام فرمائے یہ یعقوب علیہ السلام خدا کے پیغمبر میرے باپ ہیں اور یہ سب میرے بھائی ہیں جو مجھے بے حد ستائے ہیں مگر میں یہ حضرت یعقوب جو منبر کے پایہ کے پاس ہیں ان کے طفیل سے میرے سب بھائیوں کے قصور کو معاف کر دیا، اس سے مصر والوں پر حضرت یعقوب علیہ السلام کی عزت و عظمت ظاہر ہوئی۔

مذکورہ واقعہ کی تطیق :-

ایسا ہی جب قیامت ہوگی حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میدانِ قیامت میں آئیں گے تو اس طرح آئیں گے کہ سیدھا ہاتھ جبریل علیہ السلام پکڑے ہوئے اور بایاں ہاتھ میکائیل علیہ السلام لئے ہوئے مقام محمود میں تشریف لایں گے۔ نور کا منبر رکھا جائے گا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اس پر تشریف رکھیں گے اللہ تعالیٰ فرمائے گا اے اہل عرصات! تم کون ہو؟ سب کہیں گے الہی ہم سب تیرے بندے ہیں حکم ہوگا میں رواف و رحیم ہوں اور یہ منبر پر بیخدا ہوانی بھی رواف و رحیم ہے، اس نبی کی اپنی امت پر جو رحمت و شفقت ہے اس لحاظ سے اپنانام

اس نبی کو دیا ہوں اب اس نبی کے طفیل سے تم سب کو بخش دیا۔

بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَّحِيمٌ (مسلمانوں پر روف و رحیم ہیں)

خدا تعالیٰ نے اپنا نام اس نبی کو دیا، اسی کا اثر ہے کہ یہ نبی مسلمان پر مہربان و شفیق ہے۔

حکایت:-

جب موی علیہ السلام ماء مدين (مدین کے کنوئیں) پر پہنچ تو کیا دیکھتے ہیں کہ لوگ اپنے اپنے جانوروں کو پانی پلا رہے ہیں۔ شعیب علیہ السلام کی دو صاحبزادیاں ایک طرف اس مجبوری کی وجہ سے کھڑی ہوئی ہیں کہہ کنوئیں سے پانی نکالنے کی قوت نہیں، لوگوں کے جانوروں کا جو پانی نجح رہے گا وہ اپنے جانوروں کو پلا لیں گے، موی علیہ السلام کو رحم آیا پانی خود کھینچ کر ان لڑکیوں کے جانوروں کو سیراب کر دیئے۔

واقعہ مذکورہ کی تطبیق:-

ایسا ہی جب قیامت کا میدان ہوگا متمنی اس شان و شوکت کے ساتھ جنت میں جائیں گے کہ سامنے سامنے فرشتے طرقوا طرقوا (راستہ دوراستہ دو) کہتے ہوئے چلیں گے۔

گنہگار ایک کونہ میں حیرت سے کھڑے ہوئے ہوں گے حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر مبارک جب ان پر پڑے گی شفاعت کے ڈول سے سیراب کر کے مغفرت کا سامان کریں گے۔ اس لئے اللہ تعالیٰ حضور کی شان میں فرمایا **بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَّحِيمٌ** (مسلمانوں پر روف و رحیم ہیں) ک

یارب چوبالین لحد خواب شویم
اللہی جب ہم قبر کے بچھونے سوئیں گے جب قیامت
میں ہوشیار ہوں تو ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور
صحابہ کے سامنے رہیں۔

پیاسے قیامت کے میدان میں ہم آئیں گے ایسا کیجئے کہ ہم
آپ کے نبی کے رحمت کے حوض سے سیراب ہوئیں۔

لب تشنہ بے صحراۓ قیامت آئیم
از بر کہ رحمت نبی تو سیراب شویم

اسی واسطے آپ بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفُ رَّحِيمٌ ہیں۔

ہائے اس نبی کی رحمت کو کیا پوچھتے ہو، جب قیامت قائم ہوگی اللہ تعالیٰ کا حکم ہوگیا یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کو حساب کیلئے لا، حضور خلفاء راشدین کو انصار و مہاجرین کو صدیق و زاہد و عابدوں کو پیش کریں گے، گنہگاروں کو خدا کے سامنے لے جانے سے شرمائیں گے، اللہ تعالیٰ کا حکم ہوگا میرے پیارے نبی آپ تو تابعداروں کو لائے ہونا فرمان کہاں ہیں، حضور فرمائیں گے الہی تیرے سے شرما کر اور تیرے کرم پر بھروسہ کر کے نہیں لایا ہوں، اللہ تعالیٰ کا حکم ہوگا محمد ابی مجھے آپ کی امت پر عتاب کرنا مقصود نہ ہوتا تو قیامت کا میدان ہی نہ بھرا تا، مقصود تو مسلمانوں پر جو میرے دوستی کا دم بھرتے تھے عتاب کرنا ہے، کیوں مسلمانوں کیا یہی دوستی کا تقاضہ تھا کہ تم دنیا میں ہمیشہ ہمارا خلاف کرتے رہے۔ اب یہ دکھاؤں گا تم کئے ہو۔ اور میں اس نبی کے طفیل تمہارے ساتھ کیا کرتا ہوں۔ تاکہ تم کو معلوم ہو کہ میں اس واسطے میرے نبی کو بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفُ رَّحِيمٌ کہا ہوں۔

اے نبی آپ کا چہرہ مبارک غمزدوں کے دل کا محرب
ہے، خاک نشینوں کے سر پر آپ کا مبارک ہاتھ سرمایہ
رحمت ہے۔

جس دن نیک جنت کی طرف جائیں گے اور گنہگار منہ
دیکھتے رہ جائیں گے اس وقت آپکے سوا کون شفاعت
کرنے والا ہے۔

جب اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی روح کو پیدا کیا تو آپ کی روحانی صورت ویسی ہی بنایا جیسی دنیا میں ہے۔

آپ کا سر مبارک برکات سے بنایا اور آنکھیں حیا سے، کان عبرت سے، زبان ذکر سے، ہونٹ تیز سے، چہروں رضا سے، سینہ اخلاص سے، ہاتھ سخاوت سے، بال نبات جنت (یعنی جنت کی ہریالی) سے مبارک تھوک جنت کے شہد سے، اسی واسطے کھارے پانی کے چشموں میں جب آپ کا مبارک تھوک گرا ہے تو ان کھارے چشموں کا پانی شہد سے

اے روئے تو محراب دل غمنا کاں
اے دست تو سرمایہ بر سر رخا کاں

روزے کہ روند سوئے جنت پا کاں
جز تو کہ کند شفاعت بے با کاں

زیادہ شیریں ہو گیا، دل مبارک کو رافت (زمی) اور حقیقت اور رحمت سے بنایا۔ الغرض حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو ان صفتون کے ساتھ امت کا رسول بنائ کر بھیجا اس لئے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے۔ **بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَّجِيمٌ۔**

میرے دوستو! جب بولو، اس شان والا نبی اس کو کیا ضرورت تھی کہ ہماری طرف متوجہ رہے، یہ حضرت ہی کی خفقت ہے، ہمارے حال پر کہ ہم جیسے نالائقوں کے حالت پر توجہ فرماتے ہیں، ورنہ حضرت کہاں اور ہم کہاں، اس واسطے بھی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے: **بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَّجِيمٌ**
جو کچھ ہم کو محبت ہے وہ حضرت کے محبت کا اثر ہے ع

عشق اول در دل معشوق پیدا می شود

اول حضرت کو ہم سے محبت ہوئی، پھر حضرت کی کشش سے ہم کو آپ سے محبت تھوڑی بہت ہو گئی ہے، اس کا راز یہ ہے کہ محبت ہوتی ہے معرفت سے ہم کو آپ کی معرفت کامل نہیں، اور آپ کو ہماری معرفت کامل ہے، ہم حضرت کے مرتبہ کو نہیں جانتے، حضرت ہم کو ہر طرح پہچانتے ہیں، اسلئے حضرت کو ہم سے جس قدر محبت ہے، اس قدر ہم کو حضرت سے نہیں، اللہ تعالیٰ اسی لئے فرمایا۔ **بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَّجِيمٌ۔**

کیا اس کا یہی تقاضہ ہے کہ حضرت ہی ہم سے محبت کریں اور ہم آپ سے کچھ بھی محبت نہ کریں، کسی کی تابعداری اس وقت سہل ہوتی ہے کہ وہ عظیم الشان ہو، محسن ہو، محبوب ہو۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سب کچھ ہیں، پھر حضرت کی تابعداری کیوں سہل نہیں ہوتی، ان صفات کو تو سن کر حضرت سے طبعی محبت ہونا تھا اور تابعداری سہل ہونا تھا اور کچھ تو محبت ہونا تھا۔

ہائے محبت وہ شئی ہے کہ سب کچھ آسان کر دیتی ہے دیکھو اگر کسی چڑیل مردار سے محبت ہو جاتی ہے، سب تینیاں شیریں ہو جاتے ہیں۔

ہائے! حقیقت میں تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ہی محبوب ہونے کے لاٹ ہیں۔ دنیا میں جس سے محبت ہوتی ہے اس کہا مانا جاتا ہے، اسکی عظمت دل میں ہوتی ہے، خود اس محبت کا تقاضہ ہے کہ اس کی مرضی کے خلاف نہ کیا جائے۔

محبت سے غرض ہی یہ ہوتی ہے کہ محبوب کا دل خندا ہو؛ محبوب کو اس سے راحت ملے۔
ہائے! یہ محبت کیسی ہے کہ اپنے محبوب کو تکلیف پہنچائی جا رہی ہے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمارے سب
اعمال کی خبر ہو رہی ہے کیا ہمارے برے اعمال سے حضرت کو تکلیف نہ ہوتی ہوگی۔

خدا اور رسول کے احکام میں شبہ :-

یہی محبت کسی عورت سے ہو جائے اور وہ کہے کہ اپنا کرتہ نکال کر سر بازار برہنہ نکل جاؤ تو میں تم سے خوش
بوں گی، وہ شخص اگر محبت میں پکا ہے تو کبھی یہ نہ پوچھنے گا کہ اس میں کیا حکمت ہے بلکہ یوں کہے گا لہ میرے محبوب
نے اپنے راضی ہونے کی ایک صورت تو نکالی، مجھ کو وجہ دریافت کرنے سے کیا غرض۔ محبت کی تو بڑی مصلحت محبوب
کا راضی کرتا ہے۔ جب مردار عورت کی محبت میں یہ حال ہے، اس کے احکام کی وجہ دریافت نہیں کی جاتی تو رسول
الله صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا کیا پوچھنا؟ اگر ہم کو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے واقعی محبت ہے تو ہم کو حضرت کے
احکام کی وجہ پوچھنے کی کیا ضرورت، یہ احکام تو دیکھو کہ کس مقدس ذات کے ہیں، ان کی وجہ کیوں دریافت کی جاتی
ہے، ان احکام میں کیوں شبہ نکالے جا رہے ہیں، معلوم ہوتا ہے کہ محبت نہیں ہے، بڑا بد نصیب ہے وہ شخص جو ایسے
نہیں کے برکات سے محروم رہے اور کچھ حاصل نہ کرے۔

ہندوستان میں ایک حاکم لنگر کر چلتے تھے فیشن کے گرویدہ بھی لنگر کر چلنے لگے ایک بادشاہ کی داڑھی گاؤدم تھی لوگ
بھی مت تک گاؤدم داڑھی رکھتے تھے، شاید دعا کرتے ہوں کہ ہماری داڑھی ایسی ہی ہو جائے اور یہ بھی دعا کرتے
ہوں کہ ہم لنگرے ہو جائیں، دیکھنے عظمت و محبت اس کا نام ہے۔

ہائے! حضرت کی عظمت و محبت سے ذرا رنگ نہ بد لے، اور ایک بے دین کی ایسی عظمت کہ حلال و حرام
کی تمیز نہ رہے۔

اگر خدا یے تعالیٰ نامنے بلا کر صرف اتنا پوچھئے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت تمہارے دل میں زیادہ
تھی یا شاہانہ دنیا کی تو کیا جواب دو گے۔

حضرت صلی اللہ علیہ وسلم صاف صاف فرمادیے (۳۷) فرقے ہوں گے سب دوزخی ایک جنتی، صحابہ عرض

کے جنتی کونسا ہوگا؟ حضور فرمائے۔ مَا آنَا عَلَيْهِ وَأَصَحَّابِيْ (جس پر میں ہوں اور میرے صحابہ ہیں) رحمت کی آیتیں اتریں اور رحمت کی جو حدیثیں بیان ہوئیں ان کا تقاضہ یہ تھا کہ حضرت کا احسان مانتے، احسان سے آدمی ممنون اور شکر گزار ہوتا ہے ہماری یہ کیسی دلی اور ذلیل طبیعتیں ہیں کہ جتنا احسان ہمارے ساتھ کیا جاتا ہے ہماری غفلت اور ناشکری بڑھتی ہی جاتی ہے ورنہ شرافت کا مقتضی یہی تھا کہ جس قدر احسان زیادہ ہو محسن کی اطاعت میں اور زیادہ سرگرمی ہو۔

یہ شریف طبیعتیں صحابہ کی تھیں کہ رحمت کے احادیث سننے ہیں مگر یہ خیال فرماتے ہیں کہ کیا یقین ہے کہ اس کے مستحق ہم ہوتے ہیں یا نہیں، صحابہ کرام کو نام لے کر کہا گیا ابو بکر تم جنتی، عمر تم جنتی، عثمان تم جنتی، علی تم جنتی (رضی اللہ تعالیٰ عنہم) پھر بھی اس قدر خوف الہی تھا اور خوف سے وہی رونا تھا اور وہی تابع داری تھی۔

حضرت صلی اللہ علیہ وسلم حذیفہ رضی اللہ عنہ کو منافقین کے نام بتائے تھے۔

حضرت عمر رضی اللہ عنہ، تہائی میں حذیفہ رضی اللہ عنہ کو بلا کر پوچھتے ہیں چج بولو حذیفہ میرا نام منافقوں میں حضرت نہیں گئے ہیں۔ ع

خش است وہزار بدگمانی : جب عشق و محبت ہوتی ہے تو بہت سی بدگمانیاں پیدا ہو جاتی ہیں ہر وقت خیال رہتا ہے کہ کہیں میرا محبوب مجھ سے ناراض تو نہیں ہوا۔

آنی بشارتوں پر پھر بھی چین نہ تھا۔

اس لئے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے۔

فَإِنْ تَوَلُّوْ أَفْقُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ (پ ۱۱ سورہ التوبہ)

اگر اس پر بھی باوجود ان احسانات کے آپ کی اتباع کرنے سے منھ پھریں اور نافرمانی کریں تو آپ کہہ دیجئے میرا کیا نقصان ہے، میرے لئے تو اللہ تعالیٰ حافظ و ناصر کافی ہے۔

لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ (پ ۱۱ سورہ التوبہ)

اس کے سوا کوئی معبودیت کے لا اق نہیں پھر مجھ کو کسی کی مخالفت سے کیا اندیشہ

عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمُ (پ ۱۱۶ سورہ التوبہ)

میں نے اسی پر بھروسہ کر لیا ہے وہ بڑے بھاری عرش کا مالک ہے۔

آفتاب زمین سے دیڑھ سو حصہ سے بھی بڑا ہے وہ آفتاب آسمان میں ذرا سی جگہ میں موجود ہے، پس آسمان کتنا بڑا ہوا، پھر دوسرا آسمان اس سے بڑا اور تیسرا اس سے بڑا، اور سب آسمان کرسی کے سامنے ایسے ہیں جیسے بڑی ڈھال میں سات درہم ڈال دیئے جائیں پھر کرسی عرش کے سامنے ایسی ہی چھوٹی ہے۔

مرکز عالم سے عرش کی سطح مقرر تک دس کروڑ پانچ لاکھ تھتر ہزار آٹھ سو سو تأسیس کوں کا فاصلہ ہے تو عرش کے مددب کا فاصلہ کتنا ہوگا جو اہل رصد کو معلوم نہیں وہ بھی اگر فلک الافلاک عرش ہو تو ورنہ عرش اس کے بھی اوپر ہوگا، اندازہ لگائیے عرش کی عظمت کا کیا حساب ہو سکتا ہے۔

حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے اللہ تعالیٰ جب ایسے بھاری عرش کا مالک ہے تو اور چیزوں کا بدرجہ اولیٰ مالک ہوگا۔ مجھے اس پر بھروسہ ہے اس لئے مجھے تو کچھ اندیشہ نہیں تم اپنی فکر کرو کہ میری نافرمانی کر کے کہاں رہو گے۔

حکایت:-

ایک بزرگ کے پاس حضرت شبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے وہ بزرگ حضرت شبی کو دیکھ کر سر و قد کھڑے ہو گئے اور ذرا آگے بڑھ کر شبی کے دونوں آنکھوں کے نیچ میں بوسے لئے، دیکھنے والوں نے جب اس کا سبب پوچھا ان بزرگ نے فرمایا میں خواب میں حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ شبی سے اسی طرح پیش آئے میں نے حضرت کی یہ مہربانی دیکھ کر کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ شبی سے اس طرح کیوں پیش آئے تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے کیوں نہ پیش آؤں وہ ہر نماز کے بعد لَقَدْ جَاءَ كُمْ رَسُولٌ مِنْ أَنفُسِكُمْ آخر سورہ تک کی آیت پڑھتا ہے اور اس کے بعد مجھ پر درود شریف پڑھا کرتا ہے۔ لوگو! پنج وقتہ نمازوں کے بعد یہ عمل کیا کرو، اور نماز صحح اور مغرب کے بعد سات مرتبہ پڑھا کرو **خَسِبِيَ اللَّهُ وَ نِعْمَ الْوَكِيلُ نِعْمَ الْمَوْلَى وَ نِعْمَ النَّصِيرُ**، ان کی برکت سے اللہ تعالیٰ ہر مہم آسان کر دے گا۔

فصل ۱۲

اس فصل میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اس امت پر کیا کیا حقوق ہیں ان کا بیان ہے۔

صاحب ! یہ نبی جو قیامت میں اس طرح کام آئیں گے تو دنیا میں آپ ان کے کیا حق ادا کر رہے ہو ؎ خدا کی رحمت ڈھونڈنے والو ! اگر خدا کی رحمت چاہتے ہو اور یہ چاہتے ہو کہ قیامت کے میدان میں خدا کی رحمت میں پناہ لو تو آور حمۃ للعلمین کے در پر آؤ۔ اسی در پر خدا کی رحمت بُثتی ہے کون رحمۃ للعلمین ؟ وہی جن کا نام مبارک محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے آسمانی کتابوں میں جن کی مدح و شناہ ہے جن کو خدا نے توفیق دی، انہوں نے اپنی کتابوں سے حضرت کو ملا کر دیکھ لیا، قربان ہو گئے مسلمان ہو گئے، حضرت کا وصف پہلی کتابوں میں ہونا تجھ نہیں، آقا کیسا تھے ہم غلاموں کا بھی وصف پچھلی کتابوں میں اللہ تعالیٰ نے لکھا ہے، اللہ اللہ کیسے کیسے خوش تقدیر ہوتم تمہاری تعریف پچھلی آسمانی کتابوں میں ہے۔

حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے عرض کیا الہی میں نے توریت میں دیکھا کہ اس میں آپ لکھے ہیں کہ آخر زمانہ میں ایک امت پیدا ہوگی، پیدا ہوگی سب کیا خر میں جنت میں جائے گی سب سے پہلے نیک بات تانا اور برائی سے روکنا ان کا طریقہ ہوگا، انکی کتاب الہی ان کے سینوں میں رہے گی (حفظ کریں گے) نیکی کا ارادہ کریں گے تو صرف ارادہ پر ایک نیکی کا ثواب ملے گا اور اگر عمل کریں تو اس ایک نیکی کے عمل پر دس نیکیوں سے سات سو نیکیوں تک کا ثواب ملے گا۔ برائی کے ارادہ سے برائی نہیں لکھی جائے گی اور وہ ”غُر مُحَاجَل“ پچکلیاں یعنی دونوں ہاتھ، دونوں پاؤں اور چہرہ وضو کے اثر سے منور رہے گا، پل صراط پر بجلی کی طرح گذر جائیں گے، پانچ وقت کی نمازیں پڑھیں گے، مخنوں کے اوپر پائچا مامہ یا تہبند ہوگا، آفتاب کے وقتوں کا لاحاظہ رکھیں گے، ان کا منادی ندا کرے گا ان کی نیکیوں کی شفاعت سے بدلوں کو بخشوں گا، بہت صبر کرنے والے ہوں گے، ان کے گناہ ان کے وضو سے دھل جائیں گے، نماز کا ثواب زائد رہا۔ تیرے ذکر کی طرف ایسے رجوع ہوں گے جیسے چڑیا اپنے گھونسلے کی طرف۔ غصہ میں لا الہ اللہ پڑھیں گے اور جھگڑے کے وقت سبحان اللہ کہیں گے، ان کے اعمال اور

ارواح کے لئے آسمان کے دروازے کھل جائیں گے۔ ملائکہ انہیں بشارت دیں گے ان پر تو صلوٰۃ بھیجے گا، ان کی نیکیاں بے حساب ہوں گی، متوسط، آسان سوال کے بعد جنت میں جائیں گے، گنہگاروں کی مغفرت ہوگی، ان پر قیامت میں آسانی ہوگی۔ ان کی فضیلت کو کوئی امت نہیں پائے گی۔ اپنے گھروں میں مریں گے اور شہید ہونے کی دین کی باتوں میں کسی ملامت کرنے والے کی ملامت کی پرواہ نہیں کریں گے مومنوں کے سامنے عاجز، لیکن کافروں پر سخت ہوں گے، ان کے مولوی، عالم، نبیوں کے درجے کے ہوں گے، موسیٰ نے عرض کیا الہی! یہ کون لوگ ہیں، ارشاد ہوا موسیٰ! یہ لوگ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہیں، موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، آہا کیا خوش تقدیر امت ہے، پروردگار مجھ کو اس امت میں بنا، حکم ہوا نہیں موسیٰ ابھی ان کو آنے میں بہت دن ہیں، تم کو میں نے رسول بنایا، اپنی باتیں سناتا ہوں کیا یہی بس نہیں۔

غرض اگر خدا کی طرف کا سیدھا راستہ چاہتے ہو کہ جس راستے سے خدا کی رحمت تم پر آئے تو اس نبی کی اتباع کرو، ان کی اتباع سے سُنگ دل، نرم دل ہو جاتا ہے۔ فاسق و فاجر پر ہیزگار کہلاتا ہے۔ ان کی پیروی سے پر لے درجہ کا خدا کا دشمن، خدا کا پیارا دوست بن جاتا ہے، جس کی گردن میں لعنت کا طوق ہو، وہ اس نبی کی فرمانبرداری سے مولیٰ کی خلعت سے سرفراز ہوتا ہے، اسی واسطے حضرت فرماتے ہیں کہ میری امت کے بگڑنے کے وقت جو میرے طریقہ کو تھام لے گا اس کو سو شہیدوں کا ثواب ملے گا۔ حضرت حاتم زادہؒ فرماتے ہیں کہ جو شخص بلا پر ہیزگاری کے محبت الہی کا دعویٰ کرے وہ جھوٹا ہے اور جو بلا اتباع سنت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے حضرت کی محبت کا دم بھرے وہ بھی جھوٹا ہے۔

حکایت:-

حضرت شیخ محبی الدین ابن عربی رحمة اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام سنتوں پر میں نے عمل کیا، افسوس کہ ایک رہ گئی اس کے ادا کرنے کی بڑی آرزو تھی، وہ یہ کہ حضرت کو ایک لڑکی تھی، حضرت علی سے نکاح کر دیئے اور پھر بیٹی کے گھر میں بے تکلف آتے رہتے تھے، میں بھی ایسا ہی کرنا چاہتا ہوں مگر کیا کروں مجھ کو بیٹی نہیں ہے، یہ ہیں پیروی کرنے والے۔

حدیث شریف :-

حضرت ثوبان رضی اللہ عنہ، دن بہ دن دبلے ہو رہے تھے، چہرہ سے رنج و غم کے آثار ظاہر ہو رہے تھے، حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پوچھے "کیوں ثوبان" کیا حالت ہے، عرض کئے کچھ نہیں حضور جب سے ایک خیال دل میں آ رہا ہے طبیعت بیٹھی جا رہی ہے، فرمائے کہو ثوبان کیا خیال ہے عرض کئے "یا رسول اللہ جب آپ کو نہیں دیکھتا ہوں تو طبیعت دیوانی ہو جاتی ہے جنت میں گیا بھی تو آپ کہاں اور میں کہاں یا رسول اللہ ﷺ،" بے آپ کے دیکھے کیسے تسلیم ہو یا رسول اللہ آپ کے دیدار سے مشرف ہونے کی کیا تدبیر کرو، اس وقت میرا کیا حال ہوگا، جنت دوزخ دکھائے دیگی یا رسول اللہ اس عاشق کی خاطر یہ آیت اتری مَنْ يَطِعُ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّنَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشَّهِدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسْنَ أُولَئِكَ رَفِيقًا جواہارت کرتے ہیں اللہ کی اور اس کے رسول کی وہ ان لوگوں کی ساتھ رہیں گے جن کو اللہ نے نعمت دی ہے یعنی نبیوں کے صدیقوں کے شہیدوں کے اور صالحین کے (ساتھ رہیں گے) ان کی رفاقت بہترین رفاقت ہوگی۔

حدیث شریف :-

میری سنت کو دوست رکھنے والا میرا دوست، میرا دوست میرے ساتھ جنت میں جائے گا۔

مسلمانو! رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہنے کی آرزو ہے تو چار دن تکلیف اٹھاؤ، پھر ہمیشہ رسول اللہ کے ساتھ رہو، حضرت کی تابعداری کرو، حضرت کی سنتوں پر عمل کرو، درود شریف کثرت سے پڑھو، پھر ہمیشہ حضور کے ساتھ رہو۔

مسلمانو! انصاف کرو، کیا ہم رسول اللہ کی تابعداری کر رہے ہیں یا ہم اپنے نفس کی تابعداری کر رہے ہیں، دنیا کو ترجیح دے رہے ہیں، آزمائجھے دنیا و آخرت کا کام ہمارے سامنے ایسا آجائے کہ ایک کے کرنے سے دوسرا بگز جائے تو دنیا کو لیں گے آخرت کی پرواہ نہیں کریں گے، اپنی رائے میں سڑے ہوئے ہیں کسی کی کوئی سنتا ہی نہیں، کسی کو نماز کا یا جماعت کا اہتمام نہیں کسی کو رشوت و ظلم کرنے سے ڈر نہیں، کوئی نشہ باز ہے، نشہ کی چیز بچ کر نفع اٹھا رہا ہے، کوئی شرک و بدعت کو دین سمجھ کر رہا ہے، سود کے معاملات ہو رہے ہیں، جھوٹی گواہیں دی جا رہی ہیں،

جو ٹھے تمکات لکھے جا رہے ہیں، خدا کے لئے سچ فرمائے کیا یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تابعداری ہے یا نفس کی، اپنی حالت کو سنبھالو، جلد خبر لو، ہم میں تین قسم کے لوگ ہیں۔

ایک وہ ہیں کہ جن کو صرف حضرت کے ساتھ محبت کا دعویٰ ہے نہ آپ کی تابعداری ہے نہ آپ کی دل میں تعظیم، سارے احکام میں حضرت کے خلاف اور پھر عاشق رسول، اچھے عاشق رسول ہیں، ہائے یبوی، بچوں کی محبت سب کو ہوتی ہے۔ ان کیخلاف کرنے، ان کو ناراض کرنے دل نہیں چاہتا۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف کرنے اور ان کو ناراض کرنے کیسے دل چاہ رہا ہے۔ سر سے پیر تک خلاف رسول میں ڈوبے ہوئے ہیں، بھلا یہ بھی کہیں عاشقوں کا طریقہ ہوتا ہے، عجب محبت ہے کہ عاشق کو معمتوں کے ناراض ہو جانے کی کچھ پرواہ نہیں، میں یہ قسم کہتا ہوں کہ جو برتابہ محبت رسول کا دعویٰ کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام کے ساتھ کر رہے ہو۔ اگر کوئی ہمارے ساتھ یہی زبان سے محبت کا دعویٰ کر کے وہی برتابہ کرے کوئی حکم بجانہ لاوے تو وہ محبت کو منہ پرانے مار دیں گے، افسوس رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یہی برتابہ کر کے پھر خوش ہیں ذرا نہیں ڈرتے یہ محبت بھی اسی قابل ہے کہ الٹی منہ پر مار دی جائے کیا حضرت عبداللہ بن مبارک کے اشعار بھول گئے۔

نافرمانی کرتا ہے اللہ کے رسول کی، اور پھر ان کی محبت کا
دعویٰ کرتا ہے۔

تَغْصِي الرَّسُولَ وَأَنْتَ تَظْهِرُ حُبَّهُ

یہ میرے جان کی قسم عجب نادر چیز ہے
اگر تیری محبت سچی ہو تو تو اطاعت کرتا رسول کی
بے شک محبت کرنے والا کہ جس سی محبت کرتا ہو تو اس کی
ضرور اطاعت کرتا رہتا ہے۔

هَذَا الْعَمَرِي فِي إِنْفَعَالٍ بَدِيعٍ
لَوْكَانَ حُبُّكَ صَادِقاً لَا طُغْتَةً

إِنَّ الْمُحِبَّ لِمَنْ يُحِبُّ مُطِيعٌ

عاشق کی طرف سے محبوب کو تکلیف پہنچے اور پھر وہ چین سے رہے یہی محبت ہے۔ عاشق تو چاہتا ہے کہ اپنے معمتوں کا ہمیشہ دل ٹھنڈا رہے یا معمتوں کو ایذا پہنچتی رہے۔ سب کو معلوم ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو امت سے کتنی محبت تھی، یہ حالت تھی کہ رات راتھ بھر کھڑے کھڑے قدم مبارک ورم کر جاتے صرف آپ امت

کے لئے دعا کرتے رہتے تھے، ایک بار ساری رات اسی آیت کو پڑھتے ہوئے گزر گئی۔

إِنْ تَعْذِّبُهُمْ فَإِنَّهُمْ عَبَادُكَ وَإِنْ تَغْفِرْ لَهُمْ فَإِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ۔

اگر آپ ان کو عذاب دینا چاہیں تو یہ آپ کے بندے ہیں آپ کو ہر طرح اختیار ہے۔ آپ زبردست قادر بھی ہیں، اگر آپ ان کو بخش دیں تو کیا مشکل ہے، ساری رات اسی میں گزر گئی ہم پیدا بھی نہیں ہوئے تھے۔ ہمارے ہمارے لئے آپ کی یہ حالت تھی، نہ ہم تھے نہ ہماری طرف سے مغفرت کی خواہش تھی، ہمارے بے کہے حضرت نے ہماری درخواست پیش کر دی، غرض حضرت کو ہم سے اس قدر محبت ہے۔ اب ہم حضرت کو اس محبت کا کیا بدلہ دے رہے ہیں۔ ہر پیر و جمعرات کو ہمارے اعمال پیش ہوا کرتے ہیں کہ فلاں شخص نے یہ کیا اور فلاں نے یہ کوئی شراب سیندھی پی رہا ہو، کوئی رشوٹ لیتا ہو، کوئی سود لے رہا ہے، کوئی فسق و فجور میں مبتلا ہے، کوئی بے نمازی ہے، کوئی نمازوں پر الٹے ہنستا ہے، ان سب باتوں کی حضور کو اطلاع ہو رہی ہے، کس قدر آپ کو تکلیف ہوتی ہوگی۔ صاحبو! اس ضمن میں ایک واقعہ آپ کو سناتا ہوں سنو، صحابہ کو سب نفس کے تقاضے تھے۔ مگر کس طرح وہ نفس کو دباتے تھے۔ جب کہیں وہ رسول ﷺ کی پیروی کر سکتے تھے۔

حدیث:-

ایک بار حضرت ابو بکر^{رض} اور حضرت عمر^{رض} میں کچھ تکرار ہو گئی۔ حضرت عمر^{رض} کی باتوں سے حضرت ابو بکر صدیق^{رض} کو غصہ آگیا۔ عمر^{رض} بھی خفا ہو کر چلے گئے۔ یہاں تک تو نفس کا لگاؤ تھا۔ اب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تابع داری غلبہ کرتی ہے ارشاد ہے کہ دو بھائی مسلمان لڑ لیئے ہوں تو جو سبقت کر کے بات کرے گا اس کا یہ مرتبہ ہے، فوراً ب اسی وقت حضرت ابو بکر^{رض} حضرت عمر^{رض} کے پیچھے پیچھے یہ کہتے جاتے ہیں عمر^{رض} جانے دو، در گزر کرو، عمر^{رض} اپنے غصہ میں کب سنتے تھے، اپنے گھر جا کر دروازہ بند کر لئے۔ حضرت ابو بکر صدیق^{رض} حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ حضرت ﷺ نے اپنے یار جاں ثار ابو بکر^{رض} کے چہرے سے پہچان لیا فرمائے صاحبُ کُمْ غَامِر تمہارے ساتھی ابو بکر^{رض} کی سے لڑے ہوئے آرہے ہیں، ادھر حضرت عمر^{رض} اپنے نفس پر غالب آئے نادم ہو کر دربار حضور میں آئے جاتے کہاں سب کا مرجع ایک ہی ہے حضرت سے تمام قصہ عرض کئے سننا ہی تھا مزاج

مبارک برہم ہوا، غصہ میں بھرے ہوئے فرمانے لگے لوگو! ہلْ آنُتُمْ تَارِكُونَ لِي صَاحِبِی کیا تم میری خاطر سے میرے دوست ابو بکر کو ستانہ نہ چھوڑو گے جب میں نے کہا ”یَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ (اے لوگو! میں اللہ کا رسول ہو کر تمہارے پاس آیا ہوں) تو سب نے کہا کذاب جھوٹا ہے اور ابو بکر نے کہا صدقۃ آپ چ فرماتے ہیں، ابو بکر بار بار کہتے تھے یا رسول اللہ میری خطا ہے میں نے زیادتی کی ہے اس واقعہ سے معلوم ہوا کہ صحابہ نفس کے تابعدار نہیں تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تابعدار تھے۔

خلاصہ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جواہرات اور عنایات امت کے حال پر ہیں، ان کے خاتمہ سے حضرت کے اس قدر حقوق امت کی گردن پر ہیں کہ قیامت تک امت حضرت کے حقوق کو ادا کر کے سبکدوش نہیں ہو سکتی، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم پر ہزار ہا حق ہیں۔ ان میں تین بڑے حق ہیں اور حق کو تو امت کیا ادا کرتی، اگر ان تین حق کو بھی ادا کر دے تو غنیمت ہے۔ صاحبو! آپ سونچو کے آپ ان تینوں میں سے کون حق ادا کر رہے ہیں۔

(۱) پہلا حق تابعداری کرنا ہے۔

(۲) دوسرا حق آپ کی تعظیم کرنا اور عظمت کرنا ہے۔

(۳) تیسرا حق آپ کی محبت رکھنا ہے۔

افسوس ہم میں کئی قسم کے لوگ ہیں کہ کسی نے ایک حق کو لے لیا اور دوسرے حق کو چھوڑ رہے ہیں، اکثر وہ ہیں کہ ان کو حضرت کی محبت کا دعویٰ ہے وہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم حضرت کی حق محبت کو ادا کر رہے ہیں۔ مگر وہ ذرا اپنے دل میں سونچیں کہ وہ دوسرے دو حق جو محبت کے لئے ضروری ہیں وہ کس طرح ادا کر رہے ہیں کیا حضرت کی تابعداری ادا کر رہے ہیں، اسی کو تفصیل سے عرض کر چکا ہوں۔

محبت کی بڑی علامت یہ ہمیکہ عاشق کا کوئی ارادہ ہی نہیں ہوتا جو معشوق کا ارادہ ہو وہی اس کا ارادہ ہوتا ہے، اگر کسی عورت سے کمی محبت ہو جائے اور وہ کہہ تمہاری تمام جائیداد پیچ کر اتنا روپیہ لا دو، جب دیکھتا ہے کہ محبوبہ کا یہ ارادہ ہے کہ تو اب اس کا کچھ ارادہ نہیں، اس کے حکم کی تعمیل کرتا ہے اور خوش ہوتا ہے کہ میری محبوبہ نے

اپنے راضی ہونے کیا یک صورت تو نکالی، ایک مردار عورت کی محبت میں تو یہ تابعداری اور حضرت کی محبت صرف زبانی، تابعداری ضروری نہیں، سوچئے کیا غصب کر رہے ہو۔ صاحبو! میں یہ نہیں کہتا کہ گناہ ہونا محبت کے خلاف ہے تابعداری کے خلاف ہے۔ صحابہ سے بھی تو گناہ ہوئے ہیں مگر انکو محبت بھی تھی اور تابعداری بھی تھی پھر بات کیا ہے سنئے ایک تو وہ شخص ہے جسکو ہر وقت اللہ اور رسول کی ہی دھن ہے، خدا اور رسول کی محبت میں جان و مال و آبرو قربان کرنے میں ذرا بھی تأمل نہیں کرتا۔ پھر کسی وقت شیطان نے دھوکا دیدیا نفس کی شرارت غالب آگئی اور گنہ ہو گیا، پھر گناہ کر کے چین سے نہیں بیٹھتا۔ جب گناہ سے فارغ ہوا اور آنکھیں کھلیں تڑپ گیا اور بے قرار ہو گیا کہ ہائے کیا کروں، میرا خدا اور رسول مجھ سے ناراض ہو گئے ہوں گے، اب خدا اور رسول کو کس طرح راضی کرو؟ کیا اس شخص کی حالت ہی سے آپ کو پتہ نہیں لگتا کہ خدا اور رسول کی اس کوتني محبت ہے تابعداری کے لئے۔ کس قدر تڑپ رہا ہے۔ ایک بات میں تابعداری نہیں ہوئی کس قدر بے چینی ہے۔

حدیث شریف :-

حضرت ماعز رضی اللہ عنہ سے زنا کی حرکت ہو گئی فوراً بے قرار ہو کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور مجمع عام میں عرض کئے۔ يَا أَرْسُولَ اللَّهِ طَهَرْنِي فَقَدْ هَلَكْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ مِنْ تَبَاهٍ ہو گیا، مجھ کو پاک کیجئے۔ تہائی میں بھی نہیں کہا۔ ایسے خدا کے خوف سے بے چین ہوئے کہ مجمع میں آکر زنا کا اقرار کئے نہ آبرو کا خیال نہ بد نامی کا۔ ع

عاشق بدنام کو پرواۓ نگ و نام کیا

تین بار حضرت ٹالتے رہے، اس خیال سے کہ مخفی توبہ کرے مگر خدا اور رسول کی محبت رکھنے والا تابعدار کہیں ملتا ہے ان کو تو خدا پر جان قربان کرنے کی دھن لگی ہوئی تھی صاف صاف بیان کر دیا۔ آپ نے رجم کا حکم دیدیا، ایک صحابی پر ماعز کے خون کے قطرے گرے انہوں نے کوئی برا لفظ کہا۔ حضرت خفا ہوئے اور فرمایا کہ ماعز ایسی توبہ کئے ہیں کہ اگر تمام مدینہ والوں کو بانت دی جائے تو سب کی مغفرت ہو جائے جس مغفرت کے ہزار ہا حصہ کرنے کے بعد بھی مغفرت ہو جاتی ہو تو خود ان کے لئے کس قدر مغفرت ہو گی۔ ع

ایں خطا از صد ثواب اولی تراست
یہ ! خطا ہزاروں ثواب سے بہتر ہے

ایک ایسی محبت کرنے والا ہے کہ ذرا تابعداری میں خلاف ہو گیا تو یوں ترتب جاتا ہے اور ایک وہ شخص ہے جس کو کبھی خدا اور رسول کا اٹھتے بیٹھتے بھی خیال نہیں آتا۔ شریعت کو دو پیسے میں نیچ ڈالنا اس کو گوارا ہے، جس وقت جو جی میں آئے کر گزرتا ہے، ہر کام میں بے ڈر ہے، حلال و حرام کی تمیز نہیں، گناہ کرنے کے بعد بھی پریشان و پشیمان نہیں ہوتا، کیا ایسوں کو بھی یہ کہنے کا حق ہے کہ ہم اللہ اور رسول کے محبت ہیں اچھی محبت ہے جن کی محبت کا دعوی ہے ان کی نافرمانی کر کے ان کو ایذا پہنچائی جائے۔

حکایت:-

ایک شاعر تھے ان کے اشعار میں درد بہت تھا وہ فارسی اشعار لکھتے تھے ایران میں کوئی ان کے اشعار دیکھ کر بزرگ سمجھ کر ان سے ملنے کیلئے ایران سے ہندوستان آیا۔ آکر کیا دیکھتا ہے کہ ایک جامان کے سامنے ہے اور استرے سے داڑھی صاف کر رہا تھا وہ آنے والا جھلا کر کہا آغا ریش می تراشی (کیوں صاحب داڑھی منڈھوار ہے ہو) شاعر صاحب نے کہا بلے ریش می تراشم مگر دل کس نمی خراشم یعنی داڑھی ترشواتا ہوں مگر کسی کا دل نہیں دکھاتا ہوں، بڑا گناہ دل دکھانا ہے اس آنے والے نے بے ساختہ جواب دیا، آرے آرے دل رسول اللہ می خراشم طلب یہ ہے کہ حضرت کو جب اطلاع ہو گی کہ فلاں شخص میرا خلاف کر رہا ہے تو حضرت کو کیسی ایذا ہو گی، یہ سن کر شاعر صاحب کے آنکھیں کھلیں کہنے لگے

جزاک اللہ چشم م باز کر دی	جزاک اللہ کہ میری آنکھ آپ نے کھول دی
مرا بابا جان جاناں ہمراز کر دی	جان جاناں کے ساتھ مجھ کو ہمراز کر دیئے

تم کو اللہ تعالیٰ جزاۓ خیر دے میں تو اندھا تھا آج معلوم ہوا کہ مجھ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کو ایذا پہنچ رہی ہے، ایک شخص طبیب کی بہت تعریف کیا کرتا ہے مگر جب وہ نسخہ لکھ کر دے تو استعمال نہیں کرتا، کیا آپ ایسے شخص کو اچھا سمجھیں گے؟ ایسا ہی ایک شخص خود کو عاشق رسول کہے اور آپ کی بہت تعریف کرے

مگر آپ کے کہنے پر عمل نہ کرے تو کیا آپ اس کی محبت کا اعتبار کریں گے، محبت کا تو دعویٰ لیکن تابعداری کا یہ حال، عظمت کا دل میں نام و نشان نہیں، حالانکہ محبوب کی عظمت لوازم محبت سے ہے، بادشاہ کی عظمت، بادشاہ کے قانون کا خلاف نہیں کرنے دیتی، اگر رسول اللہ کی عظمت ہوتی تو سینکڑوں احکام کیوں بر باد ہوتے، خوب سوچئے اشعار سے پتہ لگتا ہے کہ کیسے کیسے الفاظ آپ کی شان میں کہے گئے ہیں کیا عظمت والا ایسا ہی کرتا ہے، اسی واسطے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے **وَاتَّبَعُوهُ** (اتباع کرو آپ کی) رسول اللہ کی محبت کا دعویٰ کرنے والوں تمہاری محبت کی علامت یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تابعداری کرو، ایک اور مقام پر فرمایا **وَعَزِّرُوهُ**، (اور عظمت کرو آپ کی) فلاج اسی کو ملے گی جو آپ کی تعظیم کرے بعض تو وہ ہیں کہ جو تابعداری تو کر رہے ہیں، تابعداری کا اہتمام بھی ہے مگر انہیں محبت نہیں، جس کے سبب تواضع و زمی نہیں، تابعداری تو کرتے ہیں مگر تابعداری کا مزہ نہ ملا کیونکہ وہ تو محبت سے ملتا ہے، ان کے دل میں حضرت کی تعظیم کا نام نہیں، جن کی تابعداری کا دعویٰ ہے نہ ان کا نام مبارک ادب سے لیتے ہیں نہ کبھی آپ کا ذکر مبارک شوق سے کرتے ہیں نہ کبھی ذکر مبارک سن کر دل پر کچھ اثر ہوتا ہے نہ درود شریف کا کوئی معمول ٹھہرائے ہیں نہ آپ کے محبوبوں سے یعنی علماء، اولیاء اللہ صحابہ و اہل بیت و آئمہ سے ان کو کوئی تعلق ہے نہ محبت ہے نہ عزت و احترام۔ ایسوں کے لئے فرماتا ہے۔ **فَامْنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ** (ایمان لا و اللہ پر اور اس کے رسول پر) اور تابعداری کرنے والو فقط تابعداری کچھ کام نہ آیگی آپ کی محبت بھی رکھو اس لئے کہ ایمان کہتے ہیں گرویدن کو یعنی فریفتہ ہونے کو، دوسری آیت میں ہے **وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُ حُبَّاً لِّلَّهِ** (جو اللہ پر ایمان لاتے ہیں وہ سب سے زیادہ اللہ سے محبت کرنے والے ہوتے ہیں) محبت خدا و رسول لازم و ملزم ہے۔

حدیث شریف:-

لَا يُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ حَتَّىٰ أَكُونَ أَحَبُّ إِلَيْهِ مِنْ نَفْسِهِ وَمَنْ وَلَدِهِ وَوَالِدِهِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ (تم میں سے کوئی مومن نہ ہوگا جب تک کہ میں اس کے پاس اس کے ذات سے، اس کی اولاد سے، اس

کے والدین سے اور سب لوگوں سے زیادہ محبوب نہ ہوں) مومن ہو، ہی نہیں سکتا جب تک کہ میری محبت سب سے زیادہ نہ ہو۔

حدیث شریف:-

لَا يُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ حَتَّىٰ يَكُونُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَحَبُّ إِلَيْهِ مِمَّا سِوَاهُمَا

(ہرگز مومن نہ ہو گا تم سے کوئی جب تک کہ اللہ اور اس کا رسول اس کے پاس سب سے زیادہ محبوب نہ ہو)

ایسا ہی تعظیم بھی ہونی چاہئے اس لئے فرمایا ”وَعَزِّرُوهُ“ (آپ کی عظمت کرو) تیری جماعت وہ زمانہ کے نئے رنگ میں رنگی ہوئی ہے آپ کی اور آپ کے قانون کی عظمت بہت کچھ ان کے دل میں ہے، دوسرے اقوام سے مقابلہ ہو جائے تو آپ کے اقوال و افعال کی حکمتیں بیان کر کے آپ کی عظمت دکھاتے ہیں جس کا خلاصہ یہ نکل سکتا ہے کہ دوسری قوموں پر فائق ہو کر شوکت سے زندگی بسر کر سکیں۔ باقی نہ کوئی تابعداری کا خیال ہے نہ ہی محبت کا کوئی اثر پایا جاتا ہے چونکہ دنیا ان کے پیش نظر ہے۔ بس دنیا ہی کے متعلق آپ کی سلطنت رانی وغیرہ کے احوال تلاش کر کے آپ کی عظمت کرتے ہیں اس لئے فرماتا ہے۔ فَإِمْنُوا وَاتَّبِعُوهُ (ایمان لاو اور آپ کی اتباع کرو) حضرت کی عظمت کرنے والو! صرف عظمت سے کام نہیں چلے گا۔ عظمت کے ساتھ تابعداری اور محبت بھی کرو، غرض پورے پورے حقوق حضور کے ادا کرو؟ ہم مدعاں محبت یا مدعاں عظمت یا مدعاں اطاعت کہیں کہ ہم سے اصلی محبت و اطاعت و عظمت کیا ہوتی، ہم تو نقلی محبت و عظمت و تابعداری رکھتے ہیں، ہم میں اصل کہاں۔ تو صاحبو! نقل ہی ہی مگر نقل میں کم از کم وہی صورت اور ویسی ہیئت بنائیں چاہئے۔

حکایت:-

عالیگیر رحمة اللہ علیہ کی تخت نشینی کا جلسہ ہوا، تمام کام کے لوگوں کو عطا یادیے گئے۔ ایک بھروسہ بھی مانگنے آیا، مگر عالیگیر[ؒ] بادشاہ عالم تھے کس مد سے دیتے، انکار کرنا بھی آداب شاہی کے خلاف تھا حیلے سے ماننا چاہے اس لئے فرمایا انعام تو کسی کمال پر ہونا چاہیے، تمہارا کمال یہ ہے کہ ایسی صورت بنائ کر آؤ کہ میں تم کو نہ پہچان سکوں، جب

وہ بھیں بدل کر آتا تو عالمگیر پہچان لیتے کبھی دھوکا نہ کھاتے، دھوکا دے تو انعام ملنا شہرا تھا۔ اتفاق سے عالمگیرؒ کو سفر دکن درپیش ہوا، بہروپیہ داڑھی بڑھا کر مقدس لوگوں کی صورت بنا کر راستہ میں کسی گاؤں میں جائیخا کچھ روز کے بعد شہرت ہو گئی، عالمگیرؒ کی عادت تھی جہاں جاتے وہاں کے علماء اور فقراء سے ملتے، جب وہاں پہنچے تو شہرت سن کر اول وزیر کو بھیجئے، وزیر نے کچھ مسائل تصوف پوچھا سب کا جواب معقول دیا۔ بات یہ تھی کہ اس وقت کے بہروپیہ ہرفن کو حاصل کرتے تھے۔ وزیر نے عالمگیرؒ سے آکر بہت تعریف کی، عالمگیر خود ملنے گئے بہت دیر تک گفتگو رہی، عالمگیر سمجھ گئے کہ شاہ صاحب کامل شخص ہیں، چلتے وقت ہزار اشرفیاں نذر پیش کئے۔ اس نے لات ماردی اور کہا تو اپنی طرح ہم کو بھی دنیا کا کتا خیال کرتا ہے۔ اس سے اور بھی بادشاہ کا اعتقاد بڑھا، واقعی استغنا عجیب چیز ہے، عالمگیر شکر میں واپس چلے آئے پیچھے پیچھے وہ بہروپیہ بھی پہنچا۔ عرض کیا، خدا حضور کو سلامت رکھے لائیے انعام "عالمگیرؒ" نے کہا "ارے تو تھا" انعام دیئے اور کہا وہ اشرفیاں کیوں نہ لیا اس سے بڑھ کر تھیں۔ کیا میں تیرے سے واپس لے لیتا تھا، اس نے کہا حضور اگر میں لیتا تو نقل صحیح نہیں ہوتی کیونکہ فقیری کا روپ تھا لینا فقیری کی شان کے خلاف ہے۔ نقل اس کو کہتے ہیں اگر نقل کر ہے ہو تو پوری شکل بناؤ کہ تابعداری بھی ہو؛ عظمت بھی ہو اور محبت بھی ہو۔

حکایت:-

حضرت سید احمد رفاعی رحمۃ اللہ علیہ کے اس واقعہ کو امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے ایک رسالہ میں حدیث کی طرح سلسلہ وارسند سے لکھا ہے کہ سید احمد رفاعیؒ روضہ مبارک پر عرض کئے السلام علیکم یا جدی (سلام عرض کرتا ہوں میں اے میرے جد) جواب عطا ہوا و علیک السلام یا ولدی (علیکم السلام اے میرے بچے) حضور سے جواب ملا جس کو تمام اہل مسجد نے سنا۔ سید احمد رفاعیؒ پر وجد کا شدید غلبہ ہوا، بڑی دیر تک رورے رہے، شدت شوق میں عرض کئے، نا نا جان دور تھا تو اپنی روح کو حضور میں بھیج دیا کرتا تھا، وہ میری نائب بن کر زمین بوسی کرتی تھی، اب جسم کو لا یا ہوں، ذرا سیدھا ہاتھ بڑھائیے کہ اس کے بوسہ سے مشرف ہوں، فوراً سیدھا دست مبارک چمک دمک سے قبر شریف سے نکلا، ہزاروں آدمیوں نے زیارت کی اور حضرت سید احمد رفاعیؒ نے بوسہ لیا، پھر دوسرے سال حاضر ہوئے تو عرض کئے کہ اگر لوگ پوچھیں گے کہ تم زیارت کر کے آئے تو کیا لے کر

آئے تو میں جواب میں کیا کہوں۔ قبر شریف سے آواز آئی جس کو تمام حاضرین نے سنا ”تو یوں کہنا کہ ہم ہر طرح کی خیر و برکت لے کر آئے (فروع (سید احمد رفاعی) یعنی ولد) اصول (حضرت صلی اللہ علیہ وسلم یعنی جد) کے ساتھ جمع ہوئے اور بھی تو سادات ہیں، ان کو یہ بات کیوں حاصل نہ ہوئی۔ کمال اتباع، کمال محبت، کمال عظمت اس دولت کا سبب تھی۔

وَفِي ذَلِكَ فَلِيَتَنافَسِ الْمُتَنَّا فِسُونَ

(اس میں ایک دوسرے پر سبقت کرنے والے ایک دوسرے پر سبقت کریں۔)

خاتمه

نور محمدی صلی اللہ علیہ وسلم جب سے کہ پیدا ہوا ہر وقت اور ہر مقام پر اپنی رحمتوں سے فیض یاب کرتا رہا اس سے متعلقہ تفصیلات ابتداء کتاب سے بیان ہو رہے ہیں اس خاتمہ میں اس نور مبارک کی رحمتوں کے قیامت تک مستفید کرتے رہنے یعنی حیات النبی ﷺ کو ثابت کیا جاتا ہے۔ ضمناً استدلالاً ذیل کا مضمون بھی آرہا ہے۔

گزشتہ انبیاء علیہم السلام کے زمانہ میں جب بھی تعلیمات پیغمبر کا خلاف کیا جاتا تھا تو فوراً عذاب نازل ہو جاتا تھا اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام کی نافرمانی کے باوجود ہم عذاب سے کیوں محفوظ ہیں؟

صاحب! آپ دیکھ رہے ہیں کہ زمانہ کا کیا رنگ ہے، کونسا گناہ ہے جو کثرت سے نہیں ہو رہا ہے وہ کونی خدا کی نافرمانی ہے جو دل کھول کر نہیں کر رہے ہیں، دنیا میں کس قدر ظلم ہو رہا ہے، نشرہ بازی کی کچھ حد بھی ہے۔

ناصع جب نصیحت کرتا ہے کوئی سنتا ہی نہیں، ائمہ اس کی ہنسی کی جاتی ہے نوح علیہ السلام کے قوم کی بھی یہی چالیں تھیں۔ پھر کیوں طوفان نہیں آتا کیوں سب نہیں ڈبو دیئے جاتے۔

غور کس قدر کیا جا رہا ہے۔ خدا کو بھولے ہوئے کیا ہم شرک میں بٹلا نہیں ہیں، ہم بے فائدہ نکلے کام کس قدر کر رہے ہیں۔ نام پر مر رہے ہیں، نام کے واسطے کیا کیا کر رہے ہیں، کس طرح روپیہ بر باد ہو رہا ہے۔

النصاف کا نام بھی باقی نہیں رہا، جس کو چاہا پیٹ ڈالا، جس کو چاہا لوٹ لیا، اور مارڈا، کسی کا کچھ دینا ہوا،

دھمکایا، یا مار کر نکال دیا، زمین یا کوئی چیز اچھی معلوم ہوئی چھین لیا، کسی کی مجال نہیں کہ کچھ کہہ سکے، راستہ چلتی عورتوں کو چھیرتے ہیں پھر لطف یہ کہ اپنے کوب سے اچھا سمجھتے ہیں، یہی چالیں ہود علیہ السلام کے قوم کی تھیں تو اس قوم کی طرح کیوں اس وقت آندھی کا عذاب نہیں آتا وہ آندھی آدمی جانور ہر چیز کو گزوں اور اٹھا کر زمین پر پلک پلک کر کیوں نہیں مار دلتی۔

ہر مجلس میں مسخرہ پن پھیل گیا ہے ہر وقت گالی زبان پر ہے۔ بد کاری، لواطت کی کثرت ہو رہی ہے۔ محفل نشاط کے رقعہ تو آپ کو یاد ہی ہیں افسوس مسلمان لوٹدوں کا ناج دیکھتے ہیں، کیا یہ لوط علیہ السلام کے قوم کی چالیں نہیں ہیں۔ پھر کیوں بستیاں الٹ نہیں دیتے جاتے، کیوں پتھر نہیں بر سائے جاتے۔

مال دیکھتے ہی کیا رال نہیں پلک رہی ہے، حلال و حرام کی تمیز باقی نہیں رہی، دعا بازی کا عام دستور ہو گیا ہے ناپ تول میں بہت کمی ہو رہی ہے۔ کیا یہ شعیب علیہ السلام کے قوم کی چالیں نہیں ہیں، پھر کیوں زمین کو زلزلہ نہیں آتا کیوں آگ نہیں بر سائی جاتی۔

کیا کوئی مالدار زکوٰۃ دے رہا ہے، پھر کیوں قارون کی طرح زمین میں نہیں دھنسادیتے جاتے۔

قوم داؤد علیہ السلام ہفتہ کے روز کی عظمت نہیں کرتی، ہفتہ کے روز ان کو شکار منع تھا مگر وہ شکار کھیلا کرتی تھی۔

جس طرح قوم داؤد کے لئے ہفتہ تبرک تھا مسلمانوں کے لئے جمعہ ہے کیا مسلمانوں کے دل میں جمعہ کی عظمت ہے، اور دنوں میں اور جمعہ کے دن میں کچھ فرق کرتے ہیں، کیا جمعہ کے دن بغیر گناہ کے رہتے ہیں اور اس دن کو نے نیکیاں زیادہ کر رہے ہیں بعض توجعہ کی نماز تک نہیں پڑتے، کیا یہ قوم داؤد علیہ السلام کے طرح نہیں ہیں تو پھر قوم داؤد کی طرح بندر سور کیوں نہیں بنادیتے جاتے۔

غرض کہاں تک بیان کیا جائے، خلاصہ یہ ہے کہ اگلی امتوں کی سب باتیں اس امت میں جمع ہو گئی ہیں، پھر اگلی امتوں کی طرح عذاب کیوں نہیں آتا عذاب نہ آنے کی وجہ یہ ہے کہ:

وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعِذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ (پ ۹۶ سورہ الانفال)

(آپ کے ہوتے ہوئے انہیں عذاب نہیں دینے کا)

اگر حضور ﷺ نہ ہوتے تو عذاب کو روکنے والی کوئی چیز تھی، عذاب تو آہی جاتا مگر صرف حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے عذاب رکا ہوا ہے ذرا کفار مکہ پر نظر ڈالئے میں نے جو عرض کیا یہ ساری باتیں ان میں تھیں، اس کے سوایہ باتیں بھی کفار مکہ میں تھیں۔

وَهُمْ يَصُدُّونَ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ (پ ۹ ع ۳ سورہ الانفال)

ایمانداروں کو مکہ شریف میں آنے سے روکتے تھے اگر کبھی موقع مل گیا آگئے تو سجدہ میں اونٹ کی اوچڑی نمازی کے پیچھے پر رکھ کر مسخری کرتے تھے۔

وَمَا كَانُوا أَوْلِيَاءَ هُنَّ أَوْلَيَا وَهُنَّ إِلَّا الْمُتَقْوُنَ وَلَكِنْ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ

(پ ۹ ع ۳ سورہ الانفال)

وہ ظالم مکہ کے اہل نہیں، مکہ کے اہل تو ایمان دار ہیں مگر وہ بے سمجھ سمجھتے نہیں، نمونہ کے طور پر کفار مکہ کے دو واقعہ خدا تعالیٰ خود سناتا ہے، اس سے آپ خود فیصلہ کر لیجئے۔ جس قوم کی یہ حرکات ہوں ان پر کیوں نہ عذاب آئے۔ کعبہ شریف کے اس وقت کے مجاہروں نے اپنے نفع کے لئے یہ رسم جاری کی تھی کہ جو کعبہ شریف کا طواف کرے وہ اپنے کپڑوں سے طواف نہ کرے، اس لئے کہ جن کپڑوں میں رات دن گناہ کئے گئے ہوں وہ طواف کے قابل نہیں مجاہر کعبہ کہتے تھے کہ ہمارے پاس کے کپڑے کرایہ سے لے کر پہن کر طواف کرو، ورنہ برہنہ طواف کرو، ہر وقت کون پیسے خرچ کرتا، اسلئے مرد و عورت نگلے طواف کرتے تھے۔ اور منہ سے سیٹیاں ہاتھ سے تالیاں بجائے جاتے، اس کو بڑی عبادت سمجھتے تھے۔

مسئلہ :-

سیٹیاں اور تالیاں بجانا مکروہ ہے۔

فَذُوقُوا الْعَذَابَ بِمَا كُنْتُمْ تَكْفُرُونَ (پ ۹ ع ۳ سورہ الانفال)

وہ تو اس لائق تھے کہ ان پر عذاب اتار کر کھا جاتا اب چکھو عذاب کا مزہ یہ عذاب ہمارے چالوں کا بدلہ

ہے مگر حضور کی وجہ سے عذاب ان سے رکا ہوا ہے۔

ان کفار مکہ کی ایک اور بیہودہ حرکت اللہ تعالیٰ سناتا ہے۔

نضر بن حارث ایک سخت کافر تھا، وہ ایران تک تجارت کے لئے جایا کرتا تھا وہاں سے رسم و اسفند یار کے قصہ سن کر آیا کرتا تھا۔

وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ أَيَّاتُنَا قَالُوا أَقْدَسَمِعْنَالُو نَشَاءُ لَقُلْنَا مِثْلَ هَذَا (پ ۹ ع ۲ سورہ الانفال)

جب ان کے سامنے ہماری آیتیں پڑھی جاتی ہیں تو نضر بن حارث وغیرہ کہتے ہیں، بس بس سن لئے یہ بھی کچھ مجزہ ہے اگر ہم چاہیں تو ایسا ہی ہم بھی بناسکتے ہیں۔

إِنْ هَذَا إِلَّا أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ (پ ۹ ع ۲ سورہ الانفال)

اس میں ہے کیا اگلوں کے قصے ہیں۔

ہم تو ان پر احسان کریں، نبی بھیجیں، کتاب دیں اور وہ اس کا یہ بدله کریں، کیا اب بھی وہ عذاب کے مستحق نہیں ہیں، ضرور عذاب آ جاتا، بے مانگے آتا اور جب وہ خود منہ سے مانگے۔

وَإِذْ قَالُوا اللَّهُمَّ إِنْ كَانَ هَذَا هُوَ الْحَقُّ مِنْ عِنْدِكَ فَامْطِرْ عَلَيْنَا حِجَارَةً مِنَ السُّمَاءِ أَوِّتِنَا بِعَذَابَ الْيَمِّ (پ ۹ ع ۲ سورہ الانفال)

یہ کہتے ہیں الہی! اگر یہ قرآن آپ کی طرف سے واقعی ہے تو اس کے نہ ماننے کی وجہ سے ہم پر آسمان سے پھر برسا، یا کوئی اور دردناک عذاب بھیج۔

جب وہ خود منہ سے مانگیں تو عذاب نہ آنے کے لئے کوئی چیز روکنے والی ہے۔

عذاب سے روکنے والی چیز یہ ہے۔

وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ (پ ۹ ع ۲ سورہ الانفال)

(آپ کے ہوتے ہوئے عذاب کیسا آئے گا)

ان کی شوخ چشمی اور بڑھ بڑھ کر باتیں بنانے سے کبھی کے عذاب آ جاتا مگر پیارے نبی آپ کے موجود ہوتے ہوئے کیسے ان پر عذاب کریں، کیونکہ

وَمَا أرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ (پ ۷۱۴ سورہ الانبیاء)

تمام جہاں کے لئے آپ رحمت بنا کر بھیجے گئے ہیں اس لئے آپ فرماتے ہیں۔

آن رَحْمَةٌ مُهَدَّةٌ

میں ایک رحمت ہوں جو خدا کی طرف سے بطور ہدیہ کے بھیجا گیا ہوں رحمت کے ہوتے ہوئے کیسے عذاب آئے، آج سے نہیں پیارے نبی، آپ ازل سے رحمت عالم ہیں۔ تمام عالم کا وجود آپ کی برکت سے ہوا۔ آپ کے نور کے شعاعوں کی برکت سے تمام عالم کا مادہ بنا پیارے نبی آپ پر سے دل و جان قربان، میثاق کا واقعہ ہم کو یاد ہے، جب خدا تعالیٰ نے سب مخلوق سے پوچھا اللَّهُ بِرَبِّكُمْ سب کے سب آپ ہی کے چہرہ مبارک کو تکنے لگے دیکھیں آپ کیا جواب دیتے ہیں سب سے پہلے حضور ہی فرمائے ”بلی“ بے شک آپ ہمارے پروردگار ہیں آپ کی اقتدار کے سب نے ”بلی“ ہائے یہ کیسی رحمت تھی آپ کی، ورنہ سب اسی وقت برپا ہو جاتے کیوں پیارے نبی! آپ کا نور کشی میں نہ ہوتا تو نوح علیہ السلام کی کشی کیسے پہنچتی۔

حضرت نوح آدم ثانی ہیں، سارا عالم حضرت نوح کی اولاد ہے اس لئے بھی تو آپ رحمت عالم ہیں۔ انسان تو انسان کشی میں تمام جانور بھی تو تھے اس وقت کے تمام جانور، کشی کے جانوروں کی اولاد ہیں۔ اس لئے تمام عالم کے جانوروں کے لئے آپ رحمت ہیں۔

کثرت سے پیغمبر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد ہیں اور آپ کی اولاد بھی کثرت سے موجود ہے، حضرت ابراہیم کا فیض ایک عالم کو پہنچا، اور حضرت ابراہیم کو نمرود کی آگ سے کس نے بچایا، پیارے نبی! آپ ہی کی رحمت کا صدقہ تھا۔ آپ ہی کے نور کی برکت تھی۔

حضرت آدم علیہ السلام عمر بھر روتے تو توبہ قبول نہ ہوتی اور نہ حضرت حوا علیہ السلام سے ملتے نہ اولاد ہوتی نہ عالم بتا۔ آپ ہی کے نام کی برکت ہے آپ ہی کی رحمت ہے، اس لحاظ سے بھی آپ عالم کیلئے رحمت ہیں۔

آپ کے چچا حضرت عباس رضی اللہ عنہ نے آپ کی شان میں سچ فرمایا۔

مِنْ قَبْلِهَا طَبَّتِ فِي الظِّلَالِ وَفِي مُسْتَوْدِعٍ حِينَ يُخْصَفُ الْوَرَقُ
قبل ازیں ایسے زمانہ (ازل) میں جبکہ عربیانی کی وجہ سے پتوں سے جسم ڈھانکا جا رہا تھا آپ جنت میں سایوں کے
نیچے خوش و خرم تھے۔

ثُمَّ هَبَطَتِ الْبِلَادَ لَا بَشَرٌ "أَنْتَلَ وَلَا مُضَفَّةٌ" وَلَا عَلَاقٌ
پھر وہاں سے آپ کا نزول اجلال ایسی حالت میں ہوا کہ نہ تو آپ کو اس وقت بشر کہا جا سکتا تھا نہ گوشت کا لکڑا اور
نہ خون کا لتوہڑا

بَلْ نُطْفَةٌ تَرَكَبُ السُّفِينَ وَقَدْ أَلَجَمَ نَسْرًا وَأَهْلَهُ الْفَرَقُ
بلکہ بہ شکل نطفہ سوار بہ سفینہ نوح حفظ تھے جبکہ بزمانہ سیدنا نوح نسر نامی بت اور اس کے تبعین کو غرقابی نے
گرفت میں لے لیا۔

تَنْقُلُ مِنْ صَالِبٍ إِلَى رَحْمٍ إِذَا مَضَى عَالَمَ بَدَا طَبَقُ
جب تو میں کیے بعد دیگرے آتی اور جاتی تھیں آپ پشت سے رحم میں منتقل ہوتے رہے۔

وَرَدَتْ نَارَ الْخَلِيلِ مُكْتَمِّا فِي صُلْبِهِ أَنْتَ كَيْفَ يُحْتَرِقُ
پھر آتش نمرود پر آپ جلوہ گلن ہوئے لیکن صلب خلیل اللہ میں چھپ کر تو بھلا وہ آگ سے کیسے جل سکتے تھے۔

حَتَّى احْتَوَى بَيْتَكَ الْمُهَيْمِنُ مِنْ "خَنْدَقَ عَلِيَاءَ تَحْتَهَا النُّطُقُ
آخر کار آپ کے عالی خاندان نے جو نسب میں خندف سے تعلق رکھتا ہے ایسا اوپنچا شرف حاصل کر لیا جس کے نیچے
ویگر عالی خاندان بمنزلہ نطاقد ہو گئے۔

وَأَنْتَ لِمَا وَلَدْتَ أَشْرَقَتِ الْأَرْضُ وَضَاءَتْ بِنُورِكَ الْأَفْقُ
اور جب آپ منصہ وجود پر تشریف فرمائے تو آپ سے زمین اور آسمان منور ہو گئے۔

فَنَحْنُ فِي ذَلِكَ الظِّيَاءِ وَفِي النُّورِ لِسُبْلِ الرَّشَادِ نَخْتَرِق

پس اب ہم اس روشنی اور نور میں رشد و ہدایت کی راہیں طے کر رہے ہیں۔

پیارے بنی صلی اللہ علیہ وسلم یہ بھی تو آپ کی رحمت ہے کہ جو کوئی آپ کی امت میں سے ایک نیکی کرے اس کو کم سے کم دس گناہ ثواب ضرور ملے گا، اگر زیادہ خلوص ہو تو سات سوتک بلکہ اس سے بھی زیادہ۔

کیا یہ آپ کی رحمت نہیں ہے کہ کافر جب مسلمان ہوتا ہے تو اس کو گزشتہ نیکیاں مضاعف ہو کر ملتے ہیں۔

یہ بھی تو آپ کی رحمت ہے اس امت پر پچھلی امتوں کے سخت احکام نازل نہیں ہوئے کہ مجرم جان دیئے تک توبہ قبول نہیں ہوتی تھی، کپڑا ناپاک ہو جائے تو بجز کترنے کے پاک نہیں ہوتا تھا۔ اب احکام ایسے آسان کہ پچھلے وقت ہی نہیں۔

کفار ابدالآباد، دوزخ میں رہیں گے ان کے لئے آپ رحمت کیے

اگر کسی شخص کو قید با مشقت ہو، اس کو کسی کی سفارش سے سادہ قید ہو جائے تو یہ بھی احسان ہے یا نہیں۔

کفار کے لئے بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم شفاعت کریں گے، ابدالآباد میں تو کمی نہیں ہوگی، مگر کیفیت عذاب میں تخفیف ہوگی چنانچہ ایک کافر کو حضرت کی شفاعت کے سبب عذاب اٹھایا جا کر صرف آگ کا جوتا پہنایا جائے گا جس کے اثر سے دماغ ابلنے لگے گا یہ **فَلَا يُخَفَّ عَنْهُمُ الْعَذَابُ** (پاع ۱۰ سورہ البقرہ) کے مخالف نہیں، عذاب کی ایک حد قائم ہونے کے بعد پھر شفاعت سے تخفیف ہوگی۔

یہ بھی رحمت عالم کا صدقہ ہے کہ وہ سخت سخت عذاب جو اگلی قوموں پر آئے تھے اس امت پر سے خواہ کافر ہوں یا مسلمان نہیں گئے۔ یہ بھی رحمت عالم کا صدقہ ہے۔ گناہ کر کے پھر عافیت میں ہیں۔

جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم تمام عالم کیلئے رحمت ہیں یہاں تک کہ کفار کے لئے بھی رحمت ہیں دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی اس لئے اب تو یہ کہنے کو جی چاہتا ہے۔

دوستاں را کجا کنی محروم	آپ کے دوست کیسے محروم رہیں گے جب آپ کے
تو کہ بادشماں نظرداری	دشمن آپ کی رحمت سے نفع اٹھا رہے ہیں۔

اور یہ بھی کہنے کو جی چاہتا ہے۔

نماند بعصیاں کسی درگرو

کہ دارِ چنیں سید پیشو

طوبی لنا معاشر الاسلام ان لنا : مبارک ہوتم کو اے مسلمانوں کی جماعت، اللہ کی عنایت

من العناية رکنا غير منهدم : سے ہم کو ایسا وسیلہ ملا ہے جو کبھی منہدم ہونے والا نہیں ہے۔

رحمت عامہ کے سوا مسلمانوں پر حضور کی رحمت خاصہ بھی ہے۔ بالمؤمنین روف رحیم جس کا ثمرہ ہے رضاۓ حق، قرب حق، نجات ابدی جو خاص مسلمانوں کو عطا فرمائیں گے۔

حضور صلی اللہ علیہ وسلم رحمت عالم ہیں آپ کے ہوتے ہوئے کیسے عذاب آئے اللہ رے شان عالی حضور کی، اللہ کو آپ کی کیا خاطر منظور ہے خدا کے پاس آپ کی کیا عزت ہے ایک عقلی بات ہے اس پر غور فرمائیے کسی قوم پر جب بھی عذاب آیا ہے تو نبی کو اس قوم سے علحدہ کر لیا گیا ہے۔ ہمارے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم تو تمام دنیا کے نبی ہیں تو آپ کو دنیا سے کیسے علحدہ کریں۔ نہ آپ علحدہ ہو سکتے اور نہ عذاب آسکتا ہے۔

آپ کو شبہ ہو رہا ہو گا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو جانے سے آپ دنیا سے علحدہ ہو جاتے ہیں پھر عذاب آجانا چاہیئے۔ صاحبو! بات یہ ہے کہ حضرت کا دنیا سے جانا ہمارے جیسا جانا نہیں، حضور کا جسم تو دنیا میں رہے گا اور حضرت حیات النبی ہیں آپ زندہ ہیں صرف ایک مکان سے دوسرے مکان میں نقل فرمائے ہیں۔

اسی واسطے حضرت امام مالک رحمة اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قبر کی زیارت کیا کہنا مکروہ ہے، اس لئے کہ قبر تو ہوتی ہے مردہ کی، حضرت زندہ ہیں بلکہ یہ کہنا چاہیئے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کیا، کیونکہ حضرت زندہ ہیں۔

ثابت ہے کہ نبی کے جسم کو مٹی نہیں کھاتی، مردہ کے جسم کو کھاتی ہے نہ کہ زندہ کے، مردہ کی بیوی سے نکاح کر سکتے ہیں، حضرت کی بیویوں سے نکاح ناجائز ہے، اس لئے کہ آپ زندہ ہیں، مردہ کی میراث بُتی ہے، حضرت کی

میراث باشنا جائز، اس پر حدیث ہے اس لئے آپ زندہ ہیں۔ ابی حضرت تو پیدا ہونے سے پہلے بھی تو زندہ تھے۔

كُنْتَ نَبِيًّا وَأَدَمْ بَيْنَ الرُّوحِ وَالْجَسَدِ

(میں اس وقت نبی تھا جبکہ آدم علیہ السلام کی روح ابھی جسد میں نہیں گئی تھی)

آپ کی حیات ہی ساری مخلوق کی حیات ہے، اس لئے اس حیات کی خدا خود قسم کھاتا ہے۔ لعمرک

(آپ کی زندگی کی قسم)

یوں تو ہر چیز آپ کی نرالی ہے اور خدائے تعالیٰ کے پاس محترم ہے، والعصر (آپ کے زمانے کی قسم)

لَا أُقْسِمُ بِهَذَا الْبَلَدِ وَأَنْتَ حَلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ

(قسم کھاتا ہوں میں اس شہر مکہ کی جس شہر میں آپ تشریف فرمائیں)

آپ کی ایسی زندگی ہے کہ آپ سینکڑوں دلوں کو زندہ کر دئے۔ آپ کی مثال بارش کی جیسی ہے۔ التحیات، پڑھے تو حضور کا زندہ ہونا نمازی کے سامنے جلوہ فرمانا پیش نظر ہو گا۔

السَّلَامُ عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ

حدیث:-

جود رو دعوام پڑھیں تو فرشتے پہنچاتے ہیں کوئی دل جلا پڑھے تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم خود سننے ہیں اسلئے کہ آپ زندہ ہیں۔

الغرض کچھ ہی ہو آپ کے کلمہ پڑھنے والے کہیں ہوں آپ کے قدموں کے تلے ہیں، کیا یہ چند میدان اور سمندر کی لہریں، درختوں کے آڑ، پہاڑوں کا آسرا، تڑپنے والے دلوں کو بے قرار جانوں کو، صاحب مدینہ کے جمال سے روک سکتے ہیں، استغفار اللہ دریا کو کیا حباب چھپا سکتا ہے آفتاب کو ذرہ اڑ ہو سکتے ہیں۔ غرض آپ حیات النبی ہیں آپ دنیا میں رہیں یا نہ رہیں، ہم عذاب سے امان میں ہیں۔

آپ تو آپ۔ آپ کا ذکر بھی عذاب سے امان ہے۔

دکایت:-

ایک بزرگ فرماتے ہیں ہمارے گاؤں میں طاعون تھا، ان دنوں میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے حالات میں ایک کتاب لکھ رہا تھا تو میں نے یہ تجربہ کیا کہ جس روز اس کا کوئی حصہ لکھا جاتا تھا اس روز کوئی حادثہ طاعونی اموات کا نہیں سنajaتا تھا اور جس روز وہ ناغہ ہوتا تھا اس روز دو چار اموات سننے میں آتی تھیں، ابتداء میں تو میں اس کو اتفاق پر محول کیا لیکن کئی مرتبہ ایسا ہوا تو مجھے خیال ہوا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر مبارک کی برکت ہے، آخر میں نے یہ التزام کیا کہ روزانہ کچھ حصہ اس کا ضرور لکھ لیتا تھا۔

حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے وفات کے وقت حضرت جبریل علیہ السلام آئے اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرح آپ کے جسد اطہر کو بھی عرش پر لے جانے کا مژدہ لائے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے میری امت کے جسد کہاں دفن ہوں گے۔ حضرت جبریل فرمائے وہ تو زمین میں ہی دفن ہوں گے۔ حضرت ارشاد فرمائے جبریل! خدائے تعالیٰ سے عرض کرو جہاں میری امت رہے گی میں بھی وہیں رہنا چاہتا ہوں تاکہ میری امت عذاب سے محفوظ رہے، اس لئے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے۔**مَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَإِنَّتَ فِيهِمْ** (آپ کے ہوتے ہوئے اللہ انہیں عذاب میں بچانا ہیں کرے گا)

مسلمانو! مرنے سے گھبراً اُمّت، مدینہ کا چاند ساری زمین روشن کر دیا ہے، قبر میں آرام و چین ہی ہے مگر کچھ تعلق پیدا کر کے چلو، تاکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے شرف قدم بوی کے وقت شرمندگی نہ ہو۔

حضرت امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم شب معراج میں تشریف لے گئے تو عرشِ اعظم قدموں سے لپٹا اور عرض کیا حضور! آپ تو چلے کچھ مجھ کو بھی آپ سے حصہ ملنا چاہیئے۔ اور فرشتے بھی گزارش کرنے لگے، حضور تو چلے ہماری تسلی کا کچھ سامان کرتے جائیے۔ حضور کی ذات سے کچھ حصہ ملنا چاہیئے۔ ادھر مونوں کی ارواح عرض کرنے لگے حضور کہیں عرشِ اعظم کے ہی نہ ہو جائیں ہم کونہ بھولیں۔

خدائے تعالیٰ کی طرف سے حکم ہوا، پیارے نبی اپنے نور سے چھ حصہ عرش کو دیجئے تاکہ وہ اس سے برکت

لیتا رہے۔ سایہ فرشتوں کو دیجئے تاکہ وہ اس سے تسلی لیتے رہیں۔ اس لئے ان سے تو کوئی گناہ نہیں ہوتا ہے ان کو یہی کافی ہے، انسان سے گناہ سرزد ہوتے ہیں۔ اپنا جسم مطہر زمین والوں کو دیجئے تاکہ وہ عذاب سے محفوظ رہیں آپ کی شان میں یہ حکم ہو چکا ہے:

مَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ

(آپ کے ہوتے ہوئے اللہ انہیں عذاب نہیں دے گا)

جامیا واقفِ دم باش عزیزاں رفتند

فکرِ عقیٰ بکن آخر کہ تو ہم مہمانی

(۱)

از طفیل خواجگان نقشبند

کارِ دنیا عاقبت محمود باد

(۲)

(۱) ”حضرت جامی رحمۃ اللہ اپنے نفس سے خطاب کر کے فرماتے ہیں کہ اے جامی! اپنی عارضی اور فنا ہو جانے والی زندگی کو پہچان،“ کہ سارے دوست احباب تو گزر چکے۔ آخرت کی فکر کر کہ تو بھی یہاں مہمان ہی تو ہے۔

(۲) خواجگان نقشبند کے صدقے اور واسطے سے دنیا کے تمام امور کا انجام بہتر ہو۔

شجرہ حضرات نقشبندیہ رضی اللہ عنہم اجمعین

یافتہ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الہی بحرمت	شفع المذنبین رحمۃ للعالمین حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ واصحابہ وسلم
الہی بحرمت	خلفیہ رسول ﷺ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ
الہی بحرمت	صاحب رسول اللہ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ
الہی بحرمت	حضرت امام قاسم بن محمد بن ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ
الہی بحرمت	امام ہمام حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ
الہی بحرمت	سلطان العارفین قطب العاشقین حضرت خواجہ بایزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ
الہی بحرمت	حضرت خواجہ ابو الحسن خرقانی رحمۃ اللہ علیہ
الہی بحرمت	حضرت خواجہ ابو القاسم گورگانی رحمۃ اللہ علیہ
الہی بحرمت	حضرت ابو علی فارمدي رحمۃ اللہ علیہ
الہی بحرمت	حضرت خواجہ ابو یوسف ہمدانی رحمۃ اللہ علیہ
الہی بحرمت	حضرت خواجہ جہاں حضرت خواجہ عبدالحالمق غجدوانی رحمۃ اللہ علیہ
الہی بحرمت	حضرت خواجہ مولانا محمد عارف روگری رحمۃ اللہ علیہ
الہی بحرمت	حضرت خواجہ مولانا محمود انجیر فغنوی رحمۃ اللہ علیہ
الہی بحرمت	حضرت خواجہ عزیزان علی رامیتنی رحمۃ اللہ علیہ
الہی بحرمت	حضرت خواجہ محمد بابا سماسی رحمۃ اللہ علیہ
الہی بحرمت	حضرت سید السادات حضرت خواجہ امیر کلال الہی رحمۃ اللہ علیہ
الہی بحرمت	حضرت خواجہ خواجگان پیر پیراں مام الطریقت حضرت خواجہ بہاؤ الدین نقشبند

اللہی بحرمت	حضرت خواجہ علاء الدین عطار رحمۃ اللہ علیہ
اللہی بحرمت	حضرت خواجہ محمد یعقوب چرخی رحمۃ اللہ علیہ
اللہی بحرمت	حضرت خواجہ ناصر الدین عبید اللہ احرار رحمۃ اللہ علیہ
اللہی بحرمت	حضرت خواجہ محمد شرف الدین زاہد رحمۃ اللہ علیہ
اللہی بحرمت	حضرت خواجہ محمد درویش رحمۃ اللہ علیہ
اللہی بحرمت	حضرت خواجہ مولانا خواجہ محمد امکنکی رحمۃ اللہ علیہ
اللہی بحرمت	حضرت خواجہ خواجگان حضرت خواجہ محمد باقی باللہ رحمۃ اللہ علیہ
اللہی بحرمت	حضرت محبوب صمدانی امام ربانی مجدد الف ثانی امام الطریقت حضرت شیخ احمد فاروقی سرہندی رحمۃ اللہ علیہ
اللہی بحرمت	عروة الوثقی حضرت خواجہ محمد معصوم رحمۃ اللہ علیہ
اللہی بحرمت	حضرت ایشان حضرت شیخ سیف الدین رحمۃ اللہ علیہ
اللہی بحرمت	حضرت حافظ محمد محسن رحمۃ اللہ علیہ
اللہی بحرمت	حضرت سید السادات حضرت سید نور محمد بدایوی رحمۃ اللہ علیہ
اللہی بحرمت	حضرت شمس الدین حبیب اللہ عارف باللہ قیوم زماں قطب جہاں حضرت مرزا مظہر جان جانان رحمۃ اللہ علیہ
اللہی بحرمت	قطب الاقطاب فردالا فراد حضرت شاہ عبد اللہ المعروف بے غلام علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ
اللہی بحرمت	شیخ واصل مرشد کامل عارف باللہ حضرت شاہ سعد اللہ رحمۃ اللہ علیہ
اللہی بحرمت	شیخ وقت قطب دوران عارف باللہ حضرت سید محمد پادشاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ
اللہی بحرمت	جمع حضرات نقشبندیہ بر فقیر ابوالحسنات سید عبد اللہ رحم فرماؤعاقبتیش بخیر گردان رحمۃ النبی وآلہ والاجماد۔

اما بعد

در طریقہ عالیہ نقشبندیہ بیعت نموده داخل محفل گردانیدم حق سجادہ تعالیٰ

مذکور را از فیوضات مرشدان حظ وافر و نصیب

متکاثر مع استقامت شریعت عطا فرما۔

آمین یا رب العالمین وَصَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَى خَيْرِ خَلْقِهِ مُحَمَّدٍ وَآلِهِ
وَأَصْحَابِهِ أَجْمَعِينَ بِرَحْمَتِكَ يَا أَرْحَمَ الرَّاجِحِينَ۔

۰۰☆☆☆۰۰

شجرہ حضرات قادریہ رضی اللہ عنہم اجمعین یاقوت

ذِکْرُ الْمَوْلَى مِنْ كُلِّ أُولَى

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولًا يَهْدِي إِلَى طَرِيقِ الْإِيمَانِ لِلْعَالَمِينَ وَصَيَّرَهُ وَسِيلَةً
مَرْضِيَّةً لِلْوُصُولِ إِلَى صِرَاطِ النَّجَاهَةِ وَالْيَقِينِ وَالصَّلَاةِ وَالسَّلَامُ عَلَى رَسُولِهِ أَفْضَلِ
النَّبِيِّينَ سَيِّدِ الْمُرْسَلِينَ حَبِيبِ رَبِّ الْعَالَمِينَ مُحَمَّدِنَدِ المُضْطَفِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ
وَأَصْحَابِهِ وَسَلَّمَ۔

اما بعد ! فهذا شجرة قادرية من توسّل بها وصل إلى المرآم
التي بمحض وانكسار عبدك الفرعون سيد عبد الله شاه كان اللهم

الله بحرمت رازو نياز حضرت سید محمد پادشاه بخاری قدس سرہ

الله بحرمت رازو نياز حضرت سید خواجہ احمد بخاری قدس سرہ

اللّٰه بحرمت رازو نیاز حضرت سید حسین بخاری قدس سرہ
 الـلـٰه بـحـرـمـت رـازـوـنـیـاز حـضـرـتـ سـیدـ مـحـیـ الدـینـ بـخـارـیـ قـدـسـ سـرـہ
 الـلـٰهـ بـحـرـمـت رـازـوـنـیـازـ حـضـرـتـ سـیدـ عـلـیـ بـخـارـیـ قـدـسـ سـرـہ
 الـلـٰهـ بـحـرـمـت رـازـوـنـیـازـ حـضـرـتـ سـیدـ فـرـیـدـ الدـینـ بـخـارـیـ قـدـسـ سـرـہ
 الـلـٰهـ بـحـرـمـت رـازـوـنـیـازـ حـضـرـتـ سـیدـ عـلـیـ صـوـفـیـ بـخـارـیـ قـدـسـ سـرـہ
 الـلـٰهـ بـحـرـمـت رـازـوـنـیـازـ حـضـرـتـ شـیـخـ فـرـیـدـ الدـینـ صـوـفـیـ قـدـسـ سـرـہ
 الـلـٰهـ بـحـرـمـت رـازـوـنـیـازـ شـیـخـ الشـیـوخـ حـضـرـتـ شـیـخـ عـلـیـ صـوـفـیـ قـدـسـ سـرـہ
 الـلـٰهـ بـحـرـمـت رـازـوـنـیـازـ حـضـرـتـ سـلـطـانـ الـعـارـفـینـ قـطـبـ الـعـاشـقـینـ سـیدـ شـاهـ عـبـدـ الـلطـیـفـ قـادـرـیـ لـأـبـالـیـ قـدـسـ سـرـہ
 الـلـٰهـ بـحـرـمـت رـازـوـنـیـازـ حـضـرـتـ شـیـخـ اـحـمـدـ بـنـ شـیـخـ مـحـمـدـ الـحـمـوـیـ قـدـسـ سـرـہ
 الـلـٰهـ بـحـرـمـت رـازـوـنـیـازـ حـضـرـتـ شـیـخـ مـحـمـدـ بـنـ شـیـخـ قـاسـمـ قـدـسـ سـرـہ
 الـلـٰهـ بـحـرـمـت رـازـوـنـیـازـ حـضـرـتـ شـیـخـ قـاسـمـ بـنـ شـیـخـ عـبـدـ الـبـاسـطـ قـدـسـ سـرـہ
 الـلـٰهـ بـحـرـمـت رـازـوـنـیـازـ حـضـرـتـ شـیـخـ عـبـدـ الـبـاسـطـ بـنـ شـیـخـ شـہـابـ الدـینـ اـبـیـ عـبـاسـ اـحـمـدـ قـدـسـ سـرـہ
 الـلـٰهـ بـحـرـمـت رـازـوـنـیـازـ حـضـرـتـ شـیـخـ شـہـابـ الدـینـ اـبـیـ عـبـاسـ اـحـمـدـ بـنـ شـیـخـ بـدـرـ الدـینـ حـسـنـ قـدـسـ سـرـہ
 الـلـٰهـ بـحـرـمـت رـازـوـنـیـازـ حـضـرـتـ شـیـخـ بـدـرـ الدـینـ بـنـ شـیـخـ عـلـاـوـ الدـینـ عـلـیـ قـدـسـ سـرـہ
 الـلـٰهـ بـحـرـمـت رـازـوـنـیـازـ حـضـرـتـ شـیـخـ عـلـاـوـ الدـینـ عـلـیـ بـنـ شـیـخـ شـمـسـ الدـینـ مـحـمـدـ قـدـسـ سـرـہ
 الـلـٰهـ بـحـرـمـت رـازـوـنـیـازـ حـضـرـتـ شـیـخـ شـمـسـ الدـینـ مـحـمـدـ بـنـ شـیـخـ شـرـفـ الدـینـ يـحـیـ قـدـسـ سـرـہ
 الـلـٰهـ بـحـرـمـت رـازـوـنـیـازـ حـضـرـتـ شـیـخـ شـرـفـ الدـینـ يـحـیـ بـنـ شـیـخـ شـہـابـ الدـینـ اـحـمـدـ قـدـسـ سـرـہ
 الـلـٰهـ بـحـرـمـت رـازـوـنـیـازـ حـضـرـتـ شـیـخـ شـہـابـ الدـینـ اـحـمـدـ بـنـ شـیـخـ عـمـادـ الدـینـ اـبـیـ صـالـحـ نـصـرـ قـدـسـ سـرـہ
 الـلـٰهـ بـحـرـمـت رـازـوـنـیـازـ حـضـرـتـ شـیـخـ شـہـابـ الدـینـ اـحـمـدـ بـنـ شـیـخـ عـمـادـ الدـینـ اـبـیـ صـالـحـ نـصـرـ قـدـسـ سـرـہ
 الـلـٰهـ بـحـرـمـت رـازـوـنـیـازـ حـضـرـتـ شـیـخـ شـہـابـ الدـینـ اـبـیـ صـالـحـ نـصـرـ بـنـ شـیـخـ تـاجـ الدـینـ اـبـوـ بـکـرـ عـبـدـ الرـزـاقـ قـدـسـ سـرـہ
 الـلـٰهـ بـحـرـمـت رـازـوـنـیـازـ حـضـرـتـ شـیـخـ تـاجـ الدـینـ اـبـوـ بـکـرـ عـبـدـ الرـزـاقـ بـنـ شـیـخـ عـبـدـ القـادـرـ جـیـلـانـیـ قـدـسـ سـرـہ

اللّٰهُ بِحُرْمَتِ رَازُونِيَّا زَ حَضْرَتُ غُوثٍ صَدَّانِي مُحْبُوبٍ سِجَانِي شَخْ عَبْدُ الْقَادِرِ جِيلَانِي رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ
 اللّٰهُ بِحُرْمَتِ رَازُونِيَّا زَ حَضْرَتُ شَخْ ابْوَسَعِيدَ الْمَبَارِكَ الْجَزِيرِيِّ قَدْسَ سَرَّهُ
 اللّٰهُ بِحُرْمَتِ رَازُونِيَّا زَ حَضْرَتُ شَخْ ابْوَاحْسَنٍ عَلَى بْنِ مُحَمَّدٍ بْنِ يُوسُفَ الْقَرْشِيِّ الْهَنْكَارِيِّ قَدْسَ سَرَّهُ
 اللّٰهُ بِحُرْمَتِ رَازُونِيَّا زَ حَضْرَتُ شَخْ ابْوَالْفَرَحِ طَرْطُوسِيِّ قَدْسَ سَرَّهُ
 اللّٰهُ بِحُرْمَتِ رَازُونِيَّا زَ حَضْرَتُ شَخْ ابْوَبِعْضُلِ عَبْدُ الْوَاحِدِ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ اَتَمِيِّيِّ قَدْسَ سَرَّهُ
 اللّٰهُ بِحُرْمَتِ رَازُونِيَّا زَ حَضْرَتُ شَخْ ابْوَكَبْرِ عَبْدِ اللَّهِ الشَّبَلِيِّ قَدْسَ سَرَّهُ
 اللّٰهُ بِحُرْمَتِ رَازُونِيَّا زَ حَضْرَتُ سِيدِ الطَّائِفَةِ حَضْرَتُ شَخْ ابْوَالْقَاسِمِ جَنِيدِ بَغْدَادِيِّ قَدْسَ سَرَّهُ
 اللّٰهُ بِحُرْمَتِ رَازُونِيَّا زَ حَضْرَتُ شَخْ عَبْدِ اللَّهِ سَرِّيِّ سَقْطَنِيِّ قَدْسَ سَرَّهُ
 اللّٰهُ بِحُرْمَتِ رَازُونِيَّا زَ حَضْرَتُ شَخْ مَعْرُوفَ كَرْخِيِّ قَدْسَ سَرَّهُ
 اللّٰهُ بِحُرْمَتِ رَازُونِيَّا زَ حَضْرَتُ شَخْ دَاؤُدَ طَائِيِّ قَدْسَ سَرَّهُ
 اللّٰهُ بِحُرْمَتِ رَازُونِيَّا زَ حَضْرَتُ شَخْ جَبِيبَ جَمِيعِيِّ قَدْسَ سَرَّهُ
 اللّٰهُ بِحُرْمَتِ رَازُونِيَّا زَ حَضْرَتُ شَخْ اَجْلِ مَرْشِدِ اَكْمَلِ حَضْرَتُ شَخْ حَسَنِ بَصْرِيِّ قَدْسَ سَرَّهُ
 اللّٰهُ بِحُرْمَتِ رَازُونِيَّا زَ حَضْرَتُ اَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ اَمَامِ الْمَشَارِقِ وَالْمَغَارِبِ اَسَدِ اللَّهِ الْعَالِبِ عَلَى اَبْنِ اَبِي طَالِبٍ كَرْمِ اللَّهِ وَجْهٌ
 اللّٰهُ بِحُرْمَتِ رَازُونِيَّا زَ سَيِّدُ الْأُولَئِينَ وَالآخِرَيْنَ اَفْضَلُ الْاَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِيْنَ خَاتَمُ النَّبِيِّيْنَ شَفِيعُ
 الْمُذْنِبِيْنَ رَحْمَةً لِلْعَالَمِيْنَ مُحَمَّدُنَّ الْمُصْطَفَى فِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَ
 آصْحَابِهِ اَجْمَعِيْنَ وَسَلَّمَ تَسْلِيْمًا مَبَارِكًا كَثِيرًا كَثِيرًا۔

بیعت وارادت قادری

دریں سلسلہ قادریہ عالیہ مقبول و پذیری باور

اللّٰهُ بِحُرْمَتِ جَمِيعِ حَضَرَاتِ قَادِرِيَّہ رَحْمَةُ اللَّهِ تَعَالَیٰ عَلَيْہِمْ اَجْمَعِینَ بِرَحْمَةِ قَادِرِیَّہ فَرْمَاءِ عَاقِبَتِشِ بَخِیرِ گردانِ واژ فیوضِ مرشدانِ حَظٍ وَافْرَوْنَصِیْبٍ مَوْکَاثِرٍ مَعَ اسْتِقَامَتِ شَرِیْعَتِ عَطَا فَرْمَاءً۔ آمِينَ آمِينَ آمِينَ
 بر حمتك يا رحم الرحيم۔

Talib E Dua

محمد عامر علی قادری

ابن

محمد عضمت الدین قادری صاحب

